


اردو محاورات کا تہذیبی مطالعہ

ڈاکٹر عشرت جہاں ہاشمی



اردو محاورات کا تہذیبی مطالعہ

ڈاکٹر عشرت جہاں ہاشمی



نشریات

الحمد مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: 0321-4589419

جملہ حقوق محفوظ

۲۰۱۵ء

نام کتاب: _____ اُردو فحاشا و سرات کا پہلی بی بی فطالہ

مصنف: _____ ڈاکٹر عشرت جہاں ہاشمی

اہتمام: _____ اشپات

حروف خوانی: _____ وحی اللہ کوہگر

سینک: _____ محمود فرید

مطبع: _____ شفیق پریس

صفحات: _____ ۳۶۸

جلد ساز: _____ بنیامین

ڈسٹری بیوٹرز

فصلی کتاب

فاضلہ اسلامیات پبلسنگز پرائیویٹ

اردو بازار، نزد ریلوے یو پاکستان، کراچی۔

فون: 32212991-32629724

کتاب سرائے

پبلشرز، ڈسٹری بیوٹرز،
مشیران کتب خانہ جات



فرسٹ فلور، الحمد مارکیٹ، غزنی سٹریٹ

اردو بازار، لاہور فون: 37320318، 37239884

ای میل: Kitabesray@hotmail.com

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|--|------|-----------------------------------|
| ۶۰ | اٹھکھیلیاں کرنا | ۲۷ | حرف چند |
| ۶۱ | اُجلی یا اُجلی سمجھ، اُجلی طبیعت | ۳۸ | اردو محاورات اور |
| ۶۱ | اچھانکا | | زبان و بیان میں اس کی اہمیت |
| ۶۱ | اچاپت اٹھانا | ۴۳ | پیش حرف (مقدمہ) |
| ۶۲ | اُروئے معلیٰ | ۵۲ | محاورات |
| ۶۲ | اُردلی میں رہنا، اُردلی کرنا، اُردلی میں چلنا | | ردیف ___ الف |
| ۶۲ | ارٹڈ کی جڑ | ۵۲ | اُبلابلا، اُبالا سبالا |
| ۶۳ | ارواح بھٹکنا | ۵۲ | اُبلاپری، اُبلارانی ہونا |
| ۶۳ | ارے ترے کرنا (اُبے تے کرنا) | ۵۳ | ابجد خواں ہونا |
| ۶۳ | اُڑالینا، یا اُڑا دینا، اُڑنا | ۵۴ | اپنے تئیں شاخ زعفران سمجھنا |
| ۶۵ | اُڑنا، رکاوٹ بننا | ۵۴ | اپنا اُلوسیدھا کرنا |
| ۶۶ | اُڑنگ بڑنگ | ۵۵ | اپرادھ ہرنا (ہڑنا) |
| ۶۶ | اُڑی اُڑی طاق پر بیٹھی | ۵۵ | اپنی اور نہارو، اپنی طرف خیال کرو |
| ۶۷ | اُزار بندی کا رشتہ یا اُزار بند کا رشتہ۔ کمر بندی رشتہ | ۵۶ | اپنی اڑی دیکھو |
| ۶۷ | ازغیبی گولایا ازغیبی دھکا | ۵۶ | اپنی رادھا کو یاد کرو |
| ۶۸ | اِس کان سننا، اُس کان اُڑا دینا | ۵۷ | اپنی کھال میں مست ہونا |
| ۶۸ | (اش اش کرنا) عیش عیش کرنا | ۵۷ | اپنی گڑیا آپ سنوارنا |
| ۶۸ | اِشتعال دینا یا اِشتعالک پیدا کرنا | ۵۸ | اپنی گوں کا یار |
| ۶۹ | افرا تفری | ۵۸ | اپنی چھا کو کون کھٹی کہتا ہے |
| ۶۹ | افلاطون ہونا، افلاطون بننا | ۵۸ | اپنی بات کا تیج کرنا |
| ۶۹ | افواہ پھیلانا، افواہ اُڑانا | ۵۹ | اپنے نصیبوں کو رونا |
| ۷۰ | اُلٹا تو اہونا | ۵۹ | اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا |
| ۷۰ | اُلٹی سانسیں آنا یا اُلٹے سانس آنا | ۵۹ | اپنی اپنی پڑنا |
| ۷۰ | اُلٹ کرنا | ۶۰ | اپنا کیا دھر اسب بیکار ہونا |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|---|
| ۷۸ | اُونچی ناک کرنا یا ہونا، نیچی ناک کرنا یا ہونا | ۷۱ | الگ پڑنا، الگ تھلک ہو جانا یا الگ تھلک کر دیا جانا |
| ۷۸ | اے گہلے پھرنا، خوش خوش ہونا | ۷۱ | اللہ اللہ کرنا |
| ۷۸ | ایرے غیرے | ۷۲ | اللہ آمین سے بچہ پالنا، یا اللہ آمین کا بچہ ہونا |
| ۷۹ | ایسی تیسی میں جائے یا جا | ۷۲ | اللہ ماری یا اللہ مارا یا خدا ماری |
| ۷۹ | ایک منہ، یا ایک زبان ہونا - ہزار منہ اور ہزار زبانیں ہونا | ۷۲ | اللہ والا، خدا رسیدہ، بہت نیک |
| ۷۹ | اینڈ اینڈ اچھرا نا، ڈولنا | ۷۲ | اللہ کے گھر سے پھرنا |
| ۷۹ | آنخوڑے بھرنا | ۷۲ | الہی مہر ہونا |
| ۸۰ | آبروریزی کرنا | ۷۲ | (اللہ کا جی) جیو جان ہونا |
| ۸۰ | آب حیات ہونا | ۷۳ | إِلَّذِي نَهَ أَلَّذِي نَهَ إِدْهَرَ كَانَهُ أَدْهَرَ أَلِي |
| ۸۱ | آبنوس کا کندا ہونا | | الَّذِينَ وَلَا أَلِي الَّذِينَ |
| ۸۲ | آب وداشہ اٹھ جانا | ۷۳ | اپنا خون بہانا |
| ۸۲ | آب و رنگ | ۷۴ | اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ |
| ۸۳ | آپ بیتی۔ اپ بیتی | ۷۴ | اُلٹی پٹی پڑھانا |
| ۸۳ | آپ سوار تھی | ۷۴ | اُلٹی گنگا پہاڑ کو، یا اُلٹی گنگا بہانا |
| ۸۴ | آپ روپ | ۷۵ | اللہ اکبر، اللہ اکبر کرنا یا اللہ اللہ کر دینا اللہ |
| ۸۴ | آپ سے باہر ہونا یا آپ سے باہر ہونا | | کا نام لو |
| ۸۵ | آدھا تیرا آدھا بٹیر | ۷۵ | اللہ آمین کا بچہ یا اللہ تو کلی، اللہ کا نور، اللہ کی جان |
| ۸۵ | آدمیوں کا بن یا جنگل | ۷۶ | اُکھاڑ پچھاڑ |
| ۸۶ | آدمیت پکڑنا | ۷۷ | اُکھڑی اُکھڑی باتیں کرنا |
| ۸۶ | آدھی رات ادھر، آدھی رات ادھر | ۷۷ | انگاروں پر لوٹنا، انگارے بچھانا، انگار بھرنا، |
| ۸۶ | آدھوں اُدھ کرنا | | انگارے مارنا |
| ۸۷ | آڑے ہاتھوں لینا | ۷۷ | اوپری پرانے، بھوت پریت |
| ۸۸ | آزاد کا سونٹا (فقیر) | ۷۸ | اوکھلی میں سر دینا |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|---|
| ۹۸ | آپا دھاپی پڑنا | ۸۸ | آس |
| ۹۸ | آپے سے باہر ہونا | ۸۹ | آسامی بنانا |
| ۹۸ | آنچل میں بات باندھنا | ۸۹ | آستین کا سانپ ہونا |
| ۹۹ | آنسو نکل پڑنا، آنسو پونچھنا، آنسو پینا، | ۸۹ | آستینوں میں بت چھپائے رکھنا |
| | آنسو ڈالنا، آنسو سے منہ دھونا، آنسوؤں کا | ۹۰ | آسمان پر اڑنا۔ آکاس پھل |
| | تار باندھنا | ۹۱ | آسن |
| | ردیف _____ ب | ۹۱ | آفت توڑنا |
| ۱۰۲ | بارہ باٹ کرنا یا ہونا | ۹۲ | (آفت کا پرکالہ) لپکتا ہوا شعلہ |
| ۱۰۲ | بارہ بانی کا ہو جانا | ۹۲ | آکھ کی بڑھیا |
| ۱۰۳ | بازار کے بھاؤ پٹنا | ۹۳ | آگاتا گالینا |
| ۱۰۴ | بازی دینا یا کرنا، بازی کھانا، بازی لگانا | ۹۳ | آگ پیچھا دیکھنا |
| | یابدلنا، بازی لے جانا | ۹۳ | آگارو کنا |
| ۱۰۴ | بازی ہار جانا | ۹۴ | آگ بگولہ ہونا |
| ۱۰۵ | (بامں) برہمن کی بیٹی کلمہ پڑھے یا بھرے | ۹۴ | آگ لگانا، آگ بجھانا، یا لگائی بجھائی کرنا |
| ۱۰۵ | بانٹیا یا بانٹے | ۹۵ | آگے آگے چلنا یا ہونا، آگوا گو کرنا |
| ۱۰۵ | بانسوں اچھلنا | ۹۵ | آگے خدا کا نام |
| ۱۰۶ | باہر کا ہونا باہر کر کے، باہر کرنا، باہر کی بو، | ۹۵ | آگے سے ہوتی آئی ہے |
| | باہر کی پھرنے والی، باہر والا، باہر والی | ۹۶ | آگے کا اٹھا کر کھانے والا، یا آگے کا |
| ۱۰۷ | بیتی بجنا، بیتی بند ہو جانا، بیتی دکھانا | | اٹھا کے کھانا |
| ۱۰۷ | بجلی پڑے، ٹوٹے یا گرے | ۹۶ | آگے ڈالنا |
| ۱۰۷ | بجرگ پڑنا | ۹۶ | آگے کو کان ہونا |
| ۱۰۷ | بچن بد ہونا، بچن دینا | ۹۷ | آگے ہاتھ پیچھے پات |
| ۱۰۸ | بد لگام ہونا | ۹۷ | آپ سے خوب خدا کا نام |
| ۱۰۸ | برا وقت، برے دن، بری گھڑی | ۹۷ | آیادیکھنا |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|--|------|--|
| ۱۱۴ | بے چراغ کرنا، بے چراغ ہونا | ۱۰۸ | بڑی چیز، بڑی روٹی، بڑا کھانا، بڑے |
| ۱۱۴ | بیس بسولے | | گھر کی بیٹی، بڑا نام، بڑا بولا |
| ۱۱۴ | بیل منڈھے ہونا یا چڑھنا، بیل پڑنا، بیل بدھنا | ۱۰۹ | بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کا گنبد ہونا، بسم اللہ کی برکت |
| ۱۱۵ | بے نمک ہونا | ۱۰۹ | بغضِ الہی |
| ۱۱۵ | بیوی کا دانہ یا کوٹڈا، بیوی کی صحتک یا نیاز | ۱۰۹ | بغل کا دشمن، بغلی گھونسا ہونا |
| | بیوی کی فاتحہ | ۱۰۹ | بغل گرم کرنا |
| ۱۱۵ | بیوی کا غلام ہونا | ۱۱۰ | بکھیڑا، بکھیڑے میں پڑنا، بکھیڑنا |
| | ردیف — پ | ۱۱۰ | بل بل جانا، بلہاری جانا |
| ۱۱۶ | پاپوس ہونا | ۱۱۰ | بندوق بھرنا، بندوق لگانے کا ندھے ہونا |
| ۱۱۶ | پاپ چڑھنا، پاپ ہونا، پاپ کرنا، پاپ سے بچنا، پاپ کا ثنا، پاپ کھانا | ۱۱۰ | بوٹی بوٹی پھڑکتی ہے، بوٹی بوٹی کر ڈالنا، بوٹیاں چبانا، بوٹیاں چیلوں کو ڈالنا، بوٹی بوٹی تھرکنا |
| ۱۱۷ | پاپڑ بیلنا، پاپڑ پیٹنا | ۱۱۱ | بول اٹھنا، بول بالا ہے، بول بالا ہونا، بول جانا، بولنے پر آنا، بولیاں بولنا، بولیاں سننا، بول سنا |
| ۱۱۷ | پاپوش بھی نہ ماروں، پاپوش پر مارنا، پاپوش سے یا پاپوش کی نوک سے، پاپوش کی برابر سمجھنا | ۱۱۱ | بھاگ پھوٹنا، بھاگتے کی لنگوٹی، بھاگتے بھوت کی لنگوٹی، بھاگ جاگنا یا کھلنا، بھاگ لگنا، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹنا |
| ۱۱۷ | پاسا پڑنا، پاسا پلٹنا | ۱۱۲ | بھرا بھتولا، بھرا پرا، بھری بھتولی |
| ۱۱۷ | پال ڈالنا | ۱۱۳ | بھرم کھل جانا، بھرم باقی رہنا |
| ۱۱۸ | پانی پانی کرنا، پانی پانی ہونا، پانی پڑنا، پانی پھر جانا، (کون کتنے پانی میں ہے) پانی توڑنا پانی ڈالنا، پانی دکھانا، پانی دینا، پانی ڈھلنا (آنکھوں کا پانی ڈھل گیا ہے) پانی رکھنا یا بھرنا، پانی چھوٹنا، پانی پی کر کوشنا، پانی پی کر ذات پوچھنا، پانی کا بتا سا یا بلبللا وغیرہ | ۱۱۳ | بہشت کا جانور، بہشت کا میوہ، بہشت کی قمری، بہشت کی ہوا |
| | | ۱۱۴ | بیٹی کا باپ |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|--|
| ۱۲۵ | پیر پھیرنے جانا | ۱۱۹ | پاؤں اکھڑنا، پاؤں اکھاڑنا، پاؤں جمنا |
| ۱۲۵ | پیرنا بلخ | | یا جمنا، پاؤں پڑنا، پاؤں باہر نکالنا، پاؤں |
| ۱۲۵ | پیندی کا ہلکا ہونا، پیندی کے بل بیٹھ جانا | | ملنا، پاؤں ٹپکنا، پاؤں پسارنا، پاؤں پر |
| ۱۲۵ | پیوند ہماری اوقات ہے | | سر رکھنا پاؤں میں ٹوپی پگڑی یا ڈوپٹہ ڈالنا |
| | ردیف _____ ت | | پاؤں پاؤں چلنا یا پیادہ بنا |
| ۱۲۶ | تاک لگانا، تاک میں رہنا | ۱۱۹ | پاؤں پاؤں پھونک پھونک کر رکھنا |
| ۱۲۶ | تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجاتی | ۱۲۰ | پاؤں پھیرنے جانا |
| ۱۲۶ | تجاہل عارفانہ | ۱۲۰ | پاؤں پیٹ پیٹ کر مرنا، پاں پیٹا، پاں پٹنا |
| ۱۲۶ | تعز یہ ٹھنڈا ہو جانا | ۱۲۰ | پاں میں مہندی لگا ہونا یا لگنا |
| ۱۲۷ | تقدیر پھرنا، تقدیر کا لکھایوں تھا، تقدیر کا بنا، | ۱۲۰ | پتھر برسنا، یا پتھر اکرنا، پتھر پڑنا |
| | تقدیر کا پلٹا کھانا، تقدیر کا دامن، تقدیر کا کھیل | ۱۲۱ | پتھر چھاتی پر دھرنا یا دل پر پتھر رکھنا |
| ۱۲۷ | تلوار کو میان میں رکھنا، تلوار کی آنچ، تلوار | ۱۲۱ | پرانے مردے اکھیڑنا |
| | گر جانا، تلوار میان سے نکلی پڑتی ہے، | ۱۲۱ | پرائی آنکھیں کام ہیں آتیں |
| | تلواروں کی چھاؤں میں | ۱۲۲ | پرائے شگون کے لیے اپنی ناک کیوں کٹواتا ہے |
| ۱۲۷ | تمھارے منہ میں کبھی شکر یا گھی کھاؤ | ۱۲۲ | پر چھاواں پڑنا، پر چھاویں سے بچنا یا دور |
| ۱۲۸ | تینکے کا احسان ماننا، تینکے کا سہارا، تینکے کو | | بھاگنا |
| | پہاڑ کر دکھانا، تینکا تینکا کر دینا | ۱۲۳ | پردہ ڈالنا یا اٹھا دینا، پردہ پوشی، پردہ داری، |
| ۱۲۹ | تن من دارنا | | پردہ ہونا |
| ۱۲۹ | تن من میں پھولے پھولے نہ سمانا | ۱۲۳ | پلیتھن نکالنا یا نکلنا |
| ۱۲۹ | تنگ حال ہونا، تنگ وقت ہونا، تنگ ہاتھ | ۱۲۴ | پھوٹ پڑنا یا ہونا، پھوٹ ڈالنا |
| | ہونا | ۱۲۴ | پھول کھیلنا، پھول کی جگہ پکھڑی، پھول نہیں |
| ۱۳۰ | تازہ کرنا | | پکھڑی ہی سہی، پھول کی چھڑی بھی نہیں |
| ۱۳۰ | تیوری بدلنا یا چڑھانا تیوری میں بل ڈالنا | | لگائی، پھولوں کا گہنا، پھولوں کی چھڑی، |
| | تیوری کا بل کھلنا | | پھولوں کی بیج، پھولوں میں ملنا، پھول پان |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|--|------|---|
| | | | رَدِیْف _____ ث |
| ۱۳۶ | جان پر کھیلنا، جان دینا، جان پڑنا، جان ۱۳۶ | ۱۳۰ | ٹاپا توڑ نکل جانا |
| | جانا، جان جھوکننا، جان چرانا، جان چھڑانا، | ۱۳۱ | ہالم ٹول (خال مٹول) کرنا |
| | جان چھوڑنا، جان سکھنا، جان سے جانا، | ۱۳۱ | ٹانکا ٹوٹ جانا، ٹانکے کا کچا ہونا، ٹانکے |
| | جان سے زیادہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، | | کھل جانا |
| | جان جوکھوں میں ڈالنا، جان ہوا ہونا وغیرہ | ۱۳۱ | ٹسر ٹسر رونا، ٹسولے بہانا |
| ۱۳۶ | جانے کے لچھن ہیں | ۱۳۱ | ٹکر ٹکر دیکھنا |
| ۱۳۷ | جگ جیے، یا جے، جگت لڑنا | ۱۳۲ | ٹکر ٹکر لگنا، ٹکر کھانا |
| | جلتی آگ میں تیل ڈالنا، جلتی پرتیل ۱۳۷ | | ٹکسالی بولی، زبان، ٹکسالی بول چال، ۱۳۲ |
| | چھڑکنا، جلتے کو جلانا، جی جلنا، جی جلانا | | ٹکسالی محاورہ، ٹکسالی باہر |
| | جلے پر ون یا نمک چھڑکنا یا لگانا، جلے ۱۳۷ | | ٹوپا اتارنا، ٹوپا پیروں میں ڈالنا، ٹوپا ۱۳۲ |
| | پھپھولے پھوڑنا، دل کے پھپھولے پھوڑنا | | اچھالنا، ٹوپا بدلنا |
| | جلی کٹی سنانا، جل اٹھنا | | رَدِیْف _____ ج |
| | جنگل میں منگل ہونا، جنگل میں مور ۱۳۷ | | ثابت قدم رہنا یا ثابت قدمی دکھانا |
| | ناچا کس نے دیکھا | ۱۳۳ | ثواب کمانا |
| | جنم سدھر جانا، جنم جنم کی دوستی، جنم جنم کا بیر، ۱۳۸ | | رَدِیْف _____ ج |
| | جنم جنم کا ساتھ، جنم میں تھوکننا | | جادو لگانا، جادو چلانا، ڈالنا، کرنا، مارنا، ۱۳۳ |
| ۱۳۸ | جو بن اُمنڈنا، یا اُبھرنا | | جادو کا پتلا |
| | جوڑ توڑ، جوڑ توڑ کرنا، جوڑ جوڑ یا جوڑ جوڑ کر ۱۳۹ | | جاگرن کرنا |
| | مر جانا، جوڑ جوڑ کے دھرنا، جوڑ جوڑنا، جوڑ | ۱۳۵ | جال بچھانا، پھیلانا، یا ڈالنا، جال میں ۱۳۵ |
| | چلنا، جوڑ لگانا، جوڑ یا سجوگ | | پھنسا، یا پھنسانا |
| ۱۳۹ | جو گر جتے ہیں وہ برستے نہیں | | جامے سے باہر ہو جانا یا جامے میں ۱۳۵ |
| ۱۴۰ | جونک پتھروں میں نہیں لگی | | پھولا نہیں سمانا، جامہ زیب ہونا |
| ۱۴۰ | جی ہے تو جہان ہے (جان ہے تو جہان ہے) | | |
| | (ہے) | | |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|--|------|--|
| ۱۴۷ | چھاتی پر پتھر رکھنا، چھاتی پر سانپ لوٹنا، چھاتی پر مونگ دلنا، چھاتی میں گھونسہ مارنا، چھاتی پکنا، چھاتی پیٹنا، کوٹنا، چھاتی سے لگانا، چھاتی تلے رکھنا، چھاتی ٹھکنا، چھاتی ٹھنڈی کرنا یا ہونا، چھاتی جلنا، چھاتی چھلنی ہو جانا، چھاتی دبانا یا لینا، چھاتی دھڑکنا، چھاتی نکال کر یا ابھار کر چلنا | ۱۴۰ | چادر اترنا یا اتارنا |
| ۱۴۷ | چھٹی کا دودھ یاد آنا | ۱۴۱ | چار آنکھیں ہونا یا چار چشم ہونا |
| ۱۴۸ | چہرہ لکھنا، چہرہ بندی کرنا | ۱۴۱ | چال چلنا، چال میں آنا |
| ۱۴۸ | چھلکے چھوٹ جانا | ۱۴۲ | چاندنی مار جانا |
| ۱۴۸ | چھلنی میں ڈال کر چھاج میں اڑانا | ۱۴۲ | چائیں چائیں مچانا یا لگانا |
| ۱۴۹ | چہ میگوئیاں | ۱۴۲ | چراغ بتی کرنا، چراغ بتی کے وقت، چراغ جلے، چراغ بڑھانا، چراغ کو ہاتھ دینا، چراغ ٹھنڈا، خاموش، یا گل کرنا، چراغ پا ہونا، چراغ رخصت ہونا، چراغ صحری، چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ تلے یا نیچے اندھیرا |
| ۱۴۹ | چھوٹا منہ بڑی بات | ۱۴۳ | چشم پوشی کرنا |
| ۱۴۹ | چھوٹی موٹی | ۱۴۳ | چمک چاندنی |
| ۱۴۹ | چھینٹا دینا چھینٹا پھینکنا | ۱۴۳ | چندے آفتاب، چندے ماہتاب، چودہویں رات کا چاند |
| ۱۵۰ | چیتھڑے بکھیرنا یا اڑانا چیتھڑے چیتھڑے کر دینا | ۱۴۳ | چور کی داڑھی میں تنکا۔ چور محل، چوری اور سینا زوری یا چوری اور سینہ زوری، چوری چوری، چوری چھپے، چور کی ماں کوٹھی میں سر دیوے۔ اور رووے۔ چورنی دیدہ، چوری چتکاری یا چوری جاری |
| ۱۵۰ | چیل کی طرح منڈلاتے پھرنا یا چیل کو وں کی طرح منڈلانا | ۱۴۵ | چوڑیاں پہنانا چوڑیاں پہننا، چوڑیاں ٹھنڈی کرنا |
| ۱۵۰ | چیں بولنا یا بلوانا | ۱۴۶ | چولی دامن کا ساتھ |
| ۱۵۰ | چیونٹی کے پر نکلے ہیں | ۱۴۶ | چھاتیاں چڑھنا، چھاتی بھر جانا |
| | ردیف ح | | |
| ۱۵۱ | حاشیہ چڑھانا | | |
| ۱۵۱ | حاضری دینا یا حاضری میں کھڑا رہنا | | |
| ۱۵۱ | حرام موت مرنا | | |
| ۱۵۲ | حرف آنا، حرف اٹھانا، حرف آشنا، حرف بنانا، حرف پکڑنا، حرف لانا | | |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|--|
| ۱۵۷ | خون پینا، خون جگر پینا، خون سرچڑھنا خون سفید ہونا، خون کا پیاسا، خون کا دشمن ہونا، خون اترنا، خون سوار ہونا، خون کے بدلے خون، | ۱۵۲ | حشر توڑنا یا برپا کرنا، حشر دیکھنا، حشر کا دن ہونا، حشر کا سا ہنگامہ ہونا |
| ۱۵۸ | خیالی پلاؤ پکانا | ۱۵۲ | حلق بند کرنا، حلق چوں کرنا، حلق دبانا |
| | ردیف ___ د | ۱۵۳ | حور کا بچہ |
| ۱۵۸ | داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے | | ردیف ___ خ |
| ۱۵۹ | دادو دینا، داد کو پہنچنا، داد نہ فریاد | ۱۵۳ | خار رکھنا، خار گزرنا |
| ۱۵۹ | داغ دینا، داغ اٹھانا، داغ بیل ڈالنا، داغ لگانا، یاد داغ لگانا | ۱۵۳ | خاص خاص، خاص محل، خاص اور خاصہ |
| ۱۶۰ | دال روٹی سے خوش ہونا، دال روٹی صبر و شکر سے کھانا | ۱۵۴ | خاطر میں رکھنا، خاطر میں لانا، یا نہ لانا |
| ۱۶۱ | دال میں کچھ کالا ہے، دال نہ گلنا | ۱۵۴ | خاک اڑانا، خاک ڈالنا، خاک چھاننا، خاک چائنا، خاک ہو جانا، خاک پھاننا، خاک میں ملنا وغیرہ |
| ۱۶۱ | دام میں آنا، دام میں لانا، دامن پکڑنا، دامن پھیلانا، دامن جھاڑنا، دامن جھٹکنا، دامن سے لگنا | ۱۵۵ | خاک و خون میں ملنا |
| ۱۶۲ | دانت بچنا، دانت پینا، دانت کاٹی روٹی ہونا، دانت دکھانا | ۱۵۵ | خام پارہ |
| ۱۶۲ | دانتوں میں اُنکلی دینا دانتوں تلے اُنکلی کاٹنا یا داہنا، دانتوں میں تنکا لینا، دانت ہونا | ۱۵۵ | خانہ خراب ہونا |
| ۱۶۳ | داؤں پر اڑنا۔ داؤں پر چڑھنا، داؤں کرنا، داؤں کھا جانا، داں لگنا، داں میں آنا، داؤں کھیلنا، داؤں پر لگانا۔ وغیرہ | ۱۵۵ | خدا خراب کرنا |
| ۱۶۳ | دائیں بائیں کر دینا، دہلی آگ کر دینا، دہلی بلی چوہوں سے کان کترواتی ہے یا بھیگی بلی چوہوں سے کان کترواتی ہے | ۱۵۵ | خدا رکھے۔ خدا سمجھے، خدا سے لو لگنا، خدا کا گھر، خدا کی پناہ، خدا ماری (اللہ ماری)، خدا بخش (اللہ بخش، الہی بخش، مولا بخش) وغیرہ۔ (خدا کی اگر نہیں چوری تو بندہ کی کیا چوری، خدا کی سنوار اللہ کی سنوار خدا کے گھر سے پھرنا، خدائی خوار، خدائی خراب، خدائی دعویٰ کرنا) |
| | | ۱۵۶ | خلوت و جلوت، خلوت اختیار کرنا، خلوت میسر آنا، خلوت پسند ہونا، خلوت نشیں ہونا |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|---|
| ۱۷۰ | دم آنکھوں میں اٹکنا، دم بخود رہ جانا، دم ۱۷۰ | ۱۶۳ | دروازے کی مٹی |
| | توڑنا یا ٹوٹنا، دم چرانا، دم میں دم آنا | ۱۶۵ | دریا، دریادلی، دریا میں ڈالنا، دریا کو کوزے |
| ۱۷۰ | دن کو تارے نظر آنا یا دکھانا، دن کو دن اور ۱۷۰ | | میں بند کرنا، دریا کو ہاتھ سے روکنا |
| | رات کو رات نہ سمجھنا یا تارے گننا | ۱۶۶ | دریا میں رہنا مگر مچھ سے بیر کرنا |
| ۱۷۱ | دودو منہ ہنسنا | ۱۶۶ | دست بدست دینا، دست درازی کرنا |
| ۱۷۲ | دودھ بڑھانا، دودھ بھرا آنا | ۱۶۷ | دسترخوان بڑھانا |
| ۱۷۲ | دوکوڑی کا آدمی، دوکوڑی کی بات کر دینا، ۱۷۲ | | دست گرداں، دسواں دوار کھل جانا، دست |
| | دوکوڑی کی عزت ہو جانا، دوکوڑیوں کے | | وپا مارنا، دسوں انگلیاں دسوں چراغ |
| | مول پکنا کوڑی پھیرا ہونا | ۱۶۸ | دعوت شیراز |
| ۱۷۳ | دونوں گھر آباد ہونا، دونوں وقت ملنا، ۱۷۳ | | دل اٹھنا، دل اچاٹ ہونا، دل آنا، دل |
| | دونوں ہاتھ تالی بجتی ہے، دونوں ہاتھوں | | بجھنا، دل برا کرنا، دل بڑھانا، دل بھاری |
| | سلام کرنا، دونوں ہاتھ جوڑنا، دودو ہاتھ اچھلنا | | کرنا، دل دھڑکنا، دل بھرا آنا، دل بیٹھ جانا، |
| ۱۷۴ | دھبا، دھبا لگنا، دھبا آنا | | دل پانا، دل دھڑکنا، دل پرچوٹ لگنا، دل |
| ۱۷۴ | دھجی، دھجیاں اڑانا، دھجیاں اڑنا، دھجیاں ۱۷۴ | | پر نقش ہونا، دل پر ہاتھ رکھنا، دل دہی کرنا، |
| | لگنا، دھجیاں ہونا، دھجی دھجی ہونا | | دل پکنا، دل پھٹنا، دل پھیکا ہونا، دل توڑنا، |
| ۱۷۵ | دھرم کرنا، دھرم لگتی کہنا، دھرم سے کہتا ہوں ۱۷۵ | | دل ٹوٹنا، دل ٹھکانے لگانا، دل جلانا، دل |
| ۱۷۵ | دھرے اڑانا | | جلنا، دل جمننا، دل چیر کر دیکھنا، دل خوش |
| ۱۷۵ | دہلی کا کتا، دہلیز کا کتا، دہلیز نہ جھانکنا | | کرنا، دل سے دل ملنا، دل سے گرنا، دل |
| ۱۷۶ | دہلی کے لیولے ڈالنا | | برداشتہ ہونا، دل سے دھواں اٹھنا، دل کا |
| ۱۷۷ | دھند کا پیارا ہونا | | بخار نکالنا، دل کا خریدار، دل کی بھڑاس نکالنا |
| ۱۷۷ | دھن دھن کرنا | | دماغ تازہ کرنا، دماغ ہونا، دماغ خالی ۱۶۹ |
| ۱۷۷ | داسنے اور بائیں ہاتھ سے ایک ساتھ کھانا ۱۷۷ | | ہونا، دماغ روشن ہونا، دماغ میں خلل ہونا، |
| | حرام ہے | | دماغ نہ ہونا |
| ۱۷۸ | دھنیے کی کھوپڑی میں پانی پلانا | | |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|--|
| ۱۸۶ | ڈھائی چلو لہو پینا یا پلانا، ڈیڑھ اینٹ کی مسجد چننا | ۱۷۸ | دھواں دھار برنا |
| ۱۸۷ | ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے | ۱۷۹ | دھوپ میں بال سفید کرنا |
| ۱۸۷ | ڈھونگ رچانا، ڈینگ مارنا | ۱۸۰ | دھول اڑانا یا خاک اڑانا |
| ۱۸۷ | ڈھیل دینا، ڈھیلی ڈور چھوڑنا یا کرنا، ڈور ڈھیلی کرنا | ۱۸۰ | دہلیز کا کتا، دہلیز نہ جھانکنا |
| | رویف _____ | ۱۸۰ | دہلی کے لیولے ڈالنا، یا لے ڈالنا |
| ۱۸۸ | رات تھوڑی ہے سانگ بہت ہے | ۱۸۱ | دھوم ڈالنا، دھوم مچانا، دھوم ہونا |
| ۱۸۹ | راجا اندر کا اکھاڑا | ۱۸۱ | دھونس دینا، دھونس میں آنا، دھونس کی چلنا |
| ۱۸۹ | راستہ یا راستہ بتانا یا دیکھنا راستہ پر آنا، راستہ یا راستہ ناپنا۔ راہ لگانا، راہ پیدا کرنا | ۱۸۲ | دھینگا دھینگا کرنا |
| ۱۹۰ | رام رام کرنا (رام رام جینا) رام نام کی لوٹ، رام دہائی، رام کی کہانی، رام کی مایا، رام لیلیا، رام کی بچھیا | ۱۸۲ | دیدہ شنید |
| ۱۹۰ | رستم یا افلاطون کا سالا | ۱۸۲ | دیدہ دلیر، دیدہ دلیری، دیدہ دھوئی، دیدہ ریزی، دیدہ ہوائی ہونا، دیدے کا پانی ہونا، دیدے کی صفائی دیدے نکالنا |
| ۱۹۱ | رس مارے رسائیں ہو | ۱۸۳ | دیواریں چائنا، دیوار کھینچنا، دیوار ڈھانا، دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، دیوار قہقہہ ہونا، دیوار اٹھانا، دیوار اٹھنا، دیوار کوٹھے چڑھنا |
| ۱۹۱ | رسی جل گئی پر بل نہیں جلا، یا رسی جل گئی پر بل نہیں نکلا (گیا) | | ردیف _____ ڈ |
| ۱۹۲ | رفو چکر ہونا | ۱۸۳ | ڈاڑھی کا ایک ایک بال کرنا |
| ۱۹۲ | رکابی مذہب ہونا | ۱۸۳ | ڈال کا پکا، ڈال کا ٹوٹا |
| ۱۹۳ | رگ پٹھے سے واقف ہونا، رگ وریشہ میں پڑنا | ۱۸۵ | ڈنکے کی چوٹ کہنا |
| ۱۹۳ | رنگ چڑھنا، رنگ جمنایا جمانا، رنگ دیکھنا | ۱۸۶ | ڈوبنے کو تنکے کا سہارا (بہت ہوتا ہے) |
| | رنگ پھیکا پڑنا، وغیرہ | | ڈوب مرنا |
| ۱۹۳ | رنگ رلیاں منانا، رنگیں مزاج ہونا | ۱۸۶ | ڈھاک کے تین پات، ڈھائی دن کی بادشاہت، ڈھائی گھڑی کی آنا |

| صفحہ | محاورہ |
|------|--------|
|------|--------|

| صفحہ | محاورہ |
|------|--------|
|------|--------|

۱۹۹ زبانی جمع خرچ کرنا

۲۰۰ زچ کرنا، زچ ہو جانا

۲۰۰ زخم لگنا، زخم لگانا، زخم پر نمک چھڑکنا، زخم ہرا

ہونا، زخم تازہ ہونا، زخم کھانا، زخموں

کو کریدنا، زخموں پر خاک ڈالنا، زخم پہنچانا،

یا پہنچنا، زخم اٹھانا

۲۰۱ زمین آسمان کے قلابے ملانا، زمین

آسمان کا فرق ہونا، زمین پر پاں رکھنا،

زمین کو پکڑنا، زمین دیکھنا، زمین سخت

آسماں دور ہے، زمین یا دھرتی پھٹ

جائے۔ اور میں سما جاں زمین کا پاؤں کے

نیچے سے سرک جانا، زمین کا پیوند ہو جانا،

زمین میں گڑ جانا، زمین ناپنا

۲۰۲ زٹانا کرنا

۲۰۳ زنجیر کرنا یا پکڑنا، زنجیر پلانا، زنجیر کھڑکانہ

۲۰۳ زندگی سے تنگ آنا یا زندگی تلخ ہونا

۲۰۳ زوال کا وقت

۲۰۴ زور پڑنا، زور چلنا، زور دینا، زور پکڑنا،

زور مارنا زور بخشنا

۲۰۴ زہرا گلنا، زہر کھانا، زہر پینا، زہر پلانا،

زہر چڑھنا، زہراب ہونا، زہر کا سا گھونٹ

پینا، زہر میں بجھا ہوا۔

۲۰۵ زیب تن کرنا۔ زیب دینا

۱۹۴ روح بھٹکنا، روح تھرانا یا کانپنا، روح

نکالنا، روح نکلنا

۱۹۵ روغنِ قاز ملنا

۱۹۵ روٹگے یا روٹیں کھڑے ہونا، روٹگ روٹگ

میں بسنا، رونمائی دینا، روتی صورت یا شکل

رومال پر رومال بھگوننا

۱۹۶ ریت پلونا، ریت کی دیوار کھڑی کرنا

۱۹۶ ریوڑی کے پھیر میں آ جانا

۱۹۷ ریشم کے لچھے

ردیف _____ ز

۱۹۷ زار زار رونا، زار و قطار رونا، زار و نزار

۱۹۷ زبان بدلنا پلٹنا، زبان بگڑنا، زبان بند کرنا،

زبان بند ہونا، زبان بندی کرنا، زبان

پر چڑھنا، زبان پکڑنا، زبان تڑاق پڑاق

چلنا، زبان چلنا، زبان درازی کرنا، زبان

چلائے کی روٹی کھانا، زبان داب کے کچھ

کہنا، زبان داں ہونا۔ زبان دینا، زبان

روکنا، زبان سمجھنا، زبان نکالنا، زبان دینا،

زبان روکنا، زبان سمجھنا، زبان نکالنا،

زبان سنبھالنا، زبان کو لے گئی، زبان کا

چٹخارے لینا، زبان کے نیچے زبان ہے

زبان میں کانٹے پڑنا، زبانی جمع خرچ کرنا،

زبانی منہ بات ہونا، زبان گھسنا زبان

گدھی سے کھینچ لینا

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|---|
| ۲۱۴ | سر سے کفن باندھنا | | ردیف _____ |
| ۲۱۴ | سر گریبان میں ڈالنا، سردر گریبان ہونا | ۲۰۵ | سات پردوں، یا سات تالوں میں چھپا کر |
| ۲۱۴ | سر نیچا ہونا | | رکھنا، سات دھار ہو کر نکلتا |
| ۲۱۴ | سسرال کا کتا | ۲۰۶ | ساز باز کرنا |
| ۲۱۵ | سنجھالالینا | ۲۰۷ | ساکھ جاتی رہنا یا ساکھ بننا |
| ۲۱۵ | سو جان سے عاشق ہونا سو جان سے | ۲۰۷ | سانپ سونگھ جانا، سانپ کا کاٹاری سے |
| | صدقے جانا یا نثار ہونا یا نچھاور ہونا | | ڈرتا ہے، چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا |
| ۲۱۶ | سورج کو چراغ دکھانا | | ہے، سانپ مرے نہ لائھی ٹوٹے، سانپ |
| ۲۱۶ | سولی پر چڑھانا، سولی دینا | | کی طرح پھن مار کر رہ جانا، سانپ نکل گیا |
| ۲۱۷ | سونے کا نوالہ کھانا سونے میں لدی پھندی | | لکیر کو پینا کرو |
| | ہونا | ۲۰۸ | سانس نہ نکالنا |
| ۲۱۷ | سونے کی چڑیا ہاتھ میں آنا یا ہاتھ لگ | ۲۰۹ | سایہ پڑ جانا |
| | جانا، سونے کی ڈلی ہاتھ آنا | ۲۰۹ | سب چیز کی لہر بہ رہے |
| ۲۱۸ | سہاگ رات | ۲۱۰ | سبکی ہونا |
| ۲۱۸ | سپلی جیسا منہ نکلنا یا نکل آنا | ۲۱۰ | ستارہ چمکنا، ستارہ گردش میں ہونا ستارہ |
| ۲۱۹ | سیج چڑھنا، شب زفاف | | پیشانی |
| ۲۱۹ | سیدھیاں چڑھنا | ۲۱۰ | سترا بہترا |
| ۲۱۹ | سیدھی انگلیوں گھی نکالنا یا سیدھی انگلیوں | ۲۱۱ | ستم توڑنا، ستم ٹوٹنا |
| | گھی نہیں نکلتا ہے | ۲۱۱ | سٹی گم ہو جانا |
| ۲۲۰ | سیر کو سوا سیر موجود ہے | ۲۱۱ | سخت دست کہنا |
| ۲۲۰ | سیلا کر کے کھانا | ۲۱۱ | سر آنکھوں چڑھنا، سر آنکھوں میں ہونا، |
| ۲۲۱ | سینہ ابھار کر چلنا | | سر آنکھوں سے آنا، سر آنکھوں پر رکھنا |
| ۲۲۱ | سینہ بہ سینہ | ۲۱۲ | سر پر خاک ڈالنا، سر پر چھپر رکھنا |
| ۲۲۱ | سینہ سپر ہونا | ۲۱۳ | سر سے چلنا، سر کے بل چلنا |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|---|
| ۲۲۹ | شیش محل کا کتا | ۲۲۱ | سینہ زوری کرنا |
| ۲۲۹ | شیشے میں اُتارنا | ۲۲۲ | سینے سے لگانا |
| ۲۳۰ | شیطان اُٹھانا، شیطانی لشکر، شیطان سر پر | | ردیف _____ ش |
| | اُٹھانا، شیطان کا کان میں پھونک دینا، | ۲۲۲ | شاخ در شاخ ہونا |
| | شیطان کی آنت شیطان کی خالہ، شیطان | ۲۲۲ | شاخ زعفران |
| | کی ڈور، شیطان کے کان بہرے، شیطان | ۲۲۲ | شاخسانہ نکالنا یا نکلنا |
| | ہونا شیطان ہو جانا | ۲۲۲ | شادی مرگ ہونا |
| ۲۳۱ | شین قاف | ۲۲۳ | شامت آنا، شامت سر پر کھیلنا، یا شامت |
| | ردیف _____ ص | | اعمال ہونا |
| ۲۳۱ | صاحب سلامت | ۲۲۳ | شاہ عباس کا علم ٹوٹنا |
| ۲۳۲ | صاحب نسبت ہونا | ۲۲۴ | شرع میں رخنہ ڈالنا شرع پر چلنا |
| ۲۳۲ | صاف اُڑانا، صاف انکار کرنا، صاف | ۲۲۴ | شرم سے پانی پانی ہونا |
| | جواب دینا، صاف نکل جانا | ۲۲۵ | شوشہ اُٹھانا، شوشہ نکالنا |
| ۲۳۲ | صبح خیز، صبح خیزے، صبح خیز ہونا | ۲۲۵ | شکار ہونا، شکار کرنا |
| ۲۳۳ | صبح شام کرنا | ۲۲۵ | شکل بگاڑنا شکل بنانا شکل سے بیزار ہونا |
| ۲۳۳ | صبر پڑنا، صبر لینا، صبر کا پھل بیٹھا، صبر بڑی | ۲۲۶ | شکم پرور، شکم سیر، شکم پوری |
| | چیز ہے | ۲۲۶ | شگون کرنا، شگون ہونا |
| ۲۳۴ | صحبت اٹھانا، صحبت داری، صحبت گرم | ۲۲۷ | شگوفہ چھوڑنا، شگوفہ کھلنا |
| | ہونا، صحبت نہ رہنا | ۲۲۸ | شہد سا بیٹھا، شہد لگا کر چاٹو، شہد لگا کے الگ |
| ۲۳۴ | صحنک سے اُٹھ جانا، غائب ہو جانا، بے | | ہو جانا |
| | تعلق قرار دیا جانا | ۲۲۸ | شیخ چلی |
| ۲۳۴ | صل علی کہنا | ۲۲۸ | شیخی بگھارنا، شیخی کر کر کر ہونا، شیخی مارنا، |
| ۲۳۵ | صلواتیں سنانا | | شیخی میں آنا |
| | | ۲۲۹ | شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|--|
| ۲۳۱ | طنطنہ دکھانا | ۲۳۵ | صندل کے چھاپے منہ پر لگنا، صندل کی سی |
| ۲۳۱ | طور بے طور ہونا | | تختی، صندل گھنا |
| ۲۳۱ | طوطی بولنا | ۲۳۶ | صورت حرام |
| ۲۳۲ | طوفان اٹھانا، طوفان اٹھنا | | ردیف ___ ض |
| ۲۳۲ | طومار باندھنا | ۲۳۶ | ضد باندھنا، ضد پوری کرنا، ضد بحث میں |
| ۲۳۲ | طویلی کی بلا بندر کے سر پڑنا | | پڑنا یا ضدی ہونا، ضد چڑھنا |
| | ردیف ___ ظ | ۲۳۶ | ضرب اٹھانا، ضرب لگانا، ضرب پہنچانا، |
| ۲۳۳ | ظاہر داری کرنا، ظاہر داری برتنا | | ضرب پہنچنا |
| | ردیف ___ ع | | ردیف ___ ط |
| ۲۳۳ | عاقبت بگاڑنا، عاقبت کا توشہ | ۲۳۷ | طاق بھرنا، طاق پر رکھا رہنا، طاق پر رکھنا، |
| ۲۳۳ | عبور دریائے شور کرنا | | طاق ہونا |
| ۲۳۳ | عقل جاتی رہنا، عقل چرنے جانا، عقل چکر | ۲۳۷ | طالع چمکنا |
| | میں پڑنا، عقل کا پودا، عقل کا دشمن | ۲۳۸ | طباق سامنے ہونا |
| ۲۳۴ | عقل کا پتلا | ۲۳۸ | طباقی کتا |
| ۲۳۴ | عقل کا چراغ گل ہو جانا، عقل کے گھوڑے | ۲۳۸ | طبقہ الٹ جانا |
| | دوڑانا | ۲۳۹ | طبیعت آنا، طبیعت اُلجھنا، طبیعت بگڑنا، |
| ۲۳۴ | علت لگانا، علت لگالینا، علت میں پڑنا | | طبیعت بھر جانا، طبیعت لگنا |
| ۲۳۵ | عمر بھر کی روٹیاں سیدھی کر لینا | ۲۳۹ | طرارے بھرنا، طرار آنا |
| ۲۳۵ | عمر پٹہ لکھوانا | ۲۳۹ | طرح دار، طرح ڈالنا، طرح دار ہونا طرح |
| ۲۳۵ | عمر کا پیمانہ بھر جانا یا لبریز ہو جانا | | دینا، طرح نکالنا |
| ۲۳۵ | عمل بیٹھ جانا یا عمل پڑھنا | ۲۴۰ | طرفۃ العین میں |
| ۲۳۶ | عنقا ہو جانا یا ہونا | ۲۴۰ | طرفۃ معجون |
| ۲۳۶ | عیب جوئی کرنا، عیب ڈھونڈنا، عیب لگانا | ۲۴۰ | طشت از بام ہونا، طشت چوکی |
| ۲۳۷ | عیش کے بندے، عیشی بندے | ۲۴۱ | طفل مکتب ہونا |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|--|------|---|
| | ردیف _____ ف | ۲۴۷ | عین عین ہونا، یا عین میں ہونا |
| ۲۵۵ | فاتحہ پڑھنا | | ردیف _____ غ |
| ۲۵۵ | فاختہ اڑانا | ۲۴۷ | غارت ہونا، غارت کرنا |
| ۲۵۵ | فارسی کی ٹانگ توڑنا | ۲۴۸ | غازی مرد |
| ۲۵۶ | فارغِ خطی لکھوانا | ۲۴۸ | غائب غلہ کر دینا، غمتر بود کرنا |
| ۲۵۶ | فاقہ مستی ہونا | ۲۴۸ | غپ شب کرنا |
| ۲۵۶ | فرد باطل ہونا، یا فرد باطل قرار دیا جاتا | ۲۴۹ | غٹ پٹ ہو جانا |
| ۲۵۶ | فرزندِ ناخلف | ۲۴۹ | غدر مچانا |
| ۲۵۷ | فرشتے خاں | ۲۴۹ | غرض کا باؤلا، (اپنی غرض باؤلی ہوتی ہے) |
| ۲۵۷ | فرشتے دکھائی دینا | ۲۵۰ | غره بتانا، غره کرنا |
| ۲۵۷ | فرشتے کے پر جلنا | ۲۵۰ | غسل کی حاجت ہونا |
| ۲۵۸ | فرش سے عرش تک | ۲۵۰ | غش ہونا، یا غش کھا کر گر جانا |
| ۲۵۹ | فرشی حقہ | ۲۵۰ | غصہ پینا، غصہ تھوک دینا، غصہ دلانا، غصہ آنا |
| ۲۵۹ | فرعون بے سماں | ۲۵۱ | غضب آنا یا ٹوٹنا، غضب توڑنا، غضب |
| ۲۵۹ | فرنٹ ہو جانا | | میں پڑنا، غضب ہونا |
| ۲۶۰ | فرائے بھرنا | ۲۵۱ | غلام کرنا یا غلام بنانا |
| ۲۶۰ | فساد کی جڑ | ۲۵۲ | غلام مال |
| ۲۶۰ | فقرہ بازی کرنا فقرہ کہنا | ۲۵۳ | غلامی کا خط لکھنا (خطِ غلامی لکھ دینا) |
| ۲۶۱ | فقیر کر دینا، فقیری لڑکا، فقیری نسخہ | ۲۵۳ | غلامی میں دیتا ہوں، یا غلامی میں دینا |
| ۲۶۱ | فلک سیر ہونا، فلک بوس ہونا | ۲۵۳ | غم غلط کرنا |
| ۲۶۱ | فنائی اللہ ہونا | ۲۵۳ | غوزیں لڑانا |
| ۲۶۲ | فوجداری | ۲۵۳ | غیرت سے مرجانا، یا غیرت کھا کے ڈوب |
| ۲۶۲ | فی نکالنا | | مرنا |
| ۲۶۲ | فت ہونا | ۲۵۵ | غیر حالت ہو جانا، یا (حالت غیر ہو جانا) |

| صفحہ | محاورہ |
|------|--------|
|------|--------|

| صفحہ | محاورہ |
|------|--------|
|------|--------|

قسمت اُلٹ جانا، قسمت بازی، قسمت ۲۶۸

ردیف ___ ق

پھرنا، قسمت کا پھیر، قسمت کا دھنی، قسمت

۲۶۲ قابو چڑھنا، قابو میں آنا، قابو میں کرنا

کا لکھا

۲۶۳ قارورہ ملنا، یا قارورہ دیکھنا

قصائی کا پلا قصائی کے کھونٹے باندھنا، ۲۶۸

۲۶۳ قاضی، قاضی الحاجات قاضی قدوہ، قاضی

قصائی کی نظر دیکھنا

گلہ نہ کر سکا

قصہ پاک کرنا، قصبہ پاک ہونا، قصہ مختصر ۲۶۹

۲۶۴ قائل معقول کرنا

ہونا، قصہ در قصہ ہونا

۲۶۴ قبالے لے ڈالنا، قبالے لے لینا

قضا ادا کرنا، قضا پڑھنا، قضا عند اللہ، قضا ۲۶۹

۲۶۴ قبر کھودنا

وقدر، قضائے الہی، قضائے عمری

۲۶۵ قبر کے مردے اکھاڑنا

قلعی کھل جانا، قلعی کھولنا ۲۷۰

۲۶۵ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا، یا قبر کے

قلم بنانا، قلم اٹھا کر لکھنا، قلم پھیرنا، قلم ۲۷۰

کنارے ہونا

چلانا، قلمدان دینا

۲۶۵ قبلہ حاجات، قبلہ گاہ، قبلہ گاہی

قل ہو اللہ پڑھنا، قل ہونا ۲۷۰

۲۶۶ قحط پڑ جانا

قہر توڑنا، قہر کی نظر دیکھنا، قہر نازل ہونا، ۲۷۱

۲۶۶ قد نکالنا

قہر ٹوٹ پڑنا

۲۶۶ قدم اٹھا کر چلنا، قدم بڑھانا، قدم بہ قدم

قیامت آنا، قیامت اٹھانا، قیامت توڑنا، ۲۷۱

چلنا، قدم بوس ہونا، قدم چومنا

قیامت ہونا، قیامت کا منظر، قیامت کی

۲۶۶ قرآن اٹھانا، قرآن رکھنا، قرآن پر ہاتھ

گھڑی

رکھنا، قرآن کا جامہ پہننا، قرآن ہدیہ کرنا

قید لگانا، قید میں رکھنا، قید میں عائد کرنا ۲۷۲

۲۶۷ قرحہ پڑ جانا

ردیف ___ ک

۲۶۷ قرعہ ڈالنا، قرعہ پڑنا، قرعہ پھینکنا

کاٹ چھانٹ کرنا ۲۷۲

۲۶۷ قرض اُتارنا، قرض لینا قرض اٹھانا، قرض

کاٹ کرنا ۲۷۲

دینا، قرضِ حسنہ وغیرہ

کاٹ کھانا، کاٹ کھانے کو دوڑنا ۲۷۳

۲۶۸ قرتی بٹھانا، قرتی بھیجنا

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|--|
| ۲۷۸ | کان اڑے جانا، پھٹے جانا، کان کھول | ۲۷۳ | کانو تو خون نہیں یا لہو نہیں (بدن میں) |
| | کر سننا، کان بند کرنا، کان اٹھنا، | ۲۷۳ | کاٹھ کا اُلو، کاٹھ کا گھوڑا، کٹھ پتلی |
| | اکھاڑنا، کان پھوڑنا، کان بھرنا، کان | ۲۷۴ | کالے نہیں کٹا |
| | پر جوں رینگنا، کان کا کچا ہونا، کان پڑی | ۲۷۴ | کاجل کی کوٹھری |
| | آواز سنائی نہ دینا، کان پکڑ کے اٹھا دینا، | ۲۷۴ | کاجو بھوجو |
| | کان پھوٹ جانا | ۲۷۵ | کانا چھنی |
| ۲۷۹ | کانٹا نکالنا، کانٹا چبھنا، کانٹوں پر لوٹنا، | ۲۷۵ | کارخانہ الہی، کارخانہ پھیلا نا، کار خیر |
| | کانٹوں کا بچھونا، کانٹوں کی بیل، کانٹے | ۲۷۵ | کاغذ سیاہ کرنا، کاغذ کا پٹا باز، کاغذی آدمی، |
| | بچھانا | | کاغذی پیر، بن، کاغذ کی کشتی، کاغذ کی ناؤ، |
| ۲۷۹ | کتے کی موت مرنا | | کاغذ لکھ دینا، کاغذ تیار کرنا، کاغذ کا پیٹ |
| ۲۸۰ | کچا ساتھ ہونا یا کچا کنبہ ہونا | | بھرنا |
| ۲۸۰ | کچا کرنا، کچا ہونا، کچیا جانا | ۲۷۶ | کالا، کالا آدمی، کالا پہاڑ، کالا تو، کالا خون |
| ۲۸۰ | کچھری لگانا، کچھری کے کتے | | کالا منہ، کالا منہ ہونا، کالا لباس، کالا منہ |
| ۲۸۰ | کرکری کرنا، کرکرا دینا | | نیلے ہاتھ پاؤں، کالک کا ٹیکالگانا، کالا دھن |
| ۲۸۱ | کروٹ بدلنا | | کالی کوٹھری، کالا سانپ، کالا سمندر، کالی |
| ۲۸۱ | کشیدہ خاطر رہنا یا ہونا، کشیدہ کاڑھنا | | بلا، کالی بھینس، کالی زبان، کالی رات کرنا |
| ۲۸۱ | کف دست میدان ہونا، (میدان) | | کام بگڑنا، کام آنا، کام پڑنا، کام کا ہونا، کام |
| ۲۸۱ | کفرانِ نعمت، کفر توڑنا، کفر بکنا، کفر کا کلمہ | | پے لگانا، کام چلانا، کام تمام کرنا، کام |
| | بولنا | | چڑھانا یا لگانا، کام چمکنا، کام دینا، کام سے |
| ۲۸۱ | کلام اللہ اٹھانا | | جاتے رہنا، کام سے کام، اپنے کام سے |
| ۲۸۲ | کلمہ، کلمہ کا شریک، کلمہ گو، کلمے کی انگلی، | | کام رہنا، کام میں کام نکالنا، کام میں لانا، |
| | (انکشتِ شہادت) | | کام ہو جانا |
| ۲۸۲ | کلنگ لگنا، کلنگ کا ٹیکالگانا | | |
| ۲۸۲ | کلھیا میں گڑ پھوڑنا | | |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|--|------|--|
| ۲۸۹ | کوٹھوکا بیل ، کوٹھوکاٹ کرموگری بنانا، | ۲۸۳ | کلیجہ اچھلنا، کلیجہ بڑھ جانا، کلیجہ پھٹنا، کلیجہ ٹوٹنا، کلیجہ تھام کر یا مسوس کر رہ جانا، کلیجہ ٹھنڈا ہونا، کلیجہ جلانا، کلیجہ چھلنی ہونا، کلیجہ دھڑکنا، کلیجہ دھک سے ہو جانا، کلیجہ میں رکھنا، کلیجہ پھوٹنا |
| ۲۸۹ | کوٹھوکا بیل کی طرح پلنا | | |
| ۲۸۹ | کوٹھوکا میں پلوادینا | | |
| ۲۸۹ | کوہِ قاف، قاف سے قاف تک | | |
| ۲۹۰ | کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا یا نہیں سوئے گا | ۲۸۴ | کمر باندھنا ، کمر پکڑ کے اٹھنا، کمر ٹوٹنا، کمر توڑنا، کمر سیدھی کرنا، کمر کا ڈھیلا کمر کا مضبوط، کمر کھولنا |
| ۲۹۰ | کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں | | |
| ۲۹۱ | کھڑے گھاٹ دھلوانا | ۲۸۵ | کنارہ کرنا، کنارہ کشی کرنا |
| ۲۹۱ | کھوٹا پیسہ یا کھوٹا بیٹا وقت پر کام آتا ہے | ۲۸۵ | کنارے کنارے چلنا، کنارے لگانا، کنارے لگنا، کنارے ہو جانا |
| ۲۹۱ | کھونٹے کے بل کو دنا، کھونٹے سے باندھنا | ۲۸۵ | کن آنکھیوں سے دیکھنا |
| ۲۹۲ | کھیل اڑ کر منہ میں نہیں گئی | ۲۸۶ | کندہ ناتراش |
| ۲۹۲ | کیل کا یا کیلی کا کھٹکا نہیں | ۲۸۶ | کنگھی چوٹی |
| | رودیف _____ گ | ۲۸۶ | کنواں کھودنا، کنوں میں بانس ڈالنا، کنویں |
| ۲۹۲ | گاڑھی چھٹنا | | میں جھا کنا، کنویں میں جھکانا |
| ۲۹۲ | گالیوں کا جھاڑ باندھنا | ۲۸۷ | کوٹھے والیاں |
| ۲۹۳ | گانٹھ باندھنا، گانٹھ پڑنا، گانٹھ جوڑنا، باندھنا، گانٹھ کا پورا، گانٹھ کا بھرا، گانٹھ کا پیسا، گانٹھ کا کھوٹا، گانٹھ کھولنا | ۲۸۷ | کوچہ گردی کرنا |
| ۲۹۳ | گدگدی کرنا، گدگدی اٹھنا، گدگدی دل میں ہونا | ۲۸۷ | کودوں دلانا، کودوں |
| ۲۹۳ | گراں گذرنا، گراں بار | ۲۸۸ | کورا کورا برتن کورا رکھنا، کورارہ جانا، کوراسر، کورے بال رکھنا، کورے استرے سے سرمونڈنا، کوڑا کرنا، کوڑا مارنا |
| ۲۹۳ | گردش میں ہونا | ۲۸۹ | کوڑی کے تین تین بکنا، کوڑی کے کام کا نہیں، کوڑیوں کے بھا بھی مہنگا ہے |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|--|------|--|
| ۳۰۱ | گھن چکر ہونا | ۲۹۴ | گردن پر بوجھ ہونا، گردن پر خون ہونا، |
| ۳۰۱ | گھنگرو بولنا | | گردن پر سوار ہونا، گردن پھنسانا، گردن |
| ۳۰۱ | گھن لگ جانا | | پھیرنا، گردن جھکانا، گردن کو ڈورا، گردن |
| ۳۰۱ | گھوڑی چڑھنا | | مارنا، گردن مروڑنا، گردن میں ہاتھ ڈالنا، |
| ۳۰۲ | گھونگھٹ کھولنا، گھونگھٹ اٹھانا، گھونگھٹ | | گردن ناپنا |
| | رہنا، گھونگھٹ کی دیوار | ۲۹۵ | گڑیوں کا بیاہ، گڑیوں کا میل |
| ۳۰۲ | گھی کے چراغ جلانا یا گھی کے چراغ جلنا، | ۲۹۶ | گل، کھلانا، گل کھلنا |
| | گھی کے گھونٹ پینا | ۲۹۶ | گلے پر چھری پھیرنا یا چلانا، گلا کاٹنا کھنڈی |
| ۳۰۳ | گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا | | چھری سے ذبح کرنا |
| | ردیف ل | ۲۹۶ | گلے پڑنا، گلے کا ہار ہونا |
| ۳۰۳ | لات، لاتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانتا | ۲۹۷ | گنج شہیداں، گنج قاروں، گنجے کو خدا |
| ۳۰۴ | لاٹھی پونگا کرنا | | ناخن نہ دے |
| ۳۰۴ | لاٹھی مارے پانی جدا نہیں ہوتا | ۲۹۷ | گنگا جمئی، گنگا نہانا |
| ۳۰۴ | لا حول بھیجنا یا پڑھنا | ۲۹۸ | گوشت سے ناخن کا جدا کرنا یا گوشت |
| ۳۰۵ | لال انگارا، سرخ انگارا | | سے ناخن جدا ہونا |
| ۳۰۵ | لال پیلی آنکھیں کرنا یا نکالنا | ۲۹۸ | گوشتالی دینا، گوشتالی کرنا یا ہونا |
| ۳۰۵ | لیبوں پر جان آنا | ۲۹۹ | گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا |
| ۳۰۶ | لٹک کر چلنا | ۲۹۹ | گھونگے کا خواب |
| ۳۰۶ | لٹوریوں والی | ۲۹۹ | گھر پھونک تماشا ہونا یا دیکھنا |
| ۳۰۶ | لٹو ہونا | ۲۹۹ | گھر چڑھ کر لڑنا |
| ۳۰۶ | لچھے دار باتیں کرنا | ۳۰۰ | گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے |
| ۳۰۷ | لڈو باٹنا، لڈو دینا، لڈو کھلانا، لڈو ملنا، لڈو | ۳۰۰ | گھر کا بھیدی لٹکا ڈھاوے |
| | پھوٹنا | ۳۰۱ | گھر میں ڈالنا |
| ۳۰۷ | لڑائی مول لینا، لڑائی باندھنا | ۳۰۱ | گھمسان کارن پڑنا، گھمسان کی لڑائی ہونا |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|--|------|--|
| ۳۱۳ | ماٹھا ٹھنکنا | ۳۰۷ | لڑے فوج نام سردار کا |
| ۳۱۳ | مارا مارا یا مارے مارے پھرنا | ۳۰۸ | لال لگ جانا لال لگے ہوئے ہیں |
| ۳۱۳ | مارتے مارتے گٹھر کر دینا | ۳۰۸ | لفافہ کھل جانا |
| ۳۱۳ | مان کا دودھ | ۳۰۸ | لقمان کو حکمت سکھانا |
| ۳۱۳ | مان کے پیٹ سے لیکر کوئی پیدا نہیں ہوتا | ۳۰۸ | لیکیر پر فقیر ہونا، لیکیر کا فقیر ہونا، لیکیر پیٹنا، لیکیر کھینچنا |
| ۳۱۳ | نان اڑانا یا مارنا | | للو پتو کرنا |
| ۳۱۳ | مرگشت کرنا | ۳۰۹ | لبے سانس بھرنا |
| ۳۱۳ | مٹی خراب کرنا، مٹی ڈالنا، مٹی ڈالوانا، مٹی | ۳۰۹ | لنگوٹی میں پھاگ کھیلنا |
| | عزیز کرنا، مٹی پلید کرنا، مٹی میں مٹی یا مٹی | ۳۰۹ | لولو بنانا |
| | میں مائی ملنا | ۳۱۰ | لوہا لٹھ ہو جانا |
| ۳۱۵ | مٹی کا مادھو | ۳۱۰ | لوہے کے چنے چبانا |
| ۳۱۵ | مٹی کے مول بیچ ڈالنا | ۳۱۰ | لوہے کی چھاتی اور پتھر کا جگر کر لینا |
| ۳۱۶ | مجدوب کی بڑ | ۳۱۰ | لہو پانی ایک کرنا یا لہو سینہ ایک کرنا |
| ۳۱۶ | بجرا کرنا | ۳۱۱ | لہو خشک ہو جانا |
| ۳۱۶ | مرچیں لگنا، مرچیں سی لگ جانا | ۳۱۱ | لہو کا پیاسا یا خون کا پیاسا ہونا |
| ۳۱۶ | مرد کی صورت نہ دیکھنا | ۳۱۱ | لہو کا جوش، لہو کے سے گھونٹ پینا، لہو کا جوش مارنا |
| ۳۱۶ | مردوں کی ہڈیاں اکھیڑنا یا گڑے مردے اکھیڑنا | ۳۱۱ | لہو لگا کے شہیدوں میں داخل ہونا |
| ۳۱۷ | مردے کا مال | ۳۱۲ | لیک پیٹنا |
| ۳۱۷ | مرزا پھویا | ۳۱۲ | لیکھا ڈیوڑھا برابر کرنا یا لیکھا جوہکا برابر کرنا |
| ۳۱۷ | مردوں کا تھیلا | ۳۱۲ | لینے کے دینے پڑنا |
| ۳۱۷ | مرنے کی فرصت نہیں ہوتی | ۳۱۲ | ردیف — م |
| ۳۱۸ | مسجد میں اینٹ الٹ کر رکھنا | | ماٹھا رگڑنا، ماٹھا مارنا |
| ۳۱۸ | مشعل کے نیچے سے نکلا ہوا ہے | ۳۱۳ | |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|--|
| ۳۲۳ | منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت | ۳۱۸ | مشعل لیکر ڈھونڈھنا |
| ۳۲۳ | منہ میں گھنگھنیاں بھر جانا | ۳۱۸ | مصری کھلانا |
| ۳۲۴ | موت کا پسینہ آ جانا | ۳۱۹ | مطلع صاف ہو جانا |
| ۳۲۴ | موتی کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں، موتیوں | ۳۱۹ | معر کے کا آدمی |
| | سے منہ بھرنا، موتی چور کے لڈو | ۳۱۹ | مغز کھانا، مغز چٹ کر جانا، مغز کو چڑھنا، |
| ۳۲۴ | موچھوں کے کوٹھے کرنا | | مغز کے کیڑے جھڑنا یا مغز کی کیل نکلنا |
| ۳۲۴ | مول لیکے چھوڑ دینا | ۳۲۰ | ملاحظہ کا آدمی، ملاحظہ والا |
| ۳۲۵ | میدہ و شہاب | ۳۲۰ | منجھدار میں پڑا ہوا |
| | رولیف _____ | ۳۲۰ | منکا ڈھلنا یا ڈھلکنا |
| ۳۲۵ | ناچ نہ جانوں آنگن ٹیڑھا | ۳۲۰ | من کا میل یا کھوٹا |
| ۳۲۶ | ناچ نچانا | ۳۲۱ | من کے چیتے ہو جانا |
| ۳۲۶ | ناخن لینا | ۳۲۱ | منگنی دینا |
| ۳۲۶ | ناخنوں میں پڑے رہنا | ۳۲۱ | من مارنا، من مار کے بیٹھ جانا |
| ۳۲۶ | نادر شاہی ہے، نادر گردی ہے | ۳۲۱ | منہ اتر جانا یا ذرا سا منہ نکل آنا |
| ۳۲۷ | ناک بھوں چڑھانا | ۳۲۱ | منہ آنا، منہ باندھ کے بیٹھنا، منہ بگاڑنا، |
| ۳۲۷ | ناک پر انگلی رکھ کر بات کرنا | | منہ بگڑنا، منہ بنانا، منہ بند کرنا، منہ بند ہو |
| ۳۲۷ | ناک کا بال ہونا | | جانا، منہ بنوانا، منہ ڈھانپنا، منہ بھرانا، منہ |
| ۳۲۷ | نام اچھالنا یا نام اچھلنا، نام بدنام ہونا، نام | | بھر دینا، منہ بولا، منہ بولی، منہ بولتی |
| | ہونا، یا نام رکھنا، نام روشن ہونا | | مورت، منہ پر چڑھنا وغیرہ |
| ۳۲۸ | نام لیوا ہونا، نام کی رٹ ہونا، نام کا عاشق ہونا | ۳۲۲ | منہ توڑ جواب، منہ توڑنا، منہ پھیلانا، منہ |
| ۳۲۸ | ناخستگی میں نہیں چلتی | | پیارنا |
| ۳۲۸ | ناکس نے ڈبویٰ خضر نے | ۳۲۳ | منہ در منہ کہنا |
| ۳۲۹ | نخاس کی گھوڑی، نخاس والیاں | ۳۲۴ | منہ دیکھ کر رہ جانا |
| ۳۲۹ | نخرہ بگھارنا، نخرہ میں تلنا | ۳۲۴ | منہ زوری کرنا |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|---|------|---|
| ۳۳۵ | نوک پلک درست کرنا یا نوک پلک سے | ۳۳۰ | زرغے میں آجانا |
| | درست ہونا | ۳۳۰ | نسبت ہو جانا، نسبتی بھائی |
| ۳۳۶ | نیزوں پانی چڑھ جانا | ۳۳۰ | نس پھڑکنا (رگ پھڑکنا) |
| ۳۳۶ | نیل کی سلاخیاں پھیرنا | ۳۳۱ | نشہ ہونا، نشہ پانی کرانا، نشہ کرنا، نشہ کا عادی |
| ۳۳۶ | نیندا چٹ جانا، نیندا لینا، نیندا حرام کرنا | | ہونا |
| ۳۳۷ | نیند کا ماتا، نیند کا دکھیا | ۳۳۱ | نشاہرن ہونا، نشے کے ڈورے ہونا، نشلی |
| ۳۳۷ | نیو جمانا | | آنکھیں |
| ۳۳۷ | نئے سرے سے جنم لینا | ۳۳۲ | نصیب لڑنا، نصیب کھلنا، نصیب پھرنا، نصیب |
| | ردیف _____ و | | پھوٹ جانا وغیرہ |
| ۳۳۸ | وارے نیارے ہونا | ۳۳۲ | نظریا نظریں چرانا، نظر ڈالنا، نظر رکھنا |
| ۳۳۸ | واہی تباہی پھرنا | | نظر چڑھنا یا نظر میں چڑھنا، نظروں سے |
| ۳۳۸ | ورق بکھر جانا، ورق گردانی کرنا | | گرانا، نظر کھا جانا، یا لگنا، نظر میں پھرنا، |
| ۳۳۸ | وعدہ وفا کرنا | | نظریا نظروں میں سمانا، نظر میں کانٹے کی |
| | وقت پانا، وقت کا ثنا، وقت نکل جانا، وقت | | طرح کھٹکنا یا چبھنا |
| ۳۳۹ | پڑنا، (پینچیری وقت پڑنا) | ۳۳۳ | نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے |
| ۳۳۹ | ولی خگرہ، کھنگر | ۳۳۳ | نقش بدیواں ہونا، نقش بر آب ہونا |
| | ردیف _____ ہ | ۳۳۳ | نکلے ہوئے دانت پھر نہیں بیٹھتے |
| ۳۳۰ | ہاتھ اٹھانا، ہاتھ لگنا، ہاتھ آنا، ہاتھ اونچا ہونا | ۳۳۴ | نمک حلالی کرنا، نمک حرامی کرنا |
| | ہاتھ نیچا ہونا، ہاتھ کا سچا ہونا، ہاتھ دکھانا، | ۳۳۴ | نمک چھڑکنا اور نمک کی ڈلیاں ہونا |
| | ہاتھ دیکھنا ہاتھ مارنا، ہاتھوں کے طوطے | ۳۳۴ | ننگی تلوار یا شمیر برہنہ |
| | اڑ جانا، ہاتھ کا میل ہونا، ہاتھ کا تنگ ہونا، | ۳۳۵ | نواڑا کھینا |
| | ہاتھ کا سچا ہونا، ہاتھ سے خیرات زکوٰۃ کرنا، | ۳۳۵ | نو تیرہ بائیس بتانا |
| | ہاتھ نہ مٹھی، ہڑ بڑا کے اٹھی | ۳۳۵ | نوک پان ملاحظہ کیجئے |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|--|------|---|
| ۳۴۶ | ہنسی اُتر جانا | ۳۴۱ | ہاتھ باندھے کھڑے رہنا |
| ۳۴۶ | ہنسی میں پھنسی یا کھنسی ہو جانا | ۳۴۱ | ہاتھ پاؤں بچانا، ہاتھ پاؤں پھولنا، ہاتھ پاؤں سے درست ہونا |
| ۳۴۶ | ہوا بندھنا، ہوا کھانا، ہوا بھر جانا، ہوا پر سوار | ۳۴۱ | ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جانا، ہاتھ پاؤں چلنا |
| | ہونا، ہوا پر یا میں گرہ لگانا، ہوا سے باتیں کرنا، ہوا سے لڑتی ہے (چلتی ہوا سے لڑتی ہے) | ۳۴۲ | ہاتھ پاؤں چھوٹنا |
| | ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا، ہوائیاں اڑنا، ہوائیاں چھوٹنا، ہوائی دیدہ ہونا | ۳۴۲ | ہاتھ پیلے کرنا |
| ۳۴۷ | ہو حق کرنا | ۳۴۲ | ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہو جانا یا ہاتھ جھاڑ دینا |
| ۳۴۷ | ہوش اُڑنا، ہوش اُڑانا، ہوش پکڑنا، ہوش میں آ | ۳۴۲ | ہاتھ دانتوں سے کاٹنا |
| ۳۴۸ | ہول جول | ۳۴۳ | ہاتھ کی لکیریں ہونا |
| ۳۴۸ | ہولی کا بھڑوا بنا | ۳۴۳ | ہاتھی نکل گیا ہے دم باقی رہ گئی ہے ہتھیلی پر سرسوں جمانا |
| ۳۴۸ | ہولی کا ہو گیا راہولی کا سر پٹا | ۳۴۳ | ہڈیاں نکل آنا یا ہڈیوں کی مالا ہو جانا |
| ۳۴۸ | ہونٹ کاٹنا، یا چبانا، ہونٹ چاٹنا | ۳۴۴ | ہلدی کی گرہ یا گانٹھ لیکے پنساری بن بیٹھا |
| ۳۴۹ | ہوس لگنا | ۳۴۴ | ہلدی لگے، یا ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا ہی چوکھا |
| ۳۵۰ | ہیرا آدمی، ہیرا یا ہیرے کی کئی کھا جانا | | ہل کے پانی نہ پینا |
| ۳۵۰ | ہیر پھیر کی باتیں کرنا یا ہیرا پھیری کرنا | ۳۴۴ | ہم بستر ہونا یا ہم خواب ہونا |
| ۳۵۰ | ہینگ لگانا، ہینگ کہنا یا ہینگ لگنا | ۳۴۴ | ہم پیالہ وہم نوالہ ہونا |
| ۳۵۰ | ہائے ہائے کرنا | ۳۴۵ | ہندی کی چندی کرنا |
| ۳۵۱ | ہی ہی یا ٹھی ٹھی کرنا | ۳۴۵ | ہنستی پیشانی |
| | ردیف _____ یے | ۳۴۵ | ہنتے ہنتے پیٹ میں بل پڑ گئے |
| ۳۵۱ | یاد اللہ | ۳۴۶ | ہنتے ہی گھر بستے ہیں |

| صفحہ | محاورہ | صفحہ | محاورہ |
|------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| ۳۵۲ | یک جان دو قالب | ۳۵۱ | یادش بخیر |
| ۳۵۲ | یوم الحساب | ۳۵۱ | یادگداگانا |
| ۳۵۳ | یوں توں کرنا، یوں ہی، یوں ہی سہی | ۳۵۱ | یاروں کا یار |
| ۳۵۳ | یہاں کا یہیں | ۳۵۲ | یاری کٹ کرنا |
| ۳۵۲ | اردو شعر و ادب میں محاورہ | ۳۵۲ | یافت کی آسامی |
| | | ۳۵۲ | یقین کے بندہ ہو گے تو سچ مانو گے |



حرفِ چند

کہاوتیں اور محاورے کسی بھی زبان کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتے ہیں۔ ان کا بر محل استعمال تحریر و تقریر کو چار چاند لگا دیتا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے طویل تقاریر یا تجربات کا نچوڑ محض ایک فقرے میں بخوبی سمودیا جاتا ہے۔ ہر زبان کے بولنے والے کہاوتوں اور محاوروں کو روایتاً (سینہ بہ سینہ) آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ ہر دور میں نئے نئے محاورات سامنے آتے ہیں، جنہیں لسانیات کے ماہرین بالعموم اور لغت نویس بالخصوص، ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کاوش کرتے رہتے ہیں۔ اردو زبان میں بھی اس قسم کی کوششیں ہمیشہ سے ہی ہوتی رہیں ہیں اور ہر دور میں ہمیں یہ کتابی شکل میں ملتی رہی ہیں۔ محاورات اور کہاوتیں / ضرب الامثال کا اندراج عمومی لغات میں ہی کر دیا جاتا ہے، کم کم ہی سہی لیکن ان کے الگ سے خصوصی لغات بھی مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اردو کہاوتوں کا جو اولین مرتب لغت ابھی تک میری نظروں سے گزرا ہے وہ ”مجمع الامثال“ ہے اس کے مولف ”شیخ محمد مہدی واصف“ ہیں۔ اگرچہ یہ اس نسخے کا ہی اگلا یا جدید ایڈیشن ہے جس کا مخطوطہ ”ہندی ضرب المثل“ کے نام سے اور ٹیٹیل لائبریری اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ”حیدرآباد میں محفوظ ہے۔ لیکن میری رائے میں ”مجمع الامثال“ ہی اس سلسلے کی ابھی تک دریافت ہونے والی پہلی کاوش ہے۔ کیونکہ ”ہندی ضرب المثل“ میں کہاوتیں محض درج کی گئی ہیں ان کی تشریح و توضیح کا سامان ”مجمع الامثال“ میں ہی ملتا ہے، ”ہندی ضرب المثل“ میں ایک آدھ جگہ پر مولف نے مشکل الفاظ کے معنی درج کیے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ طالب علموں کو پڑھاتے وقت اپنی سہولت کی خاطر مشکل الفاظ کے معنی درج کیے گئے ہیں اور ان کہاوتوں کو جمع کرنا محض تدریسی مقاصد کے لیے تھا۔ ممکن ہے کہ لسانیات و لغات کے ماہرین میری اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے "Thomas Roebuck" کی "A Collection of Proverbs and Proverbial Phrases" کی تالیف

کو اس سلسلے کی پہلی کڑی قرار دیں۔ چونکہ اس کتاب میں اردو (جسے اس نے ہندوستانی کہا ہے)، فارسی اور کہیں کہیں سنسکرتی کہاوتیں بھی درج کی ہیں اور ان کی توضیح محض انگریزی میں کی ہے اس لیے میں اس کے بجائے ”شیخ محمد واصف مہدی“ کے کام کو تا حال اولین کام سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں درج تمام کہاوتیں کی تشریح و توضیح اردو ہی میں کی گئی ہے۔

”منشی چرنجی لال“ کی ”مخزن المحاورات“ کو اس سلسلے کی کاوشوں میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ضرب الامثال کی تالیف میں رجحان ساز کام یا جسے انگریزی میں ”trend setter“ کہا جاتا ہے وہ ”مولوی محمد نجم الدین“ کا ”نجم الامثال“ ہے۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے جس میں ہمیں مختلف اسالیب سے کی گئی کاوشیں ملتی ہیں، ان میں ”محاورات نسواں“ از ”مولوی محمد منیر لکھنوی“ اور شعرا کے محاورات کی تالیفات ہیں جن پر گفتگو کا شاید یہ موقع نہیں ہے۔ میرے خیال میں تا حال کہاوتوں / ضرب الامثال کے سلسلے کی سب سے مستند کاوش ”جامع الامثال“ از ”شان الحق حقی و وارث سرہندی“ ہے۔ تحقیقی اعتبار سے ”ڈاکٹر یونس اگا سکر“ کا کام ”اردو کہاوتیں اور ان کے سماجی اور لسانی پہلو“ بہت خاصے کی چیز ہے، جس کی تالیف میں بہت عرق ریزی سے کام لیا گیا ہے اور بلاشبہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کام برسوں تک زندہ رہنے والے کاموں میں سے ایک ہے۔ محاورات کی تالیفات کے ابتدائی کاموں میں ”D.C Phillott“ کا ”خزینہ محاورات“ شائع شدہ بھی قابل قدر ہے اگرچہ اس میں اردو محاورات کی وضاحت انگریزی میں کی گئی ہے۔ محاورات کے سلسلے کا تا حال مستند ترین کام جو میری نظروں سے گزرا ہے وہ ”فخر الدین صدیقی اثر“ کا ”اردو محاورے“ ہے جو انڈیا سے شائع ہوا اور حسب روایت پاکستان میں اسے مولف کے دیباچے کے بغیر اور اضافہ کے دعویٰ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا یہ سب کوششیں ہیں جن میں کچھ بہت اچھی اور کچھ کم اچھی ہیں۔ میں ان کاوشوں کو بری کہنے کے حق میں نہیں ہوں، ان کے لیے فقہی اصطلاح میں ایک ثواب بہر حال ہے۔ اس سلسلے کی ایک کاوش ”شائستہ سہروردی اکرام اللہ“ کی ”دلی کی خواتین کی کہاوتیں اور محاورے“ ہے، جسے اوکسفرڈ جیسے وسیع ادارے نے شائع کیا ہے۔ ہندوستان سے حال ہی میں شائع ہونے والا ایک کام ”اردو محاورات کا تہذیبی مطالعہ“ ہے جس کی تالیف ”ڈاکٹر عشرت جہاں ہاشمی“ نے کی ہے۔ مولفہ کا نام اردو حلقوں میں بہت ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کا یہ کام قابل قدر اور وسیع ہے لیکن اس میں کیا شک ہے کہ یہ

انسانی کام ہے۔ آئندہ سطور میں میں نے مولفہ کے اسی کام کا جائزہ لیا ہے اور یہ بھی انسانی کاوش ہے۔

چونکہ اس کتاب میں مولفہ اردو محاورات کو زیر بحث لائی ہیں اس لیے بہتر ہوگا کہ پہلے ہم محاورے کی تعریف و توضیح یا اس کا حدودِ اربعہ بیان کر دیں، کہ لغت نویس اور ماہر لسانیات ”محاورہ“ کہتے کسے ہیں۔

”مولوی سید احمد دہلوی“ اپنی معروف تالیف ”فرہنگِ آصفیہ“ میں محاورے کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

اسم مذکر: ہم کلامی۔ باہمی گفتگو۔ بول چال۔ بات چیت۔ سوال جواب۔ (۲)
اصطلاح عام۔ روزمرہ۔ وہ کلمہ یا کلام جسے چند ثقافت نے لغوی معنی کی مناسبت یا غیر مناسبت سے کسی خاص معنی کے واسطے مختص کر لیا ہو جیسے حیوان سے کل جاندار مقصود ہیں مگر محاورے میں غیر ذوی العقول پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور ذوی العقول کو انسان کہتے ہیں۔ (۳) عادت۔ لپکا۔ مہارت۔ مشق۔ ربط۔ ابھیا۔

مولوی صاحب آپس میں کی جانے والی باتیں اور ہر طرح کی گفتگو محاورے کے تحت لے آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ روزمرہ کو بھی اس ضمن میں شمار کیا ہے جبکہ لسانیات کے ماہرین روزمرہ کو الگ صنف کے طور پر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مولوی صاحب ”چند ثقافت“ کی شرط لگاتے نظر آتے ہیں کہ جن کا حسن کرشمہ ساز مناسب، غیر مناسب جسے چاہے جو معنی بھی پہنا دے یا مختص کر دے۔ لیکن یہ ثقافت کون ہوتے ہیں۔ ان کی صفات کیا ہیں اور انھیں مناسبت، غیر مناسبت کا اختیار کس نے سونپا ہے، مولوی صاحب اس بات کی وضاحت کہیں نہیں کرتے۔ مولوی صاحب کی تیسری وضاحت یعنی مہارت، مشق وغیرہ اس وقت زیر بحث نہیں۔

”مولوی نوز الحسن کا کوروی“ نے اپنی معروف تالیف ”نور اللغات“ میں نجانے کیوں لفظ ”محاورہ“ کا اندراج ہی نہیں کیا، البتہ لفظ ”محاورات“ درج کیا ہے جس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ یہ محاورہ کی جمع ہے اور یہ کسی ”خاص گروہ کی بول چال“ ہوتا ہے۔ اور مزید وضاحت کے لیے ”بول چال“ مرکب کے فٹ نوٹ کی طرف رجوع کروایا ہے۔ وہاں مولوی صاحب یوں رقم طراز ہیں: محاورہ: جب ایک یا کئی لفظ مصدر سے مل کر حقیقی معنی سے

متجاوز ہو کر کچھ اور معانی دیں اس کو محاورہ کہتے ہیں۔ مثلاً: آگ پانی میں سلگانا ___ محاورے میں مصدر کے جملہ مشتقات استعمال ہوتے ہیں لیکن اصل محاورے میں کسی قسم کے تصرف کرنے کا اختیار نہیں مثلاً: بجائے سرسہرا رہنا، کے سر پر سہرا رہنا، نہیں کہیں گے ___

صاحب نور اللغات نے ”سید احمد دہلوی“ سے ہٹ کر ایک نئی تصریح کی ہے جس کے تحت ایک یا کئی مصادر مل کر مجازی معنی دیں تو وہ محاورہ کے تحت آتے ہیں اور ساتھ ہی ایک آدھ مثال سے بات کو مزید واضح کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ”نور الحسن کا کوروی“ کی محاورے کی تعریف بہت حد تک واضح بھی ہے اور اپنے پیشرووں سے مختلف بھی۔

”اردو لغت بورڈ کراچی“ کی ”اردو لغت تاریخی اصول پر“ کی جلد ہفت و ہم میں محاورے کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی گئی ہے: رواج، عادت، مشق، مہارت۔ (۲) (قواعد) وہ کلمہ یا کلام جسے معتبر لوگوں نے لغوی معنی کی مناسبت یا غیر مناسبت سے کسی خاص معنی کے لیے مخصوص کر لیا ہو (حقیقی معنوں کی جگہ مجازی معنوں میں استعمال)۔ (۳) کسی خاص گروہ کی بول چال یا لفظوں کی ترکیب ___

”اردو لغت تاریخی اصول پر“ کی تصریح بھی ”مولوی سید احمد دہلوی“ کی تصریح کا ناقص چر بہ معلوم ہوتی ہے سوا اس کے کہ اس میں مجازی معنوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ قاری کے ذہن کو محاورے کے معاملے میں صاف کرنے کے بجائے مزید الجھانے کا باعث بنتا نظر آتا ہے۔ نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ لغت کی تمام جلدوں میں درج تمام محاورات میں افعال لازمی جزو کے طور پر آئے ہیں لیکن لغت میں محاورے کی جو وضاحت یا تصریح درج کی ہے اس میں فعل یا افعال کا کہیں ذکر نہیں۔

موجودہ دور کے اردو زبان کے معروف ماہر لسانیات اور لغت نویس ”شان الحق حقی“ اپنی تالیف ”فرہنگ تلفظ“ میں محاورے کی وضاحت میں لکھتے ہیں: ہم کلامی؛ مکالمہ؛ وہ فعل مرکب جو مخصوص معنی میں یا بلا تغیر اسی ترکیب کے ساتھ اہل زبان میں مستعمل ہو ___

شاید اہل علم اور ماہر لسانیات میرا یہ جملہ ناپسند کریں یا اسے بد تہذیبی میں شمار کریں لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ”شان الحق حقی صاحب“ کی تصریح نہ صرف پیچیدہ اور مبہم ہے بلکہ ناقص بھی ہے۔

لغات کے بعد اب ذرا ماہر لسانیات سے رجوع کرتے ہیں کہ محاورے کے بارے

میں ان کی رائے کیا ہے!

مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی معروف کتاب ”مقدمہ شعر و شاعری“ میں محاورے پر قدرے تفصیل سے لکھا ہے ہم یہاں ان کا طویل اقتباس ہی درج کریں گے تاکہ محاورے کی وضاحت میں موجود پیچیدگی کم یا ختم کی جاسکے۔ حالی لکھتے ہیں:

”مخاورہ لغت میں بات چیت کو کہتے ہیں خواہ ہو بات چیت اہل زبان کے روزمرہ کے موافق ہو یا مخالف، لیکن اصطلاح میں خاص اہل زبان کے روزمرہ یا بول چال یا اسلوب بیان کا نام محاورہ ہے۔ پس ضرور ہے کہ محاورہ تقریباً دو یا دو الفاظ میں پایا جائے، کیونکہ مفرد الفاظ کو روزمرہ بول چال یا اسلوب بیان نہیں کہا جاتا۔ بخلاف لغت کے کہ اس کا اطلاق ہمیشہ مفرد الفاظ پر یا ایسے الفاظ پر جو بمنزلہ مفرد کے ہیں، کیا جاتا ہے۔ مثلاً: پانچ اور سات دو لفظ ہیں جن پر الگ الگ لغت کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر ان میں سے ہر ایک کو محاورہ نہیں کہا جائے گا بلکہ دونوں کو ملا کر جب پانچ سات بولیں گے تب محاورہ کہا جائے گا۔ یہ بھی ضرور ہے کہ وہ ترکیب جس پر محاورے کا اطلاق کیا جائے، قیاسی نہ ہو بلکہ معلوم ہو کہ اہل زبان اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً: اگر پانچ سات یا سات آٹھ یا آٹھ سات پر قیاس کر کے چھ آٹھ یا آٹھ چھ یا سات نو بولا جائے گا تو اس کو محاورہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اہل زبان کبھی اس طرح نہیں بولتے، مثلاً بلا ناغہ پر قیاس کر کے اس کی جگہ بے ناغہ، ہر روز کی جگہ ہر دن، روز روز کی جگہ دن دن یا آئے دن کی جگہ آئے روز بولنا، ان میں سے کسی کو محاورہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ لفظ اس طرح اہل زبان کی بول چال میں نہیں آتے۔ کبھی محاورہ کا اطلاق خاص کر ان افعال پر کیا جاتا ہے جس جو کسی اسم کے ساتھ مل کر اپنے معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے اتارنا، اس کے حقیقی معنی کسی چیز کو اوپر سے نیچے لانے کے ہیں، مثلاً گھوڑے سے سوار کو اتارنا؛ کھوٹی سے کپڑا اتارنا۔ لیکن ان میں سے کسی پر محاورے کے دوسرے معنی صادق نہیں آتے کیونکہ ان سب مثالوں میں اتارنا اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہاں نقشہ اتارنا، نقل اتارنا، دل سے اتارنا۔ یہ سب محاورے کہلائیں گے کیونکہ اس سب مثالوں میں اتارنے کا اطلاق مجازی معنوں پر کیا گیا ہے یا مثلاً کھانا، اس کے حقیقی معنی کسی چیز کو دانٹوں سے چبا کر یا بغیر چبائے حلق سے اتارنا کے ہیں، مثلاً روٹی کھانا، دوا کھانا۔ لیکن ان میں سے کسی کو دوسرے معنوں کے لحاظ سے محاورہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ سب مثالوں میں کھانا اپنے

حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ہاں! غم کھانا، قسم کھانا، دھوکا کھانا، پچھاڑیں کھانا۔ یہ سب محاورے کہلائیں گے۔ محاورے کے جو معنی ہم نے اول بیان کیے ہیں وہ عام یعنی دوسرے معنوں میں بھی شامل ہیں لیکن دوسرے معنی پہلے معنی سے خاص ہیں۔ بس جس ترکیب کو پہلے معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہا جائے گا اس کو دوسرے معنوں کے لحاظ سے بھی محاورہ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ ضرور نہیں کہ جس ترکیب کو پہلے معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہا جائے اس کو دوسرے معنوں کے لحاظ سے بھی محاورہ کہا جائے، مثلاً تین پانچ کرنا (یعنی جھگڑا کرنا) اس کو دونوں معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ترکیب اہل زبان کی بول چال کے موافق ہے اور نیز اس میں تین پانچ کا لفظ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں بولا گیا ہے، لیکن روٹی کھانا، میوہ کھانا یا پان سات یا دس بارہ وغیرہ صرف پہلے معنوں کے لحاظ سے محاورہ قرار پاسکتے ہیں، نہ کہ دوسرے معنوں کے لحاظ سے کیونکہ یہ تمام ترکیبیں اہل زبان کی بول چال کے موافق تو ضرور ہیں مگر ان میں کوئی لفظ مجازی معنوں میں مستعمل نہیں ہوا۔“

حالی کے اس طویل اقتباس سید راج زیل چند نتائج برآمد کیے جاسکتے ہیں:

(۱) محاورے کے لیے دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہونا لازمی ہے، یعنی محاورہ کبھی بھی ایک لفظ پر مشتمل نہیں ہو سکتا۔

(۲) محاورے میں الفاظ کی ترتیب و ترکیب کسی ثقہ یا معتبر کے قیاس یا اجتہاد پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ اس کا معاشرتی تراکیب و ترتیب کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

(۳) بلا ناغہ، روز روز وغیرہ محاورے کی پہلی تعریف کے تحت آسکتے ہیں۔

(۴) محاورے کا اطلاق افعال پر بھی ہوتا ہے جو فقرے میں موجود اسم کے ساتھ مل کر مجازی معنی دیتے ہیں۔

یعنی حالی کے نزدیک محاورہ دوہرے معنی کا حامل بھی ہوتا یا ہو سکتا ہے۔ ایک معنی لغوی ہوں گے اور دوسرے مجازی یا ایک معنی حقیقی اور دوسرے مجازی۔

معروف ماہر لسانیات "پنڈت برج موہن دتا" نے یہ کیفی "اپنی کتاب "کیفیہ" میں محاورے کی تعریف کچھ اس طرح سے کرتے ہیں:

"وہ کلام جس کے لفظ اپنے معنی غیر موضوع لہ میں استعمال ہوتے ہوں، محاورہ ہے۔" مزید لکھتے ہیں "محاورہ کم سے کم دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے،" "محاورہ قواعد کی خلاف

ورزی کبھی نہیں کرتا“، ”یہ جو کہا جاتا ہے کہ اکثر محاوروں کی بنیاد استعارے پر ہوتی ہے درست معلوم نہیں ہوتا۔ استعارے کی جگہ تمثیل کہا جائے تو مضائقہ نہیں“۔ تین پانچ کرنا، اپنے ڈھائی چاول الگ بگھارنا، آنکھیں آنا، آنکھیں چرانا، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ہتے چڑھنا، قلم توڑ دے، اس کی باتیں مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتیں، دل آنا وغیرہ میں استعارہ شاید ہی کہیں ہو۔

اگرچہ ”داترہ“ نے استعارے اور تمثیل کے حوالے جو فرق بیان کیا ہے وہ بہت معقول ہے لیکن اس کے باوجود وہ قاری کو محاورے کی کوئی حتمی تعریف دے بغیر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ”داترہ“ نے محاورے کے ضمن میں جو مثالیں درج کی ہیں وہ مزید الجھاؤ کا باعث ہیں، مثلاً: ”ہاتھی لٹے گا بھی تو کہاں تک“، ”ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں“، ”چھچھوند کے سر میں چنبیلی کا تیل“، ”آٹھوں گانٹھ کیت میں“ اور اسی طرح کے کئی ایک اندراجات جو درحقیقت ”ضرب الامثال“ ہیں داترہ نے انھیں محاورات کے تحت درج کیا ہے، اور اگر کوئی کہے کے پنڈت صاحب محاورے اور ضرب المثل کو ایک ہی شے سمجھتے تھے تو ان جیسے دہنگ ماہر لسانیات سے اس قسم کی توقع سمجھ سے بالا ہے۔ آئیے چند جدید ماہر لسانیات کی اس بارے میں رائے جانتے ہیں۔

معروف ماہر لسانیات ”سید قدرت نقوی“ نے ”لسانی مقالات“ شائع کردہ ”مقتدرہ قومی زبان“ حصہ اول میں محاورے کی وضاحت کچھ ان الفاظ میں کی ہے:

”اگر الفاظ اپنے لغوی معنوں میں مستعمل ہوں اور ترتیب و ترکیب اہل زبان کے استعمال کے مطابق ہو تو اس کو اصطلاحاً حارومرہ کہا جاتا ہے اور اگر مجازی معنوں میں مستعمل ہوں تو محاورہ، گویا محاورے میں بنیادی بات یہی ہے کہ اس کے الفاظ اہل زبان کی ترتیب و ترکیب کے مطابق مجازی معنی میں استعمال کیے گئے ہوں۔“

”ڈاکٹر گوپی چند نارنگ“ اپنی معروف تصنیف ”اردو زبان اور لسانیات“ میں لکھتے ہیں ”اگرچہ ہمارے علمائے مرکب افعال کو محاوروں میں شامل نہیں کیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دو آزاد فعلیہ اجزا سے مل کر بننے والے مرکب افعال دراصل ایک طرح کے محاورے ہیں، جو کثرت استعمال سے خاص معنی دینے لگتے ہیں مثلاً: چل پڑنا، آجانا، بیٹھ جانا، پڑھ لینا“

لیجیے ”ڈاکٹر نارنگ“ نے مجازی معنوں کی شرط ہی اڑادی اور ”خاص معنی دینے لگنے“ کی طرف ایک نیا اشارہ دیا ہے۔ خاص معنی سے مراد کیا ہے! قابل وضاحت ہے۔ کیا یہ خاص معنی ہر کوئی

اپنی مرضی سے مراد لے گا، یا یہ خاص معنی کسی خاص ماحول یا جگہ کے تابع ہوں گے۔ اگر یہ معنی مجازی نہیں ہوں گے اور نہ ہی حقیقی، تو لغت میں ان معنوں کا اندراج کس زمرہ میں دیا جائے گا، ظاہر ہے خاص معنی معروف کیونکر ہونے لگے؟

چند سطور آگے چل کر ”ڈاکٹر نارنگ“ لکھتے ہیں ”یہی حال ان مرکب افعال کا ہے جو اسم کے بعد فعل لگانے سے بنتے ہیں۔ ان میں بھی محاورے کی شان ملتی ہے کیونکہ دوسرے جزو کے ساتھ مل کر پہلے جز کے معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے نیا مفہوم برآمد ہوتا ہے۔“ اس وضاحت کے بعد ”ڈاکٹر نارنگ“ نے درجنوں محاورات درج کیے ہیں۔ ”ڈاکٹر نارنگ“ نے پہلے جزو کی دوسرے جزو سے ملنے پر معنی میں وسعت پیدا ہونے اور نیا مفہوم برآمد ہونے کی جو بات کی ہے وہ دراصل مجازی معنی ہی ہیں اور آگے درج محاورات بھی اسی بات کے غماض ہیں۔ ان تمام مثالوں میں ایک اسم اور ایک مصدر کی موجودگی لازمی جزو کے طور پر آتی ہے۔ لہذا ڈاکٹر نارنگ کی بات کا اگر جوہر نکالا جائے تو اس کے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

(۱) محاورہ کم از کم الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔

(۲) محاورے میں ایک اسم اور ایک مصدر کا آنا لازمی ہے۔

(۳) محاورے میں اسم جب بھی مصدر سے ملتا ہے تو ایک نئے یعنی مجازی معنی پیدا کرتا ہے۔

”اردو لغت تاریخی اصول پر“ از ”اردو لغت بورڈ کراچی“؛ ”اردو محاورے“ از ”فخر

الدین صدیقی اثر“، ”محاورات داغ“، از ”ولی احمد خان ایم اے وزیر اعظم ریاست دو جانش“

اور دیگر کتب لغت میں جن فقرات کا اندراج محاورے کے طور پر کیا گیا ہے، ان سب کو اور

مندرجہ بالا تصریحات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر محاورہ کی مختصر ترین تصریح کی جائے تو میری

دانت میں کچھ یوں ہوگی۔

(۱) محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔

(۲) محاورے میں اسم اور مصدر کا آنا لازمی ہے۔

(۳) اسم اور مصدر کے ملاپ سے مجازی معنی کا برآمد ہونا ضروری ہے۔

”اردو محاورات کا تہذیبی مطالعہ“ پر ایک نظر

”ڈاکٹر عشرت جہاں ہاشمی“ نے اپنی کتاب میں محاورات کے بہت سے نئے پہلوؤں

پر روشنی ڈالی ہے جس سے ان کے وسعت مطالعہ اور تہذیب سے ان کی وابستگی کا برملا اظہار ہوتا ہے۔ چونکہ یہ علمی کاوش ہے لہذا اس کا جائزہ بھی علمی طریقے ہی سے لیا جانا چاہیے۔ مولفہ نے کتاب میں سیکڑوں محاورات، مرکبات، مقولوں اور کہاوتوں کو مجتمع کر کیا ان میں سے اکثر کا بہت خوبصورتی سے تہذیب کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے اور ان کے پیچھے کارفرما روایت کو زندہ کرنے کی بہت خوب کوشش کی ہے اور ان کا یہ کہنا کہ ”محاورہ زبان کی قدامت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔۔۔ ہم اس سے زبان کے لسانی رشتوں کا پتہ چلا سکتے ہیں“ ایک نئی سمت اشارہ ہے، اور بقول مولفہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ”محاورات کے ذریعے کسی بھی معاشرے کے فکری رویے اور معاملاتی انداز نظر کو ہم زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں“۔

کتاب کے آغاز میں مولفہ نے ایک مبسوط دیباچہ تحریر فرمایا ہے جس میں کتاب تالیف کرنے کی تحریک اور اس سلسلے میں پیش آنے والے مسائل کا ذکر کیا ہے۔ کتاب کی وقعت بہت بڑھ جاتی اگر دیباچے میں یہ وضاحت بھی کر دی جاتی کہ مولفہ کے نزدیک محاورے کی تعریف کیا ہے۔ اگرچہ انھوں نے اپنی کتاب کی بنیاد ”منشی چرنجی لال“ کی ”مخزن المحاورات“ پر رکھی ہے (جو کہ ایک مثبت اشارہ ہے) لیکن اس کتاب کی اشاعت آج سے تقریباً ایک سو اٹھائیس سال پہلے ہوئی تھی۔ اس عرصے میں زبان نے بہت ترقی کی ہے اور مولفہ نے دیباچے میں دعویٰ کیا ہے کہ انھوں نے محاورات کو لغوی معنی کے بجائے ان کی تہذیبی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔۔۔ تو کیا اس قدر طویل عرصے میں اردو نے اپنے دامن میں نئے محاورات کو نہیں سمویا، کیا تہذیب نے ایک صدی سے زیادہ عرصہ میں بہت سے پلٹے نہیں کھائے اور یقیناً ایسا ہی ہوا ہے تو اس قدر پرانے (اس میں کوئی شک نہیں کہ منشی جی کے کام کی تاریخی اور تقدیمی حیثیت مسلمہ ہے) کام کو سامنے رکھنے کی کوئی خاص وجہ سمجھ سے بالا ہے۔ اردو محاورات پر اس کے بعد بہت سے خوب کام بھی کیے گئے ہیں جنہیں لسانی لحاظ سے مدون و مرتب کیا گیا ہے انہی کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ تہذیب کے ساتھ قدیم روایات کو جوڑا جاتا تو اس کام کی روشنی نہ صرف دور دور تک پھیلتی بلکہ یہ شمع کئی صدیوں تک جلتی رہتی۔ بہر حال بات آگے بڑھاتے ہیں۔۔۔ دیباچے کی چند ابتدائی سطور کے بعد مولفہ نے کچھ یوں تحریر کیا ہے ”زبان کے آگے بڑھنے میں سماج کے ذہنی ارتقا کو دخل ہوتا ہے۔۔۔ وہیں سے اس سوچ یا عمل کے لیے الفاظ تراشے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کچھ فقرے اور جملے محاورات

کے سانچے میں ڈھلتے ہیں۔ جملے اور فقرے میں تہذیبی اعتبار سے کچھ فرق ہو تو ہم اس سے ناواقف ہیں البتہ قواعدی لحاظ سے یہ دونوں ہم معنی ہی ٹھہرتے ہیں۔ یقیناً مولفہ نے اپنی بات پر زور دینے کے لیے یہ دونوں الفاظ اکٹھے استعمال کیے ہوں گے۔ دیباچے ہی میں محاورات کے انتخاب کے سلسلے میں جو تحریر فرمایا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ”راقمہ نے جن محاورات پر کام کیا ہے اور جن کا تہذیبی مطالعہ پیش کیا ہے وہ ”PROVERB“ کے معنی میں آئے ہیں، صرف ”Setting“ کے معنوں میں نہیں۔۔۔ ”Proverb“ (محاورے) لفظوں کا ایک ترکیبی یونٹ واحد ہوتا ہے جو ایک خاص انداز سے ترکیب پاتا ہے۔۔۔ ”یہاں پھر مجھ جیسا طالب علم مولفہ کی بات سمجھنے سے کسی حد تک قاصر بھی ہے اور متردد و متامل بھی، ہم نے تو یہی پڑھا، سمجھا اور سنا تھا کہ محاورے کو انگریزی میں ”Idiom“ کہتے ہیں، جبکہ Proverb کی اردو ”کہاوت“ یا ”ضرب المثل“ ہوتی ہے جبکہ ”ڈاکٹر عشرت جہاں ہاشمی“ کے ہاں دونوں ایک یونٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں۔

کتاب کا آغاز ”ابلا سبلا، ابلا سبالا“ سے کیا گیا ہے اور حقیقتاً اس کے مرکب کے پیچھے جو اس تہذیبی روایت کو جو کہ کسی پھوہڑ عورت کی منظر کشی کرتی ہے بہت خوبصورتی سے واضح اور پیش کیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض دو الفاظ کا مرکب ہے یا کسی اعتبار سے اس پر محاورے کا بھی اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح کے کئی ایک مرکبات جیسے: آب و رنگ، آپ بیتی، آپ روپ، تجاہل عارفانہ، نکسالی بولی، نکسالی زبان، جادو کا پتلا، شیخ چلی، ستر بہترا، چہ مگوئیاں، چھوٹی موٹی سے پوری کتاب بھری پڑی ہے، جن کا تہذیبی مطالعہ بہت عمدگی سے کیا گیا ہے۔

غالب سے میری وابستگی بہت پرانی ہے دیوان غالب کا مطالعہ میری چند ایک دیرینہ عادات میں سے ہے، مولفہ کی کتاب میں درج ایک حوالے نے میری غالبیت کی حس کو بہت تکلیف پہنچائی۔ مولفہ نے ”جی ہے تو جہان ہے“ جو کہ ان کے نزدیک محاورہ ہے کے تحت قربان علی سالک کا شعر کچھ اس طرح درج کیا ہے:

_____ اس کا استعمال دو موقعوں پر ملتا ہے ایک کہ آدمی کی اگر صحت ہے، وہ زندہ ہے

اور بقول غالب [کذا]

تنگ دستی اگر نہ ہو غالب [کذا]

تندرستی ہزار نعمت ہے

”ڈاکٹر عشرت جہاں ہاشمی“ جیسی علمی شخصیت سے اس سطح کی چوک کی ہمیں ہرگز ہرگز توقع نہیں، لیکن بظاہر یہ پروف خوانی کی غلطی بھی نہیں لگتی۔

”دال میں کچھ کالا ہے، دال نہ گلنا“ کی وضاحت میں مولفہ نے ”دال گلنا“ کا بھی اندارج کیا ہے اور اس کی تصریح کچھ اس طرح کی ہے۔۔۔ ”جو غربت کی صورت حال ہے اب سے کچھ زمانہ پہلے تک غریب گھروں میں ایندھن کی بڑی دشواری ہوتی تھی۔۔۔ آگ بھی ایک بڑی نعمت تھی اور گھروں سے آگ مانگی جاتی تھی۔۔۔ ایندھن کی کمی کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ دال پوری طرح پکتی بھی نہیں تھی اور کچی رہ جاتی تھی“ جس کی وجہ سے دال گلنا ایک محاورہ بن گیا۔۔۔“ مولفہ نے دال نہ گلنا اور دال گلنا کے محاورات کی وضاحت میں کس قدر انصاف کیا ہے یہ لسانیات کے علما ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب بہت عرق ریزی اور محنت سے مرتب کی گئی ہے اور زبان و بیان کے معاملے میں تحقیق کے بہت سے نئے دروا کرتی ہے۔ مجموعی طور پر کتاب کے مثبت پہلو بہت زیادہ ہیں، جن چند ایک پہلوؤں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، توقع ہے کہ اگلی اشاعت میں ان کی اصلاح کر دی جائے گی۔

امید کی جاتی ہے کہ علمی حلقوں میں یہ کاوش ستائش کی نظروں سے دیکھی جائے گی اور قبول عام پائے گی۔

وصی اللہ کھوکھر
عالمگیر روڈ کامونکے



اُردو محاورات

اور

زبان و بیان میں اس کی اہمیت

سید ضمیر حسن دہلوی

آب حیات میں مولانا محمد حسن آزاد نے میر سوز کا ذکر کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن سودا کے ہاں میر سوز تشریف لائے۔ ان دنوں شیخ حزیں کی غزل کا چرچا تھا جس کا مطلع ہے۔

می گرفتیم بجاتا سرِ راہے گاہے
ادہم از لطفِ نہاں داشت نگاہے گاہے
میر سوز مرحوم نے اپنا مطلع پڑھا۔

نہیں نکسے ہے مرے دل کی اُپا ہے گاہے
اے فلک بہرِ خدا رخصتِ آہے گاہے

مرزا سن کر بولے کہ میر صاحب بچپن میں ہمارے ہاں پشور کی ڈونیاں آیا کرتی تھیں یا جب یہ لفظ سنا تھا یا آج سنا۔ میر سوز بچارے ہنس کر چپ ہو رہے۔

پشاور کی ڈونیاں جو کہ ”نکسے“ اور ”اُپا ہے“ بولتی تھیں، فارسی غزلوں کے بجائے ہندی چیزیں سناتی ہوگی جو ان دنوں قریب الفہم اور مقبول عام تھیں۔

خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ اُردو جو کھڑی بولی کا ایک مخصوص روپ ہے عوام کی بولی چال کی زبان بنی اور اس نے پہلی بار ان کے جذبہ اظہار کو زبان دی، ادبی زبان اور بول چال

کے فرق کو مٹایا۔ چنانچہ اٹھارویں صدی پر دہلوی شعرا کا کلام بالعموم اسی لسانی اصول کا پابند اور آئینہ دار ہے۔

آگے چل کر جب مرزا مظہر جانجاناں، حاتم، سودا، ناسخ، شاہ نصیر اور ذوق نے اپنے اپنے نقطہ ہائے نظر کے مطابق اصلاح زبان کا کام کیا تو دہلی میں گاہ گاہ متروک الفاظ و محاورات کے ساتھ ساتھ جو قدیم لب و لہجے کی گونج سنائی دیتی رہی اس کا سہرا مردوں سے زیادہ عورتوں کے سر ہے۔ عورتیں زبان کے معاملے میں قدامت پسند ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں ان کا ملنا جلنا باہر والوں سے کم ہوتا ہے نیز مختلف النوع اقوام اور بھانت بھانت کی زبان بولنے والوں سے بعد کی وجہ سے ان کی زبان بگڑنے سے محفوظ رہتی ہے۔ عورتوں کی نمایاں خصوصیت انتخاب الفاظ کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ کر یہہ الفاظ کی جگہ لطیف الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ ان جزوی اختلافات زبان کے علاوہ انتہائی نمایاں خصوصیت مردوں اور عورتوں کی زبان کے اختلاف کی یہ ہے کہ عورتیں جنسیات سے متعلق باتیں واضح الفاظ میں کہنے کے بجائے اشارے اور کنائے میں بیان کرتی ہیں۔ بیگمات کی زبان میں ہر قسم کے جنسی افعال کے لیے پردہ پوش اصطلاحات و محاورات موجود ہیں مثلاً میلے سر سے ہونا، گود میں پھول جھڑنا، دو جیاں ہونا، بات کرنا جیسے متعدد محاورے عورتوں نے مختلف کیفیات کو ظاہر کرنے کے لیے بنائے اور ان کا چلن عام کیا۔

جو ہونی تھی وہ بات ہوئی کہاروں
چلو لے چلو میری ڈولی کہاروں
مردوا کہتا ہے آؤ چلو آرام کریں
جس کو آرام یہ سمجھے ہے وہ آرام ہو نوج

عورتیں اپنے گرد و پیش کے الفاظ چنتی ہیں ان کے ہاں کسی شے کی جزئیات کو پیش کرنے کے لیے الفاظ کی کمی نہیں ہوتی۔ اسی لیے مردوں کی بجائے عورتوں کی لکھی ہوئی کتابیں زیادہ عام فہم صاف اور شستہ ہوتی ہیں۔ عورتیں لسانی اعتبار سے مردوں سے زیادہ تیز طرار ہوتی ہیں۔ وہ سیکھنے کا شوق رکھتی ہیں۔ سننے میں تیز ہیں اور جواب دینے پر زیادہ قدرت رکھتی ہیں۔ دنیا بھر میں عورتیں باتونی مشہور ہیں۔ مردوں کے برعکس انھیں الفاظ ٹٹولنے اور تولنے میں دیر نہیں لگتی۔ عورتیں نئی نئی اصطلاحیں محاورے وضع کر لیتی ہیں، جن میں اکثر خوش آواز، مترنم اور

پر لطف ہوتے ہیں۔ ہر زبان کی لغت میں ایک ایسی فرہنگ موجود ہوتی ہے جو عورتوں کی بول چال کے لیے مخصوص ہے۔ مردوں کی گفتگو میں یہ الفاظ شاذ ہی نظر آتے ہیں۔ اردو نثر میں عورتوں کی بول چال کم و بیش طلسم ہوش ربا، باغ و بہار اور دیگر نثری داستانوں میں سمٹ آئی ہے۔ ایک اور مثال واجد علی شاہ کی بیگمات کے وہ خطوط ہیں جو انھوں نے واجد علی شاہ کو ٹیما برج جانے کے بعد لکھے ہیں۔

زبان سے ملک کا سکھ ہے عورت
انوکھا ہے چلن سارے جہاں سے
زبان کا فیصلہ ہے عورتوں پر
یہ باتیں مردوںے لائیں کہاں سے

عورتوں کی زبان سے خدا بچائے، بیگمات کی بول چال سے گوکان آشنا نہیں، آنکھوں نے اوراقِ پارینہ میں ان کی جھلکیاں دیکھی ہیں۔ ان کے ممتاز محاورات پر نظر ڈالیے تو آنکھوں کے سامنے رمز و کنائے کا ایک رنگیں چمن ہوگا۔ ان کی صناعتی طباعتی کا جو ہر منہ بند کلیوں کی طرح کھلتا اور خندہ مل کی طرح مہکتا نظر آئے گا۔

بہادر شاہ ظفر کے عہد پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اسلم پرویز نے لکھا ہے۔ ”قلعہ معلیٰ“ کی تہذیب کا ایک اہم جزوہ زبان تھی جس میں شاہ علم ثانی اور ان کے بعد ظفر نے بھرپور شاعری کی تھی۔ اس زبان کی گونج اور بازار سے گزرتی ہوئی کابلی دروازے کے اس تنگ و تاریک مکان تک سنائی دیتی تھی جہاں ”ذوق“ کا مسکن تھا اور پھر یہ گونج سننے والوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اس گونج میں ”ذوق“ بھی کھنچے چلے گئے اور پھر دلی کا محاورہ اور روزمرہ جس طرح ”ذوق“ کی شاعری میں رچ بس گیا، اس کی دوسری اور نسبتاً زیادہ خوبصورت مثال ”داغ“ کے یہاں ملتی ہے۔“

زبان کی خوبی اس کی سلاست، عام فہمی، نرمی، موزونیت، چھوٹے چھوٹے الفاظ اور بڑے بڑے مطالب پر موقوف ہے۔ محاورات وہ ننھے مرقع ہیں جو کسی سماج کے تجربات، تصورات اور تاثرات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عام لوگوں کی زبان کو پایہ اعتبار سے گرانا زبان کے زوال اور عدم مقبولیت کا سبب بنتا ہے۔ بیگمات نے اپنے محاوراتی اسلوب میں مجاز و مبالغہ تشبیہ اور تمثیل، مصوری و محاکات اور رمزیت و اشاریت کے سارے جوہر محفوظ کر لیے تھے۔ اسی لیے جب ہم ان کی صدائے بازگشت سنتے ہیں تو بیقرار ہو جاتے ہیں۔ اظہار خیال اور ادائے

مطلب میں پیچیدگی سے بچنے کے لیے بول چال کی زبان روزمرہ اور محاورے کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ زبان کا ذوق رکھنے والوں نے ادبی شہ پاروں میں محاورات پر ضرور نظر کی ہوگی۔ یہاں چند محاورات مثال دینے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ چلوؤں لہو خشک ہونا، اوڑا پھڑنا، سر بالوں کو آنا، اٹھوٹی کھوٹی لینا، منہ تھوٹھائے رہنا، دیدوں کا پانی ڈھلنا، تکلفی کے سے بل نکالنا، آنکھوں پر چربی چھانا، نعمت کی اماں کا کلیجہ ہونا، محاوروں کے علاوہ ضرب الامثال کا بھی ایک بیش بہا خزانہ ہے، جو ہماری زبان میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک توے کی روٹی کیا چھوٹی کیا موٹی، جس کے ہاتھ ہنڈیا ڈوٹی اس کا ہر کوئی، اُنیس و بیس روڑے اچھلیں، سرخ رو چوٹا ایمان بھونڈا، مائی جی کا تھان کھیلے چوگان، ٹاٹ کی انگیا مونچھ کا بخیا، جہاں بہو کا سپار، وہیں خسر کی کھاٹ، ان محاورات اور ضرب الامثال کی مدد سے کچھ مصنفین نے ابلاغ اور معانی آفرینی کے کمالات دکھائے ہیں اور کچھ مصنفین صناعتی کلام کی ان بھول بھلیوں میں گم ہو کے رہ گئے۔

سنا ہے کوئی جاٹ سر پر چار پائی لیے کہیں جا رہا تھا۔ ایک تیلی نے دیکھ لیا اور جھٹ پھبتی کسی "جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ"۔ جاٹ اس وقت تو چپ ہو گیا مگر دل میں بدلے کی بھانا لیے بیٹھا رہا۔ ایک دن دیکھا کہ تیلی اپنا کولھو لیے جاتا ہے جاٹ نے جواباً کہا تیلی رے تیلی ترے سر پہ کولھو۔ تیلی ہنسا اور کہنے لگا جچی نہیں، جاٹ نے جواب دیا جچے نہ جچے تو بوجھوں تو مرے گا۔ محاوراتی اسلوب کا راستہ "پل صراط" سے زیادہ خطرناک ہے۔ غزل کے ہر شعر کی طرح اس کا تعلق آبدار اور برجستگی سے ہے، پھر یہ کہ عورتوں سے محاورے زبان کی طراری اور ایک مخصوص معاشرتی تربیت کے بغیر اس پر شکوہ اور پُر خطر مہم کا سر کرنا ممکن نہیں ہے۔ نذیر احمد کی زبان نکسالی ہے لیکن ان کی تصنیف "امہات الامتہ" کو لوگ کہتے ہیں اسی لیے نذر آتش کیا گیا تھا کہ اس میں ایک محاورہ یہ بھی تھا کہ جوتیوں میں دال بٹنے لگے گی۔

اب نہ اردوئے معلیٰ رہی اور نہ گلی کوچوں میں بولا جانے والا ریختہ۔ جمہوری انقلابات نے ماضی کے تمام امتیازات کی جڑیں اکھاڑ پھینکی ہیں، عورت مرد سب پھٹری زبان بول رہے ہیں۔ جو لوگ زبان کا حسن اور محاورے کی وابستگی کا رونا روتے تھے وہ بھی قصہ پارینہ ہوئے۔ جو اب دکھائی دیتے ہیں وہ کل ناپید ہو جائیں گے۔ ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔

ایسے میں عشرت ہاشمی کا یہ کارنامہ ایک تاریخی دستاویز کا درجہ رکھتا ہے۔ عشرت نے بہادر شاہ ظفر کے عہد اور شاعری پر پہلے بھی کام کیا ہے انھیں اس دور سے ربط خاص ہے جس

میں محاورات اور ضرب الامثال کے چلن نے اردو زبان کو مقبولیت عام اور شہرتِ دوام بخشی تھی۔ محاورے کیسے بنتے ہیں، ان کی ساخت میں معاشرت کا کون کونسا عمل اور انسانی فکر کے کن کن زاویوں کا دخل ہوتا ہے، یہ سمجھے بغیر محاوراتی اسلوب کو برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ اور محاوراتی اسلوب کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد اردو زبان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، ہماری ہزار آٹھ سو سال کی محنت اور جانفشانی رائیگاں ہو جائے گی۔ محاورات اور ضرب الامثال پر اُردو میں متعدد لغتیں اور فرہنگیں موجود ہیں۔ لیکن انکی تہذیبی اور کلیدی جہتوں پر اہل زبان کی نظر کم گئی ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک یہ ضروری بھی نہیں تھا کیونکہ تہذیب کے سوتے ہمارے وجود میں ضم ہو گئے تھے۔ ملک کی تقسیم نے اُردو کو دو خطوں میں بانٹ کر ظلمِ عظیم کیا ہے۔ وہ خطہ جو پاکستان کہلاتا ہے، ہمارے تہذیبی شعور سے متعلق نا آشنا ہے اور ہندوستان میں بھی طرح طرح کے سیاسی انقلابات نے تہذیب اور تمدن کو نزعی مسئلہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ اس نازک دور میں ڈاکٹر عشرت ہاشمی کا یہ کام جو قیام اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیبی مرقعوں کی افہام و تفہیم کا فریضہ انجام دیتا ہے، لایق ستائش ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اُردو بولنے والوں کے لیے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بنے گا۔ مرتب کی ذہانت، کاوش، دیدہ ریزی اور تاریخ معاشرت سے دلچسپی کتاب کی مقبولیت کی ضامن ہے۔ اشاعت کے لیے اردو اکادمی بھی شکر یہ اور مبارکباد کی مستحق ہے۔

سید ضمیر حسن دہلوی

21 مارچ 2006ء



پیش حرف

(مقدمہ)

محاورہ عربی زبان کا لفظ معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں ”محور“ شامل ہے جس کے معنی ہیں مرکزی نقطہ فکر و عمل جس کے گرد دائرے بنائے جاتے ہیں یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محاورہ زبان کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے یعنی وہ دائرہ جو مختصر ہونے کے باوجود اپنے گرد پھیلی ہوئی بہت ساری حقیقتوں کو یہ کہیے کہ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ ہمارے محاورات ہمارے مشاہدوں اور طرح طرح کے تجربوں کو پیش کرتے ہیں اور انھیں کہیں عام معاشرتی انداز فلسفیانہ اور کہیں شاعرانہ انداز سے سامنے لایا جاتا ہے۔ اس میں گاہ گاہ پیشہ وارانہ انداز بھی شامل رہتا ہے۔ اور طبقہ وارانہ بھی، اس میں ہمارے قدیم الفاظ بھی محفوظ ہیں اور قدیم روز مرہ بھی، یہ عمومی زبان اور عام لب و لہجہ سے قریب ہوتا ہے اور ایک حد تک اس میں تخیل اور تجربہ کا اور تجزیہ کا آمیزہ بھی پایا جاتا ہے۔ ”زبان“ کے آگے بڑھنے میں سماج کے ذہنی ارتقا کو دخل ہوتا ہے۔ ذہن پہلے کچھ باتیں سوچتا ہے ان پر عمل درآمد ہوتا ہے اور وہیں سے اس سوچ یا اس عمل کے لیے الفاظ تراشے جاتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے کچھ فقرے اور جملے محاورات کے سانچے میں ڈھلتے ہیں۔ اور ایک طرح سے محاورہ کی اس حیثیت پر ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب تک یہ تو ہوتا رہا کہ محاورہ کی صحت استعمال پر زور دیا گیا۔ اس کی نوک پلک درست رکھی گئی۔ اور اس طرح کی کتابیں بھی بعد کے زمانے میں تحریر ہوئیں کہ محاورے کے معنی یہ ہیں اور اس کا استعمال یہ ہے۔ یہ کام تدریسی نقطہ نظر کی سطح پر ہوا۔ یا پھر زبان کے ایک بڑے حصے کو محفوظ کرنے کی غرض سے اسے انجام دیا گیا۔ چرنجی لال کی لغت ”مخزن المحاورات“ اسی کا ایک اہم نمونہ ہے اور قابل تعریف کام ہے۔ جس کو اب ایک طویل عرصہ گزرنے پر ایک یادگار عملی کام قرار دیا جاسکتا ہے۔ مگر اس ضمن میں محاورے پر اس پہلو سے غور و فکر نہیں کیا گیا کہ اس نے ہماری

زبان و بیان، تہذیبی رویوں اور معاشرتی تقاضوں سے کس طرح کے رشتہ پیدا کیے، ان کو زبان و ادب اور معاشرت کا آئینہ دار بنایا۔ جب کہ محاورات کے سلسلہ میں راقمہ کی محدود نظر کے مطابق یہی سب سے اہم پہلو تھا اس لیے کہ زبان اور ادب کا ایک ”اٹوٹ“ اور ”گہرا رشتہ“ تہذیب سے ہوتا ہے۔ اور تہذیبی رشتہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے معاشرتی رویوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد دیتا ہے بلکہ ان کے لیے روشنی اور رہنمائی کے طور پر کام آتا ہے۔

راقمہ الحروف نے اس کام کو اسی نقطہ نظر سے کیا ہے اور اس سلسلہ میں بطور خاص مخزن المحاورات کو سامنے رکھا ہے تاکہ محاورات کی ایک بڑی تعداد تک رسائی ہو جائے۔ ان کے معنی اور ان کی بنیادی معنویت کو سمجھ لیا جائے۔

تہذیبی مطالعہ ایک الگ سلسلہ فکر و نظر ہے اور اخذ نتائج کے لیے ایک جداگانہ زاویہ نگاہ ہے۔ کیونکہ اس پہلو (Angle) سے محاورے پر ہنوز کوئی کام نہیں ہوا۔ اس لیے مجھ ایسے اردو زبان و ادب کی ایک طالب علم کے لیے یہ سوچنا مشکل ہے کہ مجھے اس میں کیا کامیابی ہوئی اور کس حد تک اس موضوع پر ادبی مطالعہ کی حدود آگے بڑھی ہیں۔ اس کا فیصلہ تو اصحاب دید و دریافت اور زبان و محاورات کے ماہرین ہی کچھ زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ اور یہ توقع ہے کہ آئندہ یہ کام آگے بڑھے گا اور اس کے خطوط فکر اور زیادہ روشن اور واضح ہوں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ الفاظ و صوتیات ہوں یا پھر لغت و قواعد کے دائرہ میں آنے والی کچھ خاص اور اہم باتیں ہوں ان کو کلیتاً عصری تہذیب اور دواری دائرہ ہائے فکر و عمل سے آزاد نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ میں کچھ الفاظ رائج ہوتے ہیں اور دوسرے زمانہ میں ان کا استعمال، پھر بحیثیت مجموعی ان پر توجہ دہی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی بہت کچھ سماجی اور معاشرتی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم دہلی اور اس کے قرب و جوار کی زبان نیز بولی کو سامنے رکھ سکتے ہیں کہ شہری زبان کے ساتھ قصبہ و دیہات کی زبان میں بھی فرق آیا ہے۔ اور ایک زبان نے دوسری زبان کو متاثر بھی کیا ہے اور اس سے تاثر بھی قبول کیا ہے۔

زبان میں اردو محاورہ کی حیثیت بنیادی کلمہ کی بھی ہے اور زبان کو سجانے اور سنوارنے والے عنصر کی بھی، اس لیے کہ عام طور پر اہل زبان محاورہ کے معنی یہ لیتے ہیں کہ ان کی زبان کا جو اصل ڈول اور کینڈا ہے یعنی "Basic structure" جس کے لیے پروفیسر مسعود حسین خاں نے ڈول اور کینڈا کا لفظ استعمال کیا ہے جو اہل زبان کی لبوں پر آتا رہتا ہے۔ اور جسے نسلوں کے دور بہ دور استعمال نے سانچے میں ڈھالا دیا ہے۔ اسی کو صحیح اور درست سمجھا

جائے۔ اہلِ دہلی اپنی زبان کے لیے محاورہ بحثِ خالص محاورہ استعمال کرتے تھے۔ اور اس محاورہ بحث کو ہم میر کے اس بیان کی روشنی میں زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ میرے کلام کے لیے یا محاورہ اہلِ دہلی ہے یا جامع مسجد کی سیڑھیاں یعنی جو زبان صحیح اور فصیح دہلی والے بولتے ہیں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر یا اس کے آس پاس اس کو سنا جاسکتا ہے، وہی میرے کلام کی کسوٹی ہے۔ ہم ”ذوق“ کی زندگی میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ کوئی شخص لکھنؤ یا کسی دوسرے شہر سے آیا اور پوچھا کہ یہ محاورہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، انھوں نے بتلایا، مگر پوچھنے والے کو ان کے جواب سے اطمینان نہ ہوا، انھوں نے کہا کہ اس کی سند کیا ہے ”ذوق“ ان کو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر لے گئے، انھوں نے جب لوگوں کو وہ محاورہ بولتے دیکھا تو اس بات کو مان گئے اور اس طرح معلوم ہو گیا کہ جامع مسجد کی سیڑھیاں کس معنی میں محاورہ کے لیے سندِ اعتبار تھیں۔ میر انشا اللہ خاں نے اپنی تصنیف ”دریائے لطافت“ میں جو زبان و قواعد کے مسئلہ پر ان کی مشہور تالیف ہے، ان محلوں کی نشاندہی کی ہے جہاں کی زبان اس زمانہ میں زیادہ صحیح اور فصیح خیال کی جاتی تھی۔ شہرِ دہلی فصیل بند تھا اور شہر سے باہر کی بستیاں اپنے بولنے والوں کے اعتبار سے اگرچہ زبان اور محاورہ میں اس وقت اصلاح و اضافہ کے عمل میں ایک گونا گو ”Contribution“ کرتی تھیں لیکن ان کی زبان، محاورہ اور روزمرہ پر اعتبار نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کا اظہار دہلی والوں نے اکثر کیا ہے۔ ”میرامن“ نے ”باغ و بہار“ کے دیباچہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اپنی سات پشتوں سے دہلی میں نہیں رہتے وہ دہلی کے محاورے میں سند نہیں قرار پاسکتے کہیں نہ کہیں ان سے چوک ہو جائے گا اور وہی صحیح بولے گا جس کی ”آنول نال“ دہلی میں گڑی ہوگی۔ اس سے دہلی والوں کی اپنی زبان کے معاملہ میں ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے۔ محاورے سے مراد انگریزی میں ”Proverb“ بھی ہے اور زبان و بیان کی اپنی ادائیگی بھی۔ محاورہ کے دو معنی ہیں ایک محاورہ بمعنی Proverb اور دوسرا محاورہ زبان و بیان کا سلیقہ طریقہ اور لفظوں کی Setting بھی۔

اس کے مقابلہ میں لکھنؤ والے اپنی زبان پر اور اپنے شہر کے روزمرہ اور محاورے کو سند سمجھتے تھے۔ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب میں ”میرامن“ کے چیلنج یا دعوے کا جواب دیا اور یہ کہا کہ لکھنؤ کی شہرت یہ ہے کہ باہر سے کوئی کیسا ہی گھامڑا اور کندہ ناتراش آتا ہے بے وقوف جاہل اور نہ مہذب ہو اور ہفتوں مہینوں میں ڈھل ڈھلا کر اہلِ زبان کی طرح ہو جاتا ہے یہ گویا ”میرامن“ کے مقابلہ میں دوسرا معیار پیش کیا جاتا ہے۔ بہر حال گفتگو محاورے اور شہر کے روزمرہ ہی کے بارے میں رہی۔

ہماری زبان میں ایک رجحان تو یہ رہا ہے اور ایک پُر قوت رجحان کے طور پر رہا کہ شہری زبان کو اور شرفا کے محاورات کو ترجیح دی جائے اور اسی کو سند اعتبار خیال کیا جائے اور اس کی کسوٹی محاورہ اہلِ دہلی قرار پایا۔

اس سلسلہ میں ایک اور رجحان رہا جو رفتہ رفتہ پُر قوت ہوتا چلا گیا کہ زبان کو پھیلا یا جائے اور دوسری زبانوں اور علوم و فنون کے ذریعہ اس میں اضافہ کیا جائے کہ زبان سکر کر اور ٹھنڈ کر رہ جائے۔ شہری سطح پر امتیاز پسندی آ جاتی ہے تو وہ لوگ اپنی تہذیب کو زیادہ بہتر اور شائستہ سمجھتے ہیں۔ اور اپنے لب و لہجہ کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں اور امتیازات کو قائم رکھتے ہیں۔ لکھنؤ اور دہلی نے یہی کیا۔ اس کے مقابلہ میں لاہور، کلکتہ اور حیدرآباد کا کردار دوسرا رہا شاید اس لیے کہ وہ اپنی مرکزیت کو زیادہ اہم خیال نہیں کرتے تھے۔ اور اس پر زور نہیں دیتے تھے اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، انھوں نے اضافہ سے کیے، اور نئی تبدیلیوں کو قبول کیا۔ زمانہ بھی بدل گیا تھا، نئے حالات، نئے خیالات اور نئے سوالات پیدا ہو گئے تھے۔ محاورہ کی ایک جہت ادبی ہے اور ایک معاشرتی یعنی زبان کے استعمال کی صحیح صورت۔ جب دہلی والے اپنے محاورہ کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد صرف "Proverb" سے نہیں ہوتی بلکہ اس روز مرہ سے ہوتی ہے جس میں بولی ٹھولی کا اپنا جینس (Genius) چھپا رہتا ہے اسی لیے دہلی والے ایک وقت اپنے محاورہ پر بہت زور دیتے تھے۔ اب وہ صورت تو نہیں رہی مگر محاورے کی ادبی اور تہذیبی اہمیت کو پیش نظر رکھا جائے یہ مسئلہ اب بھی اہم بلکہ یہ کہیے کہ غیر معمولی طور پر اہم ہے اس لیے کہ محاورہ زبان کی ساخت اور پرداخت پر بھی روشنی ڈالتا ہے اور زبان کے استعمال کی پہلو داریوں کو بھی سامنے لاتا ہے دہلی والے جامع مسجد کی سیڑھیوں کو اپنے محاورہ کی کسوٹی قرار دیتے تھے۔ اس کی اپنی لسانی ادبی تاریخی اور معاشرتی پہلو داریاں ہیں جن کو ان خاص علاقوں میں بولے جانے والی زبان اور اندازِ بیان نے اپنے ساتھ خصوصی طور پر رکھا ہے اور اس طرح کئی صدیوں کے چلن نے اسے سند اعتبار عطا کی ہے زبان اور بیان کی روایتی صورتوں کو الفاظ کلمات اور جملوں کو ایک خاص شکل دیتا ہے اس میں روایت بھی شامل ہوتی ہے اور بولنے والوں کا اپنا ترجیحی رویہ بھی کہ وہ کس بات کو کس طرح کہتے اور سمجھتے ہیں۔ محاورہ میں آنے والے الفاظ "تین پانچ کرنا" یا "نودو گیارہ ہونا"، "تین تیرہ بارہ باٹ" یہ ایک طرح سے محاورے بھی ہیں اور جملے کی وہ لفظی اور ترکیبی ساخت بھی جو اپنا ایک خاص "Setting" کا انداز رکھتی ہے۔

ان دو جہتوں کے ماسوا محاورہ کے مطالعہ کی ایک اور بڑی جہت ہے جس پر ہنوز کوئی

توجہ نہیں دی گئی یہ جہت محاورہ کے تہذیبی مطالعہ کی ہے اور اس کے ذہنی، زمانی، انفرادی اور اجتماعی رشتوں کو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس تعلق کو اس وقت تک پورے طور پر نہیں سمجھا جاسکتا جب تک ان تمام نفسیاتی، سماجیاتی اور شخصی رشتوں کو ذہن میں نہ رکھا جائے جو محاورہ کو جنم دیتے ہیں۔ اور لفظوں کا رشتہ معنی اور معنی کا رشتہ معنویت یعنی ہمارے سماجیاتی پس منظر اور تاریخی و نیز تہذیبی ماحول سے جوڑتے ہیں، یہ مطالعہ بے حد اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ذریعہ ہم زبان اس کی تہذیبی ساخت اور سماجیاتی پرداخت کا صحیح اندازہ کر سکتے ہیں۔

عام طور پر ہمارے ادیبوں، نقادوں اور لسانیاتی ماہروں نے اس پہلو کو نظر انداز کیا اور اس کی معنویت ان کی پر نظر نہیں گئی۔ اس کے لیے ہم ایک سے زیادہ محاوراتی صورتوں کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔

راقمہ الحروف نے اسی نسبت سے محاورے کے مطالعہ کو اپنا موضوع بنایا اور مختلف محاورے کے سلسلہ میں جو باتیں ذہن کی سطح پر تہذیب و معاشرت کے لحاظ سے ابھر کر سامنے آئیں ان کو اپنے معروضات میں پیش کر دیا۔ اسی کے ذیل میں مختلف محاورات اور ان کے فکر و فہم سے جو امور وابستہ ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے جس سے متعلق کچھ باتیں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔

مثلاً ”پانی“ آب ہی کو کہتے ہیں، روشنی، شفافیت اور کشش کے طور پر پانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ”پانی“ تلو اور آئینہ کے ساتھ یہی معنی دیتا ہے اور آنکھوں کے ساتھ بھی، ہم کچھ اپنی مثالوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں جن سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ محاورے کی سادہ سی صورت کے پس منظر میں تہذیبی معنی اور معنویت کے کیا کیا سلسلے ملتے ہیں مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کا پانی ڈھل گیا تو اس سے مراد آنکھوں کی کشش بھی ہوتی ہے، حیا و شرم اور غیرت کی وہ خوبی و خوبصورتی بھی جو آنکھوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور جب وہ نہیں رہتی تبھی تو یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا پانی ڈھل گیا۔ ہم استعارہ کی طرح محاورہ میں بھی لفظ سے معنی اور معنی سے در معنی کی طرف آتے ہیں۔ ”رنگ“ کا لفظ خوبصورتی کشش انداز و ادا سب کو دھنک کی طرح اپنے حلقوں میں لے لیتا ہے اس سے رنگینی بھی مراد ہوتی ہے۔ اور خوبصورتی بھی اور اہل زبان خاص انداز بھی شاعری میں طرز فکر اور انداز ادا کو رنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بے رنگ ہونے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص خوبصورتی و کشش نہ ہو۔ اسی لیے بے رنگی اشعار کی اس سادگی کو کہا جاتا ہے جن میں سپاٹ پن ہوتا ہے اور یہ کبھی کہا جاسکتا ہے کہ ان کے اشعار تو بالکل بے آب و رنگ ہیں۔ یعنی ان میں فکر و خیال کے اعتبار سے کوئی

حسن، کوئی جاذبیت اور کشش تھی ہی نہیں۔ اس اعتبار سے اس محاورہ کو ہم اپنی ذہنی زندگی اپنے احساسِ جمال اور سماجی رویہ کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں۔

زبانِ دانی کا جو معیار اہلِ شہر اپنی شہریت، اپنی گفتگو اور اپنے لب و لہجہ سے وابستہ کرتے ہیں اس کا ایک گہرا تعلق محاورہ سے بھی ہے کہ بغیر شہر میں قیام اور اس کے باشندوں سے تعلقات کے محاورے پر قدرت ممکن نہیں یہ بات ہم اہلِ شہر کی زبان پر اس حوالہ یا اس حوالہ سے برابر آتے ہوئے دیکھتے ہیں جن باتوں کا ذکر ہمارے یہاں زیادہ آتا ہے وہ ہمارے معاشرتی رویہ کی نفسیات یا سائیکلی کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی محاوروں کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ ہمارے نفسیاتی ماحول میں داخل ہیں اور جن باتوں سے ہم بہت متاثر ہیں محاورات میں ان کا ذکر آتا ہے اور ان کے لیے بار بار کوئی محاورہ ہمارے لبوں یا زبانِ قلم پر آتا رہتا ہے۔

محاورے ہماری ذاتی اور معاشرتی زندگی سے گہرا رشتہ رکھتے ہیں۔ محاوروں میں ہماری نفسیات بھی شریک رہتی ہیں مگر بیشتر اور ان کی طرف ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا کہ یہ ہماری اجتماعی یا انفرادی نفسی کیفیتوں کی آئینہ داری ہے اسی طرح ہمارے اعضا ناک، کان اور آنکھ بھوں سے ہمارے محاورات کا گہرا رشتہ ہے۔ مثلاً آنکھ آنا، آنکھیں دیکھنا، آنکھوں میں سمانا، آنکھوں میں کھٹکنا اور آنکھوں کا لڑنا یہ محاورے مختلف المعنی ہیں اور کہیں ایک دوسرے سے تضاد کا رشتہ بھی رکھتے ہیں۔ آنکھ سے متعلق کچھ اور محاورے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، آنکھ اٹھانا، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھ پھوڑنڈا، آنکھیں ٹیڑھی کرنا، آنکھ بدل کر بات کرنا، آنکھوں کا رخ بدلنا، آنکھوں میں رات کاٹنا، آنکھوں کا نمک کی ڈلیاں ہونا، استعاراتی انداز بیان ہے، جس کا تعلق ہماری شاعری سے بھی ہے اور سماجی شعور سے بھی یہ بے حد اہم اور دلچسپ بات ہے ”آنکھ بدل کر بات کرنا“ ناگواری، ناخوشی اور غصہ کے موڈ میں بات کرنا ہے جو آدمی اپنا کام نکالنے کے لیے بھی کرتا ہے۔ آنکھیں اگر تکلیف کی وجہ سے تمام رات کڑوا تی رہیں اور ان میں برابر شدید تکلیف ہوتی رہی ہو تو اسے ”آنکھوں کا نمک کی ڈلیاں ہونا“ کہتے ہیں یعنی یہ صورت تکلیف کی انتہائی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ ”آنکھیں پتھرانا“ اس کے مقابلہ میں ایک دوسری صورت ہے یعنی اتنا انتظار کیا کہ آنکھیں پتھر ہو گئیں۔ ”آنکھوں میں رات کاٹنا“ بھی انتظار کی شدت اور شام سے صبح تک اسی حالت میں رہنے کی طرف اشارہ ہے جو گویا رات کے وقت انتظار کرنے والے کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ ”آنکھ لگنا“ سوچانا اور کسی سے محبت ہو جانا جیسے میری آنکھ نہ لگنے کی وجہ سے میرے یار دوستوں نے اس کا چرچا کیا کہ اس کا دل کسی

پر آ گیا ہے اور کسی سے اس کی آنکھ لگی ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ جانے ہماری کتنی باتوں اور ذہنی حالتوں کو صبح و شام کی وارداتوں اور زندگی کے واقعات کو ہم نے مختصراً محاورہ میں سمیٹا ہے اور جب محاورہ شعر میں بندھ گیا تو وہ ہمارے شعور اور ذہنی تجربوں کا ایک حصہ بن گیا۔

راقمہ نے جن محاورات پر کام کیا ہے اور جن کا تہذیبی مطالعہ پیش کیا گیا ہے وہ "Proverb" کے معنی میں آئے ہیں صرف "Setting" کے معنی میں نہیں۔ "Proverb" (محاورے) سے لفظوں کی ایک ترکیبی یونٹ واحدہ ہوتا ہے جو ایک خاص انداز سے ترکیب پاتا ہے، اپنے معنی کا تعین کرتا ہے اور اپنی ہیئت اور صورت شکل پر قائم رہتا ہے محاورہ کی زبان بدلتی نہیں ہے جس کا تعین ایک مرتبہ ہو گیا اس کو ایک مستقل صورت مل جاتی ہے۔

راقمہ نے محاورات کے لفظ و معنی کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس کے مقابلہ میں محاورات کے لفظ و معنی میں تہذیب و تاریخ کے جو محرکات اور موثرات ملتے ہیں ان کو اردو کی اپنی معاشرت کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کے وسیلے سے بہت سے نئے معنی کا محاورات میں موجود ہونے کا انکشاف کیا ہے اس طرح کا کوئی کام اردو میں اب تک نہیں ہوا۔ جس سے محاورات کی تہذیبی اور تاریخی اہمیت کا حال معلوم ہو سکے۔

مختلف لغات میں جو محاورات دوسرے الفاظ کے ساتھ شریک ہیں ان کے معنی بھی لفظوں ہی کے طور پر دیے گئے ہیں ان سے اخذ نتائج کا کوئی عمل وابستہ نہیں کیا گیا۔ شہر وہلی، لال قلعہ نیز وہلی اور لکھنؤ کے محاورے میں جو فرق کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ ایک اہم کام ضرور ہے مگر تہذیبی اور معاشرتی نقطہ نظر سے ہنوز کوئی کام راقمہ کی محدود معلومات کے مطابق ابھی تک نہیں ہوا۔ دو شہروں کی زبان کا الگ الگ انداز اس میں ضرور زیر بحث آیا ہے۔ لیکن ہمارے سماج ہماری معاشرت اور ہمارے تہذیبی رویوں سے محاورہ کا جو خاص اور معنی خیز رشتہ رہا ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی اس پر بھی صاحبانِ قلم نے کوئی روشنی نہیں ڈالی کہ ہمارے یہاں جو محاورات موجود ہیں اور ہماری زبان کا حصہ ہیں ان میں سے بعض پر دوسری زبانوں کے کیا اثرات ہیں۔ عربی، فارسی، ہندی اور دیہاتی کا ان پر کیا اثر ہے اور ان کی لفظیات کو کس طرح دوسری زبانوں نے متاثر کیا ہے یہ اہم مسئلہ بھی محاورات پر علمی اور ادبی کام کرنیوالوں کے سامنے نہیں آیا ان کی توجہ زیادہ تر لغت پر رہی ہے اور اسی دائرہ میں رہ کر انھوں نے سوچا اور اپنے طور پر پروقاہ کام کیا ہے۔

ایسے لغت بھی تیار ہوئے جس میں محاورات کو لفظی وحدتوں کے طور پر جمع کیا گیا اور ان کے معنی بتلائے گئے۔ ہماری درسیات میں یہ شامل رہا ہے کہ محاورات پر ان کے معنی

سمجھانے کے لیے ضرور روشنی ڈالی جائے اور معنوی سطح پر لغوی نقطہ نظر سے ان کے معنی لکھ دیے جائیں۔ لیکن محاورے وہ شہروں میں رائج ہوں یا قصبہ میں، ادبی زبان میں یا عام بول چال میں ان کا ہماری تہذیبی ماحول سے کیا رشتہ ہے اس طرف ہنوز کسی کی توجہ مبذول نہیں ہوئی۔ محاورات پر دوسرے اہل قلم نے جو کام کیا ہے اس کی نوعیت بہر حال جداگانہ ہے وہ کام اس نقطہ نظر سے نہیں ہوا جو راقمہ کے سامنے رہا ہے۔ آج تو اس کی بھی بہت ضرورت ہے کہ اردو میں محاوروں کو جمع کیا جائے اور لغت المحاورات مرتب کی جائے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے اس کی ایک نمایاں مثال چرنجی لال کی معروف تصنیف ”مخزن المحاورات“ ہے۔ مولانا سید احمد دہلوی کی معروف لغت ”آصف اللغات“، ”فرہنگ آصفیہ“ اور ”نور اللغات“ مصنفہ مولانا نور الحسن علوی کا کوروی بھی اپنے دامن میں بہت سے محاورات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔

راقمہ کے اس کام کی نوعیت اس سے مختلف ہے اور وہ محاورات کی صرف جمع آوری یا ان کی (لغوی) سطح پر معنی نگاری نہیں ہے بلکہ ان کی تہذیبی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہمارے محاورے اپنے لفظ و معنی میں کس حد تک تہذیبی تصورات یا تصویروں کو جمع کیے ہوئے ہیں کہ یہ ایک جداگانہ کام ہے بلکہ محاورات کا ایک تہذیبی مطالعہ ہے کہ وہ ہماری زندگی ہمارے ذہن ہماری معاشرتی فکر اور تہذیبی تقاضوں کی کس طرح عکاسی کرتے ہیں۔

راقمہ سطور نے اسی نقطہ نظر سے محاورے کے مطالعہ اور ان کی پیش کش کا یہ منصوبہ اپنے سامنے رکھا ہے اور اس پر اپنی محدود نظر کے مطابق محاورات کو جمع کرنے کے علاوہ ان پر تنقیدی اور تہذیبی گفتگو کی ہے۔ محاورات کو حروفِ تہجی کے تحت رکھا گیا ہے اور اس ضمن میں نسبتاً اہم محاورات ہی کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اور اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس محاورہ سے ہمارے ذہن زندگی اور زمانہ کا کیا رشتہ ہے۔

ہم اپنے معاشرتی رویوں کو اس لیے بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری تہذیبی تاریخ جن جن مرحلوں سے گزری ہے اور جن معاشرتی آداب و رسوم نے ہمارے طبقاتی معاشرے اور علاقائی سطح پر بننے بگڑنے والے سماج کو متاثر کیا ہے ان کی ایک متحرک تصویر سامنے آتی ہے۔ راقمہ الحروف کے سامنے اردو کا وہ لغت خاص طور پر رہا ہے جو محاورات پر مشتمل ہے اور جسے چرنجی لال نے ترتیب دیا ہے اس کا نام ”مخزن المحاورات“ ہے۔ چرنجی لال نے اسے ۲۵ مئی ۱۸۸۶ء میں نشی بلاتی داس دہلوی کے مطبع سے شائع کیا۔ اس کے کاتب کا نام سید عبداللطیف اور اس کے ساتھ ساکن سبز منڈی بیرون شہر لکھا ہوا ہے۔

اس کے بعد غلط نامہ کے صفحات آئے ہیں جن کا سلسلہ تحریر و نگارش سات سو اکتھ ۷۶ صفحہ پر ختم ہوتا ہے اس کے بعد تمام شد تحریر ہے۔ اس کے ذیل میں قطعہ تاریخ بابوٹھا کرگلاب سنگھ صاحب متخلص بہ مشتاق سب در سیر ہنر جن غربی ڈو یزن دہلی ساکن شہر میرٹھ لکھا ہوا ہے۔

قطعہ

لکھتے ہیں اس کتاب میں مشتاق خوب اردو محاوروں کے حال
میں نے بھی اس کا بے سراعدا نسخہ بے نظیر لکھا سال

۱۸۸۶ھ

نسخہ بے نظیر مادہ تاریخ ہے پہلے مصرعہ میں بے سراعدا لکھ کر تخریج کے اعداد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ”یہ عدد خارج ہونا“ اتنے عدد مادہ تاریخ سے نکالے جائیں گے تب جا کے سال تاریخ کے اعداد آئیں گے۔

یہ کتاب اب نایاب ہو چکی ہے اس کا ایک ہی نسخہ اب دہلی جیسے شہر میں موجود ہے۔ اور ڈاکٹر تنویر احمد علوی کے ذاتی کتب خانہ کی زینت ہے۔ موصوف ہی نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ میں محاورات کے تہذیبی مطالعہ پر کام کروں یہ کام اب تک راقمہ کی محدود معلومات کے مطابق کسی دوسرے شخص یا ادارے نے نہیں کیا۔

میرے بعض ساتھیوں اور احباب نے مجھے اس نئی تنقیدی اور تہذیبی مطالعہ کے کام میں مشورہ دیا اور اپنی رائے اور اظہار خیال سے میری راہ فکر و عمل کو روشن کیا۔ میں اپنی اس ناچیز کوشش کے سلسلہ میں اپنے اساتذہ ڈاکٹر تنویر احمد علوی (دہلی یونیورسٹی) ڈاکٹر شریف احمد (دہلی یونیورسٹی) اور سید ضمیر حسن دہلوی (ذاکر حسین کالج) نیز اپنے علمی احباب اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا اپنا ادبی فریضہ خیال کرتی ہوں۔ علاوہ بریں میں دہلی اردو اکادمی کی اشاعتی کمیٹی کے اراکین نیز ادارے کے دوسرے معزز کارکنان اور اکادمی، کی ایگزیکٹیو کمیٹی کے وائس چیئرمین جناب م۔ افضل صاحب اور مرغوب جیدر عابدی (سکرٹری دہلی اردو اکادمی) کی ممنون ہوں کہ انھوں نے میرے اس کام کی انجام دہی میں خاص طور پر تعاون کیا اور اس کی اشاعت میں خصوصی دلچسپی لی۔

ڈاکٹر عشرت جہاں ہاشمی، دہلی

محاورات

ر د ی ف _ _ الف

◇ اُبلا سُبلا، اُبالا سُبالا

اگر ہم اس محاورہ کی لفظی ترکیب پر غور کریں تو اس سے ایک بات پہلی نظر میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں الفاظ کے ساتھ ایسے الفاظ بھی لائے جاتے ہیں جن کا اپنا اس خاص اس موقع پر کوئی خاص مفہوم نہیں ہوتا لیکن صوتی اعتبار سے وہ اس لفظی ترکیب کا ایک ضروری جز ہوتے ہیں۔ اس طرح کی مثالیں اور بھی بہت سی مل سکتی ہیں، جیسے "الابلا"، "انکل پچو"، "ابے تے"، "نال مٹول"، "کانچ کچور" وغیرہ۔

"اُبلا سُبلا" ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب کسی عورت کو اچھا سالن بنانا نہیں آتا۔ ہمارے ہاں کھانا بنانے کا آرٹ گھی، تیل، بگھار، گرم مسالہ، گوشت وغیرہ ڈال کر اس کو خوش ذائقہ اور لذیذ بنایا جاتا ہے۔ سالن میں جتنی ورائٹی (variety) ہو سکتی ہے، ان سب میں ان کو دخل ہے کہ وہ بھنے چنے ہوں۔ شوربہ، مصالحہ، اس میں ڈالی ہوئی دوسری اشیا اگر خاص تناسب کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر وہ سالن دوسروں کے لیے "اُبلا سُبلا" ہے، یعنی بے ذائقہ ہے اور اسی لیے بے نمک سالن کا محاورہ بھی آیا ہے، یعنی بے ذائقہ چیز۔ اس سے ہم اس گھریلو ماحول کا پتہ چلا سکتے ہیں جس میں ایک عورت کی کھانا پکانے کی صلاحیت کا گھر کے حالات کا ایک عکس موجود ہوتا ہے کہ اس کے ہاں تو "اُبلا سُبلا" پکتا ہے۔

◇ اُبلا پری، اُبلا رانی ہونا

بہت خوب صورت ہونا۔ اصل میں رانی اور راجہ کا لفظ مرد اور عورت کے شخصی امتیاز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھولوں میں بھی ایک پھول دن کا راجہ ہوتا ہے اور ایک رات کی رانی۔ اس سے بھی پھولوں میں ان کا ممتاز ہونا ظاہر ہے۔ "ابلا" لڑکی کو کہتے ہیں اور جسے بہت خوب

صورت لڑکی ظاہر کرنا ہوتا ہے یا پھر سمجھا جاتا ہے، اسے "ابلا پری" کہا جاتا ہے۔
 قدیم ہندوستان میں پریوں کا تصور نہیں تھا۔ اسی لیے "ابلا رانی" کہا جاتا تھا۔ جب
 فارسی کے ذریعہ "پری" کا تصور آیا تو "ابلا پری" کہا جانے لگا۔ بہر حال، "ابلا پری" ہو یا
 "ابلا رانی"، حسن کا ایک آئیڈیل تصور ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لفظی طور پر ہم نے
 فارسی سے جو الفاظ لیے ہیں، ان کا ہماری تہذیب سے بھی ایک رشتہ ہے۔ حسین عورت کو ہم
 "پری چہرہ" بھی کہتے ہیں، چاہے دیووں، جن، بھوتوں اور پریوں کو مانتے ہوں یا نہ مانتے
 ہوں۔ حضرت امیر خسرو کا مشہور فارسی شعر ہے

پری پیکر، نگار سرو قدے، لالہ رخسارے

سراپہ آفتِ دل بود، شب جائے کہ من بودم

یعنی وہ جو پری پیکر ہے، حسین اور خوب صورت ہے، سرو قد ہے، لالہ رخسار ہے اور
 سرتا پا آفتِ دل ہے اور میں نے رات اسے اس کی تمام جلوہ آرائیوں کے ساتھ دیکھا
 ہے۔ اس شعر کو اگر دیکھا جائے تو اس میں "ابلا رانی" یا "ابلا پری" کی وہ خوبیاں نظر آتی ہیں
 جو ایرانی تصورِ حسن کو پیش کرتی ہیں اور ہندوستان کی ایک حسین عورت کی خوب صورتیاں اس
 میں جھلکتی ہیں۔ "ابلا رانی" سے "ابلا پری" تک محاورہ کا یہ شعر ہماری تہذیبی تاریخ کی روشن
 پرچھائیوں کی ایک متحرک صورت ہے۔

◇ ابجد خواں ہونا

حروف کو لکھنے کی دو ترکیبیں ہیں۔ ایک وہ جس کو ہم حروفِ تہجی کی ترکیب کہتے ہیں یا
 اُردو والے "الف، ب، ت" کے سلسلے سے وابستہ کرتے ہیں۔ دوسرا وہ سلسلہ یا ترتیب ہے جن
 کو "حروفِ ابجد" سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ ابجد، ہوز، حلی، کلمن، سعفص، قرشت، تحذ، ضظغ۔
 یہی وہ حروف کی ترتیب ہے جس میں ان حروف کے اعداد مقرر کیے جاتے ہیں۔

ابجدی ترتیب مندرجہ ذیل ہے۔

الف (۱)، ب (۲)، ج (۳)، د (۴)، ہ (۵)، و (۶)، ز (۷)، ح (۸)، ط (۹)،
 ی (۱۰)، ک (۲۰)، ل (۳۰)، م (۴۰)، ن (۵۰)، س (۶۰)، ع (۷۰)، ف (۸۰)،
 ص (۹۰)، ق (۱۰۰)، ر (۲۰۰)، ش (۳۰۰)، ت (۴۰۰)، ث (۵۰۰)،
 خ (۶۰۰)، ذ (۷۰۰)، ض (۸۰۰)، ظ (۹۰۰)، غ (۱۰۰۰)۔

نام یا تاریخ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نام یا اس تاریخ سے متعلق حروف کے اعداد لے لیتے ہیں اور ان کو جمع کرتے ہیں۔ حاصل جمع جو بھی عدد ہوتا ہے اس سے تاریخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں دو ہی سنین جاری رہے ہیں، ایک ہجری، دوسرا عیسوی۔ عیسوی سن بھی کم نکالا جاتا ہے۔ ہندو سببت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں تاریخ نکالنے کا کوئی دستور نہیں ہے۔ اس لیے ان کے ہاں ث، خ، ذ، ض، ظ اور غ استعمال ہی نہیں ہوتے۔ جب یہ حروف ہی ان کی زبان میں شامل نہیں تو ان کے اعداد وہ کیسے مقرر کریں۔

غرض کہ ان حروف سے جو ترتیب قائم ہوتی ہے، اسے ”ابجدی ترتیب“ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ا، ب، ت، ث، سے جو ترتیب قائم ہوتی ہے، اسے ترتیب حروفِ ہجا کہا جاتا ہے۔ یہاں محاورہ میں ”ابجد خواں“ کہا گیا ہے۔ اس سے مراد صرف ا، ب، ت، ث لی گئی ہے حروفِ ابجد نہیں۔ یعنی میرا معاملہ تو صرف حروفِ شناسی کی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک علم کا معیار کافی اونچا تھا اور ازراہ کس نفسی ایک پڑھا لکھا آدمی بھی خود کو ابجد خواں کہتا تھا اور دوسروں کی کم علمی کا اظہار بھی اسی انداز سے کیا جاتا تھا۔

◆ اپنے تئیں شارحِ زعفران سمجھنا

آدمی میں اس کی اپنی نفسیات یا ماحول کی نفسیات کے تحت طرح طرح کے ذہنی رویے "develop" ہو جاتے ہیں۔ ان میں بدلاؤ بھی آتا ہے لیکن ایک وقت میں یہ انسان کے فکر و کردار کا بہت نمایاں حصہ ہوتے ہیں اور اگر ان میں نمود و نمائش کا پہلو زیادہ ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے تکلیف یا مذاق کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسے کسی شخص کو وہ عورت ہو یا مرد بڑا ہو یا چھوٹا، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو شارحِ زعفران سمجھتے ہیں یعنی بہت بڑی چیز خیال کرتے ہیں۔ زعفران جڑی بوٹیوں میں بہت قیمت کی چیز ہے۔ اسی لیے ”شارحِ زعفران ہونا“ گویا بڑی قدر و قیمت رکھنے والا شخص ہے۔

محاورے ہمارے معاشرتی رویوں پر جو روشنی ڈالتے ہیں اور سماج کے مزاج و معیار کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں یہ محاورہ بھی شامل ہے۔ ”اپنے آپ کو دور کھینچنا“ بھی کم و بیش اسی امتیاز پسندی اور مغروریت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

◆ اپنا اُلوسیدھا کرنا

عجیب و غریب محاورہ ہے جس میں اُلو کے حوالہ سے بات کی گئی اور معاشرے کے ایک

تکلیف دہ رویہ کو سامنے لایا گیا یا اس پر طنز کیا گیا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب آدمی وہ کوئی بھی ہو، اپنا بیگانہ، امیر غریب، دوسرے سے اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے اور مطلب برآری کے لیے دوسرے سے چالپوسی اور خوشامد کی باتیں کرتا ہے اور مقصد اپنا مطلب نکالنے سے ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ایک اور محاورہ بھی ہے یعنی دوسرے کو ”الو بنانا“ یعنی بیوقوف بنانا۔

◇ اپرادھ ہرنا (ہڑنا)

”ہڑنا“ دیہات میں عام بولا جاتا ہے، جیسے پیسے ہڑنا، عقل ہڑنا۔ یہ ”ہڑنا“ ہڑپ کرنے کے معنی میں آتا ہے یعنی سوجھ بوجھ کو سلب کر لینا، عقل کو چھین لینا۔ اپرادھ ہندی میں گناہ، قصور اور خطا کو کہتے ہیں۔ آدمی خدا کا تصور بھی کرتا ہے، سماج کے نقطہ نظر سے بھی اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ وہ جرم کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ بے حد نقصان پہنچانے والے معاشرتی یا دینی جرم کو مذہب کی اصطلاح میں پاپ، اپرادھ یا گناہ کہتے ہیں۔ انسان کو اس طرح کے گناہوں کا احساس رہا ہے۔ اسی لیے اس نے معافی مانگنے کا اخلاقی رویہ بھی اختیار کیا اور گناہ بخشوانے کا تصور بھی اس کی زندگی میں داخل رہا۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن انسان نے گناہ بخشوانے یا بخشے جانے کا خیال ذہن میں رکھتے ہوئے طرح طرح کی باتیں سوچیں۔ مذہبی عبادات میں اس کے وسیلے تلاش کیے۔ مسلمانوں میں تو یہ بات یہاں تک آگئی کہ فلاں وقت کی نماز پڑھنے یا حج کرنے سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہندوؤں نے بھی تیرتھ یا ترا اور اشنان میں ان وسائل کو ڈھونڈا اور آخر کار اس پر مطمئن ہو گئے۔

◇ اپنی اور نہارو۔ اپنی طرف خیال کرو

نہایت اہم محاورہ ہے۔ اس لیے بھی نہارنا بہ معنی دیکھنا، ہماری زبان میں ایک قدیم فعل ہے اور ہندوی ہے۔ ہمارے زیادہ تر مصدر ہندوی ہیں اور ان سے ہماری زبان کی بنیادی ساخت کا پتہ چلتا ہے۔ محاورہ اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ معاشرے کا ذہنی رویہ کیا رہا ہے۔

”اور“ کے معنی ہیں طرف۔ اسی لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اپنی طرف خیال کرو۔ اس کے معنی ہیں کہ آدمی کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو نہ دیکھو، اپنی بڑائی یا برائی کا خیال کرو۔ معاشرے میں جو رواروی کا رویہ موجود رہتا ہے کہ آدمی خود کو نہیں دیکھتا، دوسروں پر اعتراض کرتا ہے۔ اپنی کوئی برائی اس کو نظر نہیں آتی، دوسروں کی کمزوری کی طرف خواہ مخواہ اشارہ کرتا

ہے۔ یا پھر دوسروں کا رویہ بہت غلط، ناروا اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی ہم سلجھ کر اور سمجھ کر بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت و آبرو سنبھالنی ہوتی ہے۔ انھی سماجی امور کی طرف اس محاورہ میں توجہ دلائی گئی ہے۔

◇ اپنی ایڑی دیکھو

ایڑی پاؤں کا پچھلا اور نچلا حصہ ہوتا ہے۔ اس کی طرف نظر کم جاتی ہے۔ اس معنی میں ایڑی ایسی چیزوں کی طرف اشارہ ہے جن کو آدمی نہیں دیکھتا اور جن پر نظر نہیں ڈالتا۔ یہ اس کے اپنے عیب بھی ہو سکتے ہیں جن کی طرف سے وہ بے پروا ہوتا ہے۔ اسی لیے عورتیں اپنی مخالف عورت سے کہتی ہیں کہ مجھے کیا کہہ رہی ہے، اپنی ایڑی دیکھ۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں جو خرابیاں اخلاقی سطح پر پیدا ہوتی یا رونما ہوتی ہیں، ان پر دوسرے توجہ دلاتے ہیں اور طنز و تعریض کے موقع پر دلاتے ہیں، مگر آدمی خود متوجہ نہیں ہوتا۔

◇ اپنی رادھا کو یاد کرو

سماجی طور پر یہ محاورہ ہندو کلچر سے رشتہ رکھتا ہے۔ ہندو فلسفہ کے مطابق رادھا سری کرشن کی محبوبہ تھی۔ اس کے فلسفیانہ طور پر یہ معنی ہیں کہ وہ سری کرشن کی مزاج آشنا اور ان کی خوبیوں کی معترف تھی۔ محبت کے رشتے میں مزاج شناسی اور خوبیوں کا اعتراف بڑی بات ہے۔ عام طور سے ہم محبت کے رشتے کو جنس اور جذبہ کا رشتہ سمجھتے ہیں یا پھر خون کے رشتے کا تقاضا، جب کہ محبت کا رشتہ خوبیوں کے اعتراف اور اعتماد کی دین ہوتا ہے۔ کرشن اور رادھا کے رشتے میں یہی خلوص خاطر اور دلی تعلق موجود تھا۔ جو سماجی رشتوں میں کہیں کم اور کہیں زیادہ ناپید ہوتا ہے۔

اس محاورے میں اس پہلو کو طنز کے طور پر سامنے لایا گیا ہے کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑو، بے تعلق ہو جاؤ اور اپنی لگی لگی رادھا کو یاد کرو۔ رادھا کا حوالہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ عورتوں کا محاورہ ہے۔ چونکہ سماج میں عورت ایک گھرے ہوئے ماحول میں رہتی ہے، اس لیے اس کے ہاں "preservation" یعنی محفوظ رکھنے کا عمل زیادہ ہوتا ہے اور قدیمانہ ماحول، محاورے، زبان اور رسم و رواج زیادہ تر عورتوں ہی کے وسیلے سے باقی رہتے ہیں۔ تمام محاورے عورتوں کے ہی نہیں ہیں، یہ مختلف طبقوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ان میں سے بعض محاورے خاص طور پر مردوں سے ذہنی رشتہ رکھتے ہیں، مثلاً اپنی "صلیب آپ اٹھانا۔" ظاہر ہے کہ

عورتوں کو صلیب نہیں دی جاتی تھی، مردوں ہی کو دی جاتی تھی۔ ”پھانسی چڑھنا“ بھی مردوں ہی کا محاورہ ہے۔ ”اپنی قبر آپ کھودنا“ بھی مردوں کا محاورہ ہے، اس لیے کہ عورتیں قبرستان نہیں جاتیں اور نہ ہی قبر کھودتی ہیں۔ ”اپنے قول کا پکا ہونا“ بھی مردوں سے ہی متعلق محاورہ ہے۔

◇ اپنی کھال میں مست ہونا

معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں میں خود پسندی یا خودداری زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کسی دوسرے کے احسان مند بننا نہیں چاہتے۔ اب اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک عجیب سی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اپنی کھال میں مست ہو جانا۔ یعنی ایک آدمی غریب بھی ہو، خوددار بھی ہو، یا پھر اپنے معاملات سے بے پروا اور بے خبر بھی رہنا چاہتا ہو، ایسے موقع پر طنزاً یہ کہا جاتا ہے کہ انھیں کسی کی کوئی پروا نہیں۔ اپنی پروا بھی نہیں۔ وہ تو بس اپنی کھال میں مست ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ معاشرے کا ایک نفسیاتی مطالعہ ہے۔ اس سے اریب قریب ”آپا بسرانا“، ”آپا تجنا“، ”آپا تچ دینا“ محاورے ہیں جن کے معنی ہیں خود فراموشی اختیار کرنا۔

◇ اپنی گڑیا آپ سنوارنا

گڑیاں ہندوستانی تہذیب کی ایک علامت ہیں۔ اب تو پلاسٹک کی گڑیاں بننے لگی ہیں۔ ایک زمانے میں یہ کپڑے اور روئی سے تیار ہوتی تھیں اور گھر کی بڑی بوڑھیاں بچیوں کے لیے کھیل کی غرض سے بناتی تھیں۔ گھر میں جو گھریلو سامان ہوتا ہے، اسی کی نقل گڑیوں کے برتنوں میں تیار کی جاتی تھی۔ چھوٹا سا پلنگ، تکیہ، لحاف اور پتیلی، چمچہ، کٹوری وغیرہ وغیرہ۔

گڑیوں کی شادی رچائی جاتی تھی۔ مایوں کی رسم الگ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ پیر مکوڑا الگ بنتا تھا۔ یہ کسی بزرگ کی چھوٹی سی قبر ہوتی تھی اور اس کے چاروں طرف احاطہ اور جھنڈیاں نیز چھوٹی چھوٹی شمعیں جو اسی مقصد کے لیے تیار ہوتی تھیں۔ اور اس طرح گویا ایک عرس کا سماں باندھا جاتا تھا۔

گڑیوں کے ذریعہ بچیوں کو گھر گریہستی کے بہت سے کام آجاتے تھے اور باتیں معلوم ہو جاتی تھیں۔ اپنی گڑیاں سنوارنا، اپنی گھر گریہستی کو بہتر بنانا، اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کرنا ان کو سلیقہ سکھلانا۔ پڑھانے لکھانے کا پہلے رواج نہیں تھا۔ اس سے ہم گھریلو معاشرت اور وہاں کی تہذیبی فضا کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔

◇ اپنی گوں کا یار

معاشرے میں جو بھی عیب ہوتے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور محاورے زیادہ تر انہیں پر بنے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو بات محاورے میں کہہ دی گئی، وہ بات واضح ہو گئی لیکن محاورے کی وجہ سے وہ پھر رواج عام کا حصہ بن گئی اور اس کی معاشرتی حیثیت پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ اس محاورے میں گوں کے معنی ہیں خود غرض، مطلبی۔ ہم اسے اس طرح بھی کہتے ہیں کہ وہ ہماری گوں کا آدمی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا مطلب اس سے نہیں نکل سکتا۔ گوں گیرا بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کی تلاش میں رہتا ہے۔ ”اپنی گوں کا یار“ بہت واضح صورت ہے کہ وہ خود غرض اور مطلبی ہے۔ ”آپ سوار تھی“ کے معنی بھی یہی ہیں جس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔

◇ اپنی چھا کو کون کھٹی کہتا ہے

یہ محاورہ بھی ہمارے معاشرے کے رویے پر ایک طنز ہے۔ ”چھا“ بلوئے ہوئے دودھ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے گھی یا مکھن نکل جاتا ہے۔ یہ صحت کے لیے اور خاص طور پر پیٹ کو درست رکھنے کے لیے بہت اچھی غذا ہے، مگر کھٹی چھامزے دار نہیں ہوتی۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محاورہ شہر سے وابستہ نہیں ہے۔ گاؤں یا قصبے سے متعلق ہے جہاں ”چھا“ پینے کا رواج عام تھا۔ کچھ لوگ ”چھا“ بیچتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ ہماری چھا میٹھی ہے۔ جھوٹ بولتے تھے۔ اسی سے یہ محاورہ وجود میں آیا اور اب اس کے معنی ہمارے معاشرتی رویوں سے جڑ گئے کہ ہم اپنوں کو برا کہنا نہیں چاہتے اور اپنی کوئی برائی تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے موقع کے لیے کہا جاتا ہے کہ ”اپنی چھا کو کون کھٹی بتاتا“ ہے۔ اس اعتبار سے یہ معاشرے کا ایک عیب ہے کہ وہ سچ بولنے کے بجائے چھوٹ بول کر اپنا کام چلانا چاہتا ہے۔ اس میں شہر اور دیہات سب شریک ہیں۔

◇ اپنی بات کا تیج کرنا

اپنی بات پر جمننا اور اس کے حق میں طرح طرح کی دلیلیں دینا۔ وہ دلیلیں اس بات کو اور بگاڑ دیتی ہیں اور وہ صورت ہوتی ہے عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اسی لیے بات میں سلیقہ ہونا چاہیے۔ جہاں یہ دیکھو کہ دلیل نہیں چلے گی، وہاں اپنی بات پر اڑنے کے بجائے معذرت کر لو اور غلطی کو مان لو۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔

◆ اپنے نصیبوں کو رونا

مشرقی اقوام قسمت کو بہت مانتے ہیں، اب ہم جاپان اور چین کو الگ کر دیں تو بہتر ہے مگر محاورہ اپنی جگہ پر ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ معاشرے میں زیادہ تر لوگ نکلے پن کا اظہار کرتے ہیں، وقت پر تدبیر نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، ناکام رہتے ہیں اور قسمت کی شکایت کرتے ہیں۔ ایسے ہی موقع کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی قسمت کو بیٹھے رو رہے ہیں۔ تقدیر پر اعتماد کوئی بُری بات نہیں مگر اپنی سی بہترین کوشش کرنے کے بعد آدمی ایسا سوچے تو غلط نہیں ہے۔ وہاں بھی تقدیر کی برائی شریک نہیں ہوتی۔ دوسروں کی بدمعاشی، بددیانتی شریک ہوتی ہے۔ ہم چونکہ کچھ نہیں کر پاتے، معاشرہ اپنی جگہ پر رہتا ہے اور دوسرے ہمیں اپنی فریب کاریوں، جھوٹ سچ اور غلط سلسلہ طریقہ سے دھوکا دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی تقدیر کو برا کہنے بیٹھ جاتے ہیں اور جو زیادہ مذہبی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیوں ایک کے ساتھ انصاف اور دوسرے کے ساتھ نا انصافی کرے اور آپ کو مصیبت میں ڈالے۔ اتفاقی طور پر کچھ باتیں ضرور ہو جاتی ہیں اور وہ بہت بڑے نقصان اور فائدے کا سبب بنتی ہیں۔ مگر سبب بہر حال ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔

◆ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا

ہم جن معاشرتی کمزوریوں، برائیوں اور عیبوں کا شکار ہیں، اور نہ جانے کب سے رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، طعن و تعریض کرتے ہیں، وہ خود ہم میں ہوتے ہیں۔ لیکن نہ ہم کبھی اپنی طرف دیکھتے ہیں، نہ ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم اپنے خاندان، اپنے عزیز اور اپنے گروہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ عیب ان میں بھی ہیں۔ صرف دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہیں سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، دوسروں کے رویے میں اختلاف کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اور کہتے یہ ہیں کہ اپنے گریبان میں تو منہ ڈال کر دیکھو کہ تم خود کیا ہو، تمہارا اپنا کردار کیا ہے۔ تمہاری اپنی انسانی خوبیاں کیا ہیں اور کتنے عیب ہیں جو تمہارے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ صرف کوئی سیدھا سادہ محاورہ نہیں ہے بلکہ ہمارے سماجی ماحول اور آپسی رویوں پر ایک تبصرہ ہے۔

◆ اپنی اپنی پڑنا

آدمی خود غرض تو ہوتا ہی ہے، اس کی معاشرتی زندگی اور آپسی معاملات کے تلخ تجربے

اس کی انسانی فطرت کو زیادہ گرد آلود کر دیتے ہیں۔ گاہ گاہ ہمارا ماحول اس طرح بدلتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے لیے جواز تلاش کر لیتے ہیں اور بے طرح خود غرضیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا یا ان کے کام آنا، ان کے مسائل سے دل چسپی لینا، اپنی مجبوری کے تحت ہو۔ آدمی صرف اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اپنی ضرورتوں کی طرف دیکھتا ہے، اس وقت سماج میں ایک آپادھاپی شروع ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب کسی کو کسی کی پروا نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔

◇ اپنا کیا دھرا سب بیکار ہونا

آدمی اپنے ہوش و حواس اور سوچ بوجھ کے ساتھ اگر فیصلہ کرنے، قدم اٹھانے اور آئندہ کے لیے کوئی پلان بنانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو ایسا کرتا ہے، چاہے سب نہ کرتے ہوں یا سب نہ کر سکتے ہوں۔ کچھ لوگ جو کرتے ہیں، اگر ان کے قریب ترین افراد اس میں معاون نہیں ہوتے تو اکثر وہ بیکار ہو جاتا ہے اور وہ نتیجہ سامنے نہیں آتا جس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، چاہے اس کی کوشش میں کچھ لوگ شریک ہوں اور چاہے کسی کی اپنی ہی کوشش کا وہ نتیجہ ہو۔ ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے کہ اس کا یا ہمارا یا میرا اپنا کیا دھرا سب بیکار ہو گیا۔ اسی مفہوم میں ”آٹا مائی ہونا“ بھی کہتے ہیں۔

◇ اٹھکھیلیاں کرنا

آٹھ کا لفظ ہمارے ہاں صرف ایک عدد نہیں ہے بلکہ نشان شمار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ دوسرے مفہوم بھی ہیں۔ مثلاً، آٹھواساں، اٹھواسی، جو اشرافی کو بھی کہتے ہیں اور کسی ایسے بچہ کو بھی اٹھواساں کہا جاتا ہے جو مدت حمل پورا ہونے سے پہلے آٹھویں مہینے میں پیدا ہو جائے۔ ”آٹھوں گانٹھ کیت“ ایسا گھوڑا ہے جو ہر طرح چاق و چوبند ہو، تندرست و توانا ہو۔ اسی طرح آٹھ پہر دن اور رات کے چار چار پہر ہوتے ہیں لیکن ”اٹھکھیلیاں“ ایک دل چسپ محاورہ ہے جس میں ہلسی مذاق کے ایسے تمام پہلو جمع ہو جاتے ہیں جن میں کوئی تکلیف دینے والی بات نہ ہو۔ یعنی آٹھ کھیل جو باتوں سے متعلق ہوں۔ اس کو ہم جنسی اور جذباتی طور پر نہیں لیتے ورنہ اس کا تعلق جنس و محبت کی بعض روشوں سے بھی ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک محاورہ ”بارہ سولہ سنگھار“ یعنی بارہ لباس اور سولہ سنگھار۔ ابرن بارہ طرح کے کپڑے ہیں جو پہنے جاتے ہیں اور سنگھار آرائش کے وہ طریقے ہیں جو امیر گھر والوں میں رائج رہے ہیں۔

◇ اُجلی یا اُجلی سمجھ۔ اُجلی طبیعت

اس میں کچھ محاورے ایسے ہیں جو خاص دہلی سے تعلق رکھتے ہیں اور دہلی کی عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً، اُجلی کی بات وہ دھوبن کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ صبح کے وقت یا رات کو عورتیں دھوبن کہنا برا سمجھتی ہیں۔ اسی لیے دھوبن کو اُجلی کہہ کر یاد کرتی ہیں۔ یہ دہلی کے خاص الفاظ یا عورتوں کے استعارہ میں شامل ہے اور اس اعتبار سے دہلی کی تہذیبی زندگی کا ایک خاص محاورہ ہے۔

اُجلی سمجھ اور اُجلی طبیعت دہلی کی عورتوں میں خاص طرح کی سوجھ بوجھ اور عقل و دانش کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اندھیرے یا اُجالے کا تعلق صرف صبح و شام یا دن رات کی قدرتی کیفیات سے نہیں ہے بلکہ انسانی ذہن، فطرت، سوجھ بوجھ اور نا سمجھی سے بھی ہے۔ اور یہیں سے انسان کا فطرت اور تہذیب سے ذہنی رشتہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا ہی ایک محاورہ ”اُجلی گزاران“ بھی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خوش حال اور خوش باش زندگی۔

”اجلا منھ ہونا“ بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں عزت و آبرو سے زندگی گزارنا۔ اس کے مقابلے میں ”منھ کالا کرنا“ بے عزتی کے کام کرنا ہوتا ہے۔

◇ اچھانکا

مغربی یو۔ پی۔ میں اچھی زندگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ نکا دراصل نکو ہے جو فارسی میں نیک کے معنی میں آتا ہے اور مراد وہی اچھائی یا بھلائی ہوتی ہے۔

محاورے میں الفاظ لغوی معنی میں نہیں آتے۔ ان کے کچھ مرادی معنی ہوتے ہیں جو اصل معنی سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ استعارہ اور تشبیہ کے عمل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں ایک ایسے معنی مراد ہوتے ہیں جو تصویر سے تصور کی طرف لے جاتے ہیں اور ان کا تعلق انسان کے ذہن و فکر، فن اور طریق رسائی سے ہوتا ہے جو تہذیب کی دین بھی ہیں اور اس کی علامتیں بھی۔

◇ اچاپت اٹھانا

یہ بھی دہلی کا خاص محاورہ ہے لیکن ہمارے تہذیبی اور معاشرتی نظام کے ایک خاص عملی حصہ کو ظاہر کرتا ہے۔ کسان، مزدور، ملازمت پیشہ نوکر چاکر سبھی بنیے کی دکان سے سودا سلف لیتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہاتھ کے ہاتھ اس کی قیمت بھی ادا کریں۔ یہ قیمت کبھی فصل آنے کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، کبھی چھ ماہی کی صورت میں جو زیادہ تر فصل آنے پر ہی ہوتا ہے۔ یہ

بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے کہ جب تنخواہ ملتی ہے یا مزدور کو اس کی محنت کا معاوضہ دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس رقم میں سے بچے کو جا کر دیتا ہے جس سے اچاپت اٹھائی گئی ہے۔ تعلق اس کا ادھار لینے سے ہی ہے لیکن ایک خاص سسٹم کے ساتھ یہی بات آگے بڑھ کر دیوانی اور ساہوکاری میں بدلی ہے۔

◇ اُردوئے معلیٰ

اُردو کا لفظ ہم زبان کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جب اُردوئے معلیٰ کہتے ہیں تو ہماری مراد اعلیٰ درجہ کی ادبی زبان ہوتی ہے یا پھر درباری زبان اور دہلی کی خاص زبان جس میں شرفا کی زبان بطور خاص پیش نظر ہوتی ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے لال قلعہ کے سامنے اور چاندنی چوک کے قریب جو میدان ہے، یہاں قلعہ کی حفاظت کرنے والی خاص فوج رہتی تھی جس کا افسر راجپوت ہوتا تھا۔ اسے اُردوئے معلیٰ کہتے تھے۔ اسی نسبت سے جیہیوں کے لال مندر کو بھی پرانے زمانے میں اُردو مندر کہا جاتا تھا۔ اب اس کا مفہوم بدل گیا ہے اور اُردو کو عرفِ عام میں لشکری زبان یا پھر عام زبان کہا جانے لگا ہے۔ جب کسی زبان کو بہت اچھا اور اعلیٰ زبان کہنا مقصود ہوتا ہے تو اسے اُردوئے معلیٰ کہتے ہیں اور یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ تو مغل اُردو بولتے ہیں۔

◇ اُردلی میں رہنا۔ اُردلی کرنا۔ اُردلی میں چلنا۔

اُردلی کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ انگریزوں کے آنے کے بعد ان کے دفتری طور طریقوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد رائج ہوا ہے۔ وہ اپنے پیش خدمت کو آرڈرلی (Orderly) کہتے تھے، یعنی آرڈر کو لانے لے جانے والا۔ اس طرح یہ لفظ انگریزوں کے دفتری نظام سے متعلق ہو گیا اور انگریزی سے بنائے جانے والے الفاظ میں اس کا استعمال عام ہونے لگا۔ لفظوں کے ساتھ محاورہ بنتا ہے تو ایک تاریخ اس کے پیچھے موجود ہوتی ہے۔ زبان اور الفاظ معاشرے میں لفظ اور محاورے کیا کردار ادا کرتے ہیں، اس کا اندازہ محاورات پر سنجیدگی سے غور و فکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ لفظوں کا پھیر بدل اور معنوی سطح پر تبدیلی زمانہ، زندگی اور ذہن کے تغیرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اُردلی کا لفظ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک لفظ ”افسر“ بھی ہے جس کے معنی فارسی میں ”تاج“ کے ہیں لیکن اُردو میں ”افسر“ کے معنی ہیں آفیسر (Officer) اور آفیسر ہی سے لفظ ”افسر“ بنا بھی ہے۔

◇ ارنڈ کی جڑ

ارنڈ ایک خاص طرح کا درخت ہوتا ہے جس میں شاخیں نہیں ہوتیں اور جس درخت میں شاخیں ہوتی ہیں اس کا تنا بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس درخت کا تنا بھی

مضبوط نہیں ہوتا اور جڑ اور بھی کمزور ہوتی ہے۔ ”جڑ“ کا لفظ ہمارے ہاں بہت با معنی لفظ ہے۔ اس کے معنی بنیاد کے ہیں۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی۔ ہمارے ہاں بنیاد کے ساتھ بہت لفظ آتے ہیں اور محاورے کے طور پر آتے ہیں۔ جیسے، بے بنیاد بات ہے، اس کی بنیاد ہی غلط تھی۔ بنیاد کے ساتھ جڑ کا لفظ بھی آتا ہے اور جڑ بنیاد کہتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کا ایک دوسرے کے ساتھ آنا۔ جڑ کا پہلے اور بنیاد کا بعد میں، ایسی لفظی ترکیب ہے جو روزمرہ کے دائرے میں آتی ہے۔ ہم جڑ بنیاد ہی کہہ سکتے ہیں، بنیاد جڑ نہیں۔ جیسے، تین پانچ ہی کہتے ہیں، پانچ تین نہیں کہتے اور اس سے ”تین پانچ کر دیا۔“ جڑ کے ساتھ جڑ جمننا، جڑ جمانا، جڑ اکھڑنا، جڑوں کا کھوکھلا ہونا، جڑوں سے وابستہ رہنا۔ غرض بہت سے محاورے ہیں جن کا تعلق درخت یا شجر سے اتنا نہیں ہے جتنا ہماری سماجی زندگی سے ہے۔ ارٹڈ کی جڑ کمزور ہوتی ہے؛ بالکل کھوکھلی۔ اسی لیے ارٹڈ کی جڑ کے معنی ہیں ”ناپائیدار ہونا۔“ اپنی جڑ کی ناپائیداری اس کے لیے کم قدری کا باعث ہوتی ہے۔ اسی لیے ”ارٹڈ باغاتی“ دہلی میں محاورہ ہے جو میر اور سودا کے زمانے تک بولا جاتا تھا اور مطلب ہوتا تھا بے تکی چیز۔ اس کو ”باغاتی“ بھی کہا جاتا رہا ہے۔

◇ ارواح بھٹکنا

دہلی والے روح کو ارواح کہتے ہیں، یعنی روح کی جمع بولتے ہیں اور اس سے صرف روح مراد لیتے ہیں۔ روح بھٹکنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ انسان چلا جاتا ہے اور اس کی روح دنیا میں باقی رہ جاتی ہے اور ادھر ادھر اس کو یا اپنی کسی پسندیدہ چیز کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ قدیم زمانے سے یہ تصور موجود ہے۔ کہ روح اپنے بدن یا مادی وجود کی طرف واپس آتی ہے۔ قدیم زمانے کی قبروں میں اس طرح کے نشانات رکھے جاتے تھے جن سے یہ پتہ چل سکتے کہ یہ فلاں شخص کی قبر ہے۔ اب تو یہ بات دنیاوی طور پر شناخت کے لیے ہوتی ہے اور کتبے لگائے جاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ روح کی شناخت کے لیے ہوتا تھا کہ وہ پہچان جائے۔ اب یہ گویا محاورہ بن گیا ہے کہ روح بھٹکتی پھرے گی۔ خاص طور پر محبت کرنے والے کی روح کے لیے ایسا سوچا جاتا ہے۔ میر نے اپنی مثنوی ”دریائے عشق“ اور ”شعلہ عشق“ میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ بعد کے شعرا کے ہاں بھی اس کا بیان ملتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی ہی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی میرا شوق، میرا تعلق خاطر قائم رہے گا اور میری روح تیرے یا اپنے محبوب کی فراق میں بھٹکتی رہے گی۔

◇ ارے ترے کرنا (ابے تے کرنا)

”ارے ترے کرنا“ یا ”ابے تے کرنا“ کے معنی ہیں بد تہذیبی سے پیش آنا یا بہت بے تکلفی سے بات کرنا۔ تہذیب و شائستگی کے آداب میں گفتگو کا طریقہ سلیقہ بہت کام کرتا ہے اور ہمیشہ اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے کہ کس سے گفتگو کی جائے تو کس طرح کی جائے۔ لب و لہجے کا اتار چڑھا کیا ہو، موقع اور محل کے لحاظ سے الفاظ و فقرے کس اُسلوب اور کس انداز میں پیش کیے جائیں۔ بات صرف لفظوں کے معنی کی نہیں ہوتی، کہنے کے انداز کی بھی ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا کون ہے اور سننے والا اس کے مقابلہ میں کیا درجہ رکھتا ہے؛ برابر کا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے۔ اس وقت موقع و محل کے اعتبار سے اس کے ساتھ سوال و جواب کا یا تبصرے اور تجزیے کا کیا انداز اختیار کیا جائے۔ یہ سب باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور گفتگو کے وقت اپنا خاص کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ سمجھا جائے کہ بات کرنے والا نہ زبان جانتا ہے، نہ آداب اور شائستگی سے واقف ہے۔ بے تکلفی اپنی جگہ پر، لیکن لفظوں کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہم دوسروں سے برداشت کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ توقع اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب کہ گفتگو کرنے والا لب و لہجے اور الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتے۔ ہمارے محاورات میں ایسے بہت سے محاورے ہیں جو گفتگو کے آداب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بیہودہ گفتگو کو ”اول فول بکنا“ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”گڑ نہ دے، گڑ جیسی بات کہہ دے“ یعنی بیٹھا انداز اختیار کر لے۔ اسی لیے زبان شیریں کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ”تیرے منہ میں گھی شکر۔“

◇ اڑالینا، یا اڑا دینا، اڑنا

اڑنا پرندوں کا عمل ہے۔ ادھر سے ادھر آنا جانا، ایک شاخ سے اُچھل کر دوسری شاخ پر بیٹھ جانا، دانا چگنے کے لیے یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آنا، پروں ہی کی مدد سے ہی تو ہوتا ہے۔ یہ عمل محال کرشمہ اور کرامت کے طور پر پیروں کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں اور خوشبو کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھیلتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ آج کل تو تقریریں، تحریریں اور تصویریں بھی ہوا پر اڑتی ہیں اور ٹیلی ویژن میں ہم دنیا بھر کے شہروں، بیابانوں، جانوروں، انسانوں، سمندروں اور ہوا کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ اڑنے کے معنی میں یہ سب آتا ہے۔ ”اڑان بھرنا“ بھی

ایک محاورہ ہے اور اُڑانے کے معنی میں ”خلیل خاں کا فاختہ اُڑانا“ اور مریدوں کا پیروں کو اُڑانا بھی شامل ہے، کہ ”پہر نہیں اُڑتے، مرید اُڑاتے ہیں۔“ خبر اُڑانے کو بھی ہمارے ہاں بطور محاورہ استعمال کیا جاتا ہے

۔ اُڑتی سی اک خبر ہے زبانی طیور کی

”بات اُڑا دینا“ بھی یا ”باتوں باتوں میں اُڑا دینا“، ”چٹکیوں میں اُڑا دینا“ بھی ہمارے محاورات کا حصہ ہے۔ بے پر کی اُڑانا، گل چہرے اُڑانا، طوطا مینا اُڑانا۔ اس سے اُڑنے اور اُڑانے کے عمل سے ہماری زبان اور ہمارے ذہن کی وابستگیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اُڑا دینا، خاک دھول کی طرح اُڑا دینا ہے۔ اور کسی چیز کا اُڑا لینا بھی جیسے، اُس نے یہ بات اُڑالی، اس نے ساری کتاب ہی اُڑالی۔ اس معنی میں اُڑنا یا اُڑا دینا یا اُڑا لینا بہت سے محاورات کی بنیاد ہے۔ جن محاوروں کو ہم کسی ایک تصور، ایک تصویر، ایک خیال یا ایک عمل سے نسبت دے کر مختلف صورتوں یا سمتوں میں پھیلا سکتے ہیں، ان میں اُڑنا اور اُڑا دینا بھی ہے۔ اُڑتی چڑیا کو پہچاننا، یا اُڑتی چڑیا کے پر گننا بھی اور اُڑن چھو ہونا (غائب ہو جانا، بھاگ جانا) یا اُڑن کھٹولا ہونا بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ اُڑن کھٹولا ہوائی جہاز کو بھی کہتے ہیں۔ دہلی میں اُڑان جھلا یعنی اُڑتے ہوئے کبوتروں کی ٹولی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کبوتر بازوں کا محاورہ ہے۔ قسم ہے اُڑان جھلے کی۔ اُڑن سانپ یعنی ایسا سانپ جو اُڑ سکتا ہو۔ ”اُڑتی بیماری“ بھی ایک محاورہ ہے، ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ کھجلی بھی انھی میں ہے، دق بھی اور کھانسی بخار کی بعض صورتیں اس میں شامل ہیں۔ معاشرتی طور پر ایسی برائی جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اور سب ہی کم و بیش اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو ”اُڑتی بیماری“ کہتے ہیں۔

◇ اُڑنا، رکاوٹ بننا

اپنی جگہ پر اس طرح ٹھہر جانا کہ پھرتس سے مس نہ ہو۔ اقبال کا شعر ہے۔

آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اُڑنا

منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

طرز کہن پہ اُڑنا وہی پرانی روایت پر قائم رہنا ہے، بلکہ اس پر اصرار کرنا ہے۔

معاشرے میں یہ روش ایک خاص کردار کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ معقول سطح پر ایک بات کا

جائزہ نہ لیا جائے اور یہ تجزیہ نہ کیا جائے کہ اس میں کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ کسی تبدیلی یا ترمیم کی ضرورت اس میں ہے بھی یا نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہی فکر و نظر اور احساس و ادراک کی نارسائیوں کا باعث بننے والی ایک معاشرتی کمزوری ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

◇ اڑنگ بڑنگ

اصل میں جو چیزیں، جو خیالات سماج کو بے تکے پن کی طرف لاتی ہیں، وہی اڑنگ بڑنگ کہلاتی ہیں، یعنی بے تکی، بے ڈھنگی، بے ہنگم۔ یہ عوامی الفاظ ہیں ان کا استعمال اب زبان میں کم ہو گیا ہے۔ لیکن عمومی سطح پر اب بھی ہم انہیں محاورات میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ”اڑنگ لگانا“ ایسا ہی ایک محاورہ ہے جس سے دوسرے کے کام میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ بننے کا رویہ سامنے آتا ہے، جو ایک طرح کا برا اور برے نتیجے پیدا کرنے والا سماجی رویہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے ”خواہ مخواہ اڑنگ لگا دیا“ یعنی رکاوٹ پیدا کر دی، اُلجھنیں کھڑی کر دیں۔ اس سے ہم اپنے سماجیاتی مطالعہ کے بعض پہلوں کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں جو کام، جو شے یا جو تعمیر بے ڈھنگی ہوتی ہے، اس کے بے ہنگم پن پر تبصرہ بھی ”اڑنگ بڑنگ“ کہہ کر کیا جاتا ہے۔

◇ اڑی اڑی طاق پر بیٹھی

ویسے تو ایک چڑیا کا اڑنا اور ادھر سے ادھر بیٹھنا اس میں شامل ہے، لیکن محاورے کے سماجی استعمال اور معاشرتی رویوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے کون کون سے عملی اور ذہنی رویے اس میں شامل ہیں۔ ”اڑنا“ انسان کو ہمیشہ ہی اچھا لگا اور خود وہ طرح طرح سے اڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی لیے اڑنے کے عمل پر بہت سے محاورے موجود ہیں۔ محاوروں کا رشتہ ہمارے جذبات سے، خواہشات سے اور تمناؤں سے طرح طرح سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے خواب بھی آجاتے ہیں، خیال بھی اور تمنائیں بھی۔ کوئی محاورہ کسی خواہش کو ظاہر کرتا ہے ایک طرف اس میں اس کی ناکامیاں آتی ہیں، دوسری طرف کامیابیاں اور تیسری طرف تمنائیں، ضرورتیں اور مجبوریاں۔ ایک محاورہ ہے ”اڑی بھیروی میں کام آنا“ یعنی جب کوئی صورت نہ ہو اور ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہوں، اس وقت کوئی کام آجائے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک کہاوت ہے، بیوی بھلی پاس کی، یار دوست بھلا ٹوٹے کا۔ جب کوئی کام نہ آتا ہو تو آدمی کتنا مجبور ہوتا ہے۔ اسی لیے ”اڑی بھیر میں کام آنا“ یا

اڑے وقت میں کام آنا“ ہماری سماجیات کا اہم پہلو ہے کہ جب آدمی خود کچھ نہ کر سکے تو کوئی دوسرا کام آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مصیبت میں کام آجائے وہی اپنا ہوتا ہے۔ اس سے آدمی کی مجبوریوں کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک محاورہ ”اڑے کام سنوارنا“ بھی ہے۔

◇ ازار بندی کا رشتہ یا ازار بند کا رشتہ۔ کمر بندی رشتہ

اسے عام زبان میں کمر بندی رشتہ بھی کہتے ہیں۔ یہ شادی، بیاہ کا رشتہ ہوتا ہے جس میں جنسی رشتے کو دخل ہوتا ہے۔ ازار پانچامہ کو کہتے ہیں۔ اسی لیے ایسے رشتے جو جنس و جذبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ازار سے نسبت دی جاتی ہے اور سماجی طور پر انسان کی جذباتی کمزوریوں کا ذکر بھی اسی نسبت سے کیا جاتا ہے۔ ازار کا کچا، ازار کا ڈھیلا یا ازار کی ڈھیلی، اسی نسبت سے مرد اور عورت کے لیے کہتے ہیں۔ اب یہ محاورے عام نہیں ہیں۔ ان کا استعمال بہت کم ہوتا چلا گیا ہے۔ لیکن آج بھی ان سے پتہ چلتا ہے کہ محاوروں نے تشبیہ و استعارے یا اشارے و کنایے میں ہمارے سماجی رویوں یا معاشرتی سطح پر عمل اور ردِ عمل کو محفوظ کر دیا ہے۔ ”ازار میں پہن لینا“ یا ”ازار میں ڈال کر پہن لینا“ اسی سلسلے کے کچھ محاورے ہیں اور سماجی طور پر اپنے خاص معنی رکھتے ہیں۔ جب کسی بات کی یا کسی شخص کی دوسروں کی نگاہ میں قدر و قیمت نہ رہے، اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو پانچامے میں پہن لینا چاہتے ہیں۔ ازار میں ڈال لینے کے معنی بھی یہی ہیں۔ اس طرح سے سماج میں جو ایک ذہنی درجہ بندی رہتی ہے، یہ اسی کی طرف ایک اشارہ ہے۔

◇ از غیبی گولا یا از غیبی دھکا

مشرقی اقوام غیب کی زیادہ قائل رہیں اور ظاہر کے مقابلے میں باطن کو انہوں نے ہمیشہ زیادہ با معنی اور پر قوت تصور کیا۔ اس سے جہاں صوفیا اور روحانی تحریکیں نیز مذہبی فلسفہ ان میں زیادہ رائج رہا وہاں تو ہم پرستی ان میں افکار، خیالات اور عقائد کے اعتبار سے زیادہ رائج رہی کہ کیا خبر کس وقت کیا ہو جائے، کہاں سے کونسی آفت نازل ہو اور کس مصیبت کا سامنا کس وقت کرنا پڑے۔ ”از غیبی گولا یا“، ”از غیبی دھکا“ اسی صورتِ حال کو کہتے ہیں جب آدمی اچانک کسی آفت میں مبتلا ہو جائے، کسی مشکل میں پھنس جائے۔ زبان کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ محاورہ عجیب و غریب ہے کہ اس میں ”از“ کا لفظ شروع میں آیا ہے، جو سرتاسر فارسی لفظ ہے۔ لیکن اُردو والے اسے بے تکلف استعمال کرتے تھے۔ خطوں میں از وہلی، از لاہور یا از حیدرآباد بے تکلف طور پر لکھا جاتا تھا۔ از حد کہہ کر حد سے زیادہ کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔

از حد بد تمیز ہے یا از حد خوف ناک ہے اب بھی کچھ لوگ بولتے ہیں۔ محاورے کی اس صورت نے ”از“ کے استعمال کو عام زبان کا ایک حصہ بنا دیا ہے اور حیرت ہے کہ دھکا یا گولا جیسا لفظ از غیبی کے ساتھ ملا دیا۔ ہماری زبان کی مزاج شناسی کے لیے یہ محاورہ ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔

◇ اس کان سننا، اُس کان اڑا دینا

معاشرے کا لا پرواہی والا رویہ اس کے پس منظر میں موجود ہے کہ وہ کسی کی اچھی سچی بات اور فریاد بھی سننا نہیں چاہتا۔ ویسے داستانیں، قصے، کہانیاں گھڑی بھی جاتی ہیں، سنی بھی جاتی ہیں اور سنائی بھی جاتی ہیں۔ لیکن معاملے کی باتیں نہ کوئی سننا چاہتا ہے، نہ سمجھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور روزمرہ کے تجربے کا حصہ ہے کہ آدمی دوسرے کی بات کو سنی ان سنی کر دیتا ہے۔ اسی طرف اس محاورے میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کان سے سنتے ہیں اور اُس کان سے اڑا دیتے ہیں۔

◇ (اش اش کرنا) عیش عیش کرنا

یہ محاورہ ”ع“ سے عیش عیش کرنے کی صورت بھی آتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی ایسی زبان سے ماخوذ ہے جس میں ”ع“ کا استعمال ہوتا ہو۔ اسی لیے لغت میں اس کے ساتھ چھوٹی ہ، ف اور ع کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی یہ ہندی، فارسی اور عربی تینوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ہم اپنی زبان کے لسانی رشتوں کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ محاورہ زبان کی قدامت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس اعتبار سے زبان کے سماجی رشتوں اور لسانی رابطوں کی تفہیم میں محاورہ یہ کہیے کہ غیر معمولی طور پر معاون ہوتا ہے۔

◇ اشتعال دینا یا اشتعالک پیدا کرنا

غصہ دلانے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن لفظ اشتعال عربی ہے اور اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ محاورہ ہم نے عربی سے اخذ کیا ہے۔ ہمارے سماجی عمل میں بھی یہ استعارہ شریک ہے۔ جان جان کر بھی ہم دوسروں کو "Tease" کرتے ہیں اور اُن کو غصہ دلاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ محاورہ صرف لغت کی شے ہی نہیں ہے۔ اس کا رشتہ سماجی لسانیات سے ہے اور زبان کو ایک خاص سطح پر پیش کرنے اور سامنے لانے میں محاورہ جگہ جگہ اور معنی بہ معنی ایک خاص کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ اس سے کسی بھی معاشرے کے داخلی عمل، فکری رویے اور معاملاتی اندازِ نظر کو ہم زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً ”اشنان دھیان“ ہندو معاشرے کا ایک خاص اندازِ عبادت ہے کہ وہ اشنان کرتے ہیں تو

گویا سورج کو ”جل“ چڑھاتے ہیں۔ آفتاب پرستی قوموں کا بہت قدیم مذہب ہے اور اس آفتاب پرستی کا پانی سے گہرا رشتہ ہے۔ اسی لیے اشنان کے وقت بھی سورج کو ”جل“ چڑھایا جاتا ہے۔

◆ افراتفری

یہ عربی لفظ ہے، افراط اور تفریط، یعنی بہت زیادہ اور بہت کم۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں توازن بگڑتا ہے۔ رچا ہے وہ معاملات ہوں، مسائل ہوں، مشغولتیں ہوں یا مصروفیات ہوں، تناسب اور توازن کے بغیر ان کا حسن اور ان سے وابستہ بھلائی اور عظمت قائم نہیں رہتی اور ایک بے تکاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اُردو والوں نے اسی کو ایک نئے محاورے میں بدل دیا۔ اس کے تلفظ اور املا کو بھی نئی صورت دی اور اس کے معنی میں نئی جہت پیدا کی۔ اب افراتفری کے معنی ہیں گڑبڑ، بھگدڑ، چھینا چھٹی اور بے ہنگم پن۔ یہی بات سماج میں خرابی کا باعث ہوتی ہے اور اس کی قوت کو کمزوری اور خوبی کو خرابی میں بدلتی ہے۔ اس معنی میں اس مفہوم کا رشتہ انفرادی عمل سے بھی قائم ہوتا ہے اور اجتماعی اعمال سے بھی جو ہماری معاشرتی کارکردگی کی دائرے میں آتا ہے۔

◆ افلاطون ہونا، افلاطون بننا

افلاطون قدیم یونان کا ایک بہت بڑا فلسفی، طبیب اور دانشور تھا۔ ارسطو اسی کا شاگرد تھا۔ افلاطونی نظریات یونانی فلسفے پر بہت اثر انداز ہوئے ہیں اور ارسطو نے اپنی تنقیدوں سے ان کو نئی قوت اور وسعت بخشی ہے۔ اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہماری زبان کے محاورے میں افلاطون کی عظمت کا تصور بدل گیا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے یہ محاورہ استعمال ہونے لگا ہے جو خواہ مخواہ اپنے اوپر مغرور ہوں اور اپنی معاشرتی زندگی میں اس کا موقع بہ موقع اظہار کرتے رہتے ہوں۔ اسی لیے ”افلاطون کا سالا“ اور ”افلاطون کا ناتی“ بھی محاورے میں شامل ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح دوسرے ملکوں کے کرداروں کو اپنے یہاں جگہ دی اور ان کی شخصیت کو اپنی طرف سے نئے معنی پہنائے۔

◆ افواہ پھیلانا، افواہ اڑانا

”افواہ“ جھوٹی سچی باتوں کو کہتے ہیں۔ عام آدمی کو کسی بات میں اس رشتے سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ بات سچی ہے یا جھوٹی غلط ہے یا صحیح مناسب ہے یا غیر مناسب وہ تو باتوں کو پھیلاتا اور ان سے اپنی دلچسپیوں کا اظہار کرتا ہے۔ غالب نے تو دہلی کے لوگوں کی ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ دہلی کے خبر تراشوں کا جیسا کہ دستور ہے

انہوں نے اپنی طرف سے خبر اُڑادی۔ اسی خبر اُڑانے کو ”افواہ اُڑانا“ کہتے ہیں۔ اس سے ہمارے معاشرے کے مزاج اور خواہ مخواہ کی باتوں سے دلچسپی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ مصرعہ ہے۔ اسی انداز کی ایک بات ہے۔

اُڑتی سی اک خبر ہے زبانی طور کی

◇ اُلٹا تو اہونا

بے حد کالا ہونا، ہندوستان میں سانولا رنگ تو ہوتا ہی تھا اس کی تعریف بھی کی جاتی تھی۔ لیکن زیادہ کالے رنگ کو ناپسند بھی کیا جاتا رہا ہے اسی لیے ”اُلٹا تو اہونا“ بہ حیثیت محاورے کے ہمارے ہاں رائج ہوا کہ وہ آدمی کیا ہے اُلٹا تو ہے۔ اس سے ہم یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے بطور محاورہ رائج کیا جو نسبتاً اچھے رنگ والے ہوتے تھے۔ اُلٹے لفظ اور مفہوم کے ساتھ بہت محاورے بنے ہیں اور ہمارے معاشرے کی ذہنی سطح کے مختلف رنگ اس کے ذریعہ سامنے آتے ہیں مثلاً اُلٹی گنگا بہنا، بات کو اُلٹ پلٹ کر دیکھنا، یاد دینا۔ اُلٹی سیفی پڑھنا یعنی بددعا دینا۔ ”اُلٹے پاؤں پھر آنا“ فوری طور پر واپس لوٹ آنا، اُلٹے ملک کا ہونا، بے حد بیوقوف ہونا، ملک کا لفظ ہماری عام زبان میں بہ طور علاقہ استعمال ہوتا تھا۔ ملک اس معنی میں نہیں آتا تھا جس معنی میں اب آتا ہے۔

قوم کا لفظ بھی اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت سی تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ ایک وقت میں وہ قبیلے، خاندان اور گروہ کے معنی میں آتا تھا اب اس کے معنی ایک خاص سیاسی اور قانونی اسٹیٹ میں رہنے والے کے ہیں۔ جسے آج ہم ہندوستانی قوم کہتے ہیں اور (Nation) نیشن کے معنی مراد لیتے ہیں۔

◇ اُلٹی سانسیں آنا یا اُلٹے سانس آنا

اس سے مراد ہے جان کنی کا عالم، جب سانس اکھڑ جاتی ہے دہلی میں اسے ”گھنگرو بچنا“ کہتے ہیں کہ وہ خود ایک محاورہ ہے۔

◇ اُلش کرنا

بادشاہوں یا امیروں کے لیے الگ سے جو اُن کا پسندیدہ کھانا ہوتا تھا وہ خاصہ کہلاتا تھا۔ اس میں سب شریک نہیں ہوتے تھے امیر یا بادشاہ اس میں سے جب بطور تحفہ کسی کو کچھ دیا جاتا تھا تو وہ اُلش کہلاتا تھا یہ ترکی لفظ ہے اور غالباً مغل بادشاہوں کے ساتھ آیا ہے۔

الف:

حروفِ تہجی میں پہلا حرف ہے اور اس اعتبار سے خاص معنی رکھتا ہے۔ ابتدا کو ظاہر کرتا ہے خدا کے نام یعنی اللہ کا پہلا حرف ہے۔ الف اللہ کا محاورہ ہے اور اس کے معنی سب سے الگ اور جدا۔ ”الف کھینچنا“ گداگری کرنے کو کہتے ہیں۔ الف کے ساتھ عریاں ہونے کا تصور بھی آتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ننگا الف تھا۔

پرش ہندو فلسفہ میں خدا کو بھی کہتے ہیں الکھ پرش خدا کی ذات بھی ہے اور ایسے فقیر کو بھی کہتے ہیں جو دوسروں سے آزاد اور الگ تھلگ رہتا ہو۔ ہندو کلچر میں الکھ کا لفظ بہت اہم اور مقدس ہے۔ اسی لیے ایک مقدس ندی کا نام الکھ نندا۔ ہے الکھ داس نام رکھا جاتا ہے ”الکھ وجگانا“ یعنی جوش عقیدت پیدا کرنا۔ ”آرتی اتارنا“ بھجن پیش کرنا وغیرہ وغیرہ۔

اس کے علاوہ کچھ مانگنے کو بھی درویشوں کی جگہ پر ”الکھ جگانا“ کہتے ہیں۔

◇ الگ پڑنا، الگ تھلک ہو جانا یا الگ تھلگ کر دیا جانا

بہت سادہ سا محاورہ ہے جو اب بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں الگ پڑ گیا۔ یہ بھی ممکن ہے اور ہوتا رہا ہے کہ کوئی گروپ یا گروہ کسی ایک آدمی کو چلنے نہ دے اور یہ بھی ہمارا ایک سماجی رویہ ہے کہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہے کہ میں اکیلا پڑ گیا تاکہ وہ الزام سے بچ جائے۔

◇ اللہ اللہ کرنا

مسلمانوں میں ایک معاشرتی رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو خدا سے نسبت دیتے ہیں ایسا صوفیانہ طرزِ فکر کے تحت بھی ہوتا ہے۔ تہذیبی رسوم و آداب کے تحت بھی اور اس میں معاشرے کی یہ ذہنی روش بھی شامل رہتی ہے کہ اس طرح وہ اپنی انفرادی یا اجتماعی برائی چھپانے کے لیے معاملہ کو مذہب کی چھتر چھایا میں لے آنا چاہتے ہیں مثلاً یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کا چاہا ہوتا ہے بندے کا چاہا نہیں ہوتا، یہ کہنے والا اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کی ناکامی میں اس کی غلطی کو بھی دخل ہو سکتا ہے اور دوسروں کی مکاریوں کو بھی۔ ہم ہر بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اسی طرح کی باتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ چونکہ مذہب ہماری نفسیات میں داخل ہو گیا ہے اسی وجہ سے اس بات کا رخ بات بات میں مذہب کی طرف پھر جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تہذیبی اظہار میں یہ رویہ کہیں کہیں بہت خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ مثلاً اللہ نگہبان، اللہ حافظ، اللہ اللہ کرنا یا ہونا اس کی اللہ اللہ ہو رہی ہے یعنی آخری وقت ہے اور خدا یاد آ رہا ہے۔

دمِ واپس اب سرِ راہ ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے
اظہارِ تعجب کے لیے بھی اللہ اللہ کہا جاتا ہے جیسے اللہ اللہ یہ نوبت آگئی یا تم کو کسی بات
سے کیا واسطہ تم تو اللہ اللہ کرو۔

◇ اللہ آمین سے بچہ پالنا، یا اللہ آمین کا بچہ ہونا

جونچے بہت لاڈلے ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ خاندان یا ماں باپ کی بہت
تمنائیں وابستہ ہوتی ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے۔

◇ اللہ ماری یا اللہ مارا یا خدا ماری

یہ محاورہ اس موقع پر بولتے ہیں جہاں عورتیں گلوڑا اور مواد وغیرہ بولتی ہیں یہاں یہ
بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کچھ محاورے ہمارے یہاں صرف عورتوں سے متعلق ہیں
مرد اس کو استعمال نہیں کرتے۔

◇ اللہ والا، خدا رسیدہ، بہت نیک

یہ محاورہ دہلی میں فقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے اسے عورت کے ساتھ وابستہ
کیا جائے یا مرد کے لیے۔ اللہ نور نام بھی ہوتا ہے لیکن جب اللہ کا نور کہتے ہیں تو اس سے
مراد نورانی صورت ہوتی ہے۔ ڈاڑھی کو بھی اللہ کا نور کہا جاتا ہے۔

◇ اللہ کے گھر سے پھرنا

شدید بیماری سے واپس آنا جس کا یہ مطلب بھی ہے کہ موت خدا سے قربت کا ذریعہ
ہے اسی لیے یہ محاورہ بھی بولا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔

◇ الہی مہر ہونا

جس طرح سے کوئی مہری دستاویز مصدقہ ہوتی ہے اسی لیے جب یہ کہا جائے وہ الہی
مہر ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ رقم، وہ بات، وہ وعدہ نامہ ہر طرح مصدقہ ہے۔ تصدیق شدہ
ہے اور اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔

◇ (اللہ کا جی) جیو جان ہونا

جو آدمی سوجھ بوجھ سے بالکل محروم ہوتا ہے بس ایک معصوم جانور جیسا اس کا ذہن اور
اسی کے مطابق اس کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کو اللہ کی جی کہتے ہیں۔ یہاں اللہ کا جیو کہنا ایک
خاص تہذیبی معنی بھی رکھتا ہے وہ یہ کہ اللہ تو ہر انسان کو معصوم اور بھولا بھالا پیدا کرتا ہے یہ تو آدمی

کو اس کا ماحول اور اس کی اپنائی ہوئی زندگی کی قدریں ہوتی ہیں جو اسے مکاری پر آمادہ کرتی ہیں اس لیے کہ جانداروں یا جانوروں میں تجربہ تو ان کے ذہن کو بدلتا ہے ورنہ بیشتر وہ معصوم ہوتے ہیں اور اپنی فطرت پر قائم ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ہر بات کو کسی نہ کسی پہلو سے خدائی ہی سے نسبت دی جاتی ہے۔

◇ اللذی نہ اللذی نہ ادھر کا نہ ادھر الی اللذین ولا الی اللذین
دین کا نہ دنیا کا۔ عربی زبان کے فقرہ کو اپنے محاورے میں ڈھال لینا اور اس میں اُردو پن پیدا کر دینا ہمارے زبان دانوں کا بڑا کارنامہ ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے دوسری زبانوں اور ادبیات کے نمونوں سے کچھ حاصل کیا ہے تو اسے اپنے طور پر اور اپنے ذہن کے سانچوں میں ڈھالا ہے۔ یہ اعتراض کہ اُردو میں تو بہت کچھ عربی فارسی یا پھر ترکی یا تاتاری زبانوں سے آیا ہے غلط ہے ہم نے ان کے ذریعہ اپنی زبان کو زیادہ "Enrich" کیا ہے، مختلف اعتبارات سے ترقی دی ہے اس کو دیانتداری اور ایک ارتقا پذیر زبان کے تاریخی سفر سے وابستہ کرنا چاہیے محض کسی سیاسی حکمت عملی سے نہیں جو علمی دیانتداری کے خلاف ہے۔

◇ اپنا خون بہانا

اس سے مراد ہے اپنے سے قریب تر رشتہ داری (Blood Relation Ship) پہلے زمانہ میں اس کی بڑی اہمیت تھی اور اپنائیت کے ساتھ بہت سارے رشتہ جڑے ہوتے ہیں اور محاورے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خون کا رشتہ صرف محبت کا رشتہ نہیں ہوتا مگر محاورہ میں اسے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا اور اس کے خلاف ہماری زندگی میں جو ہزار در ہزار واقعات اور ثبوت موجود ہیں۔ اور تلخ تجربات اس کی شہادت دے رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ بات زبان پر آئی ہے کہ خون کا رشتہ اپنائیت کا رشتہ، اسی کے ساتھ یہ محاورات ذہن میں رکھے جاسکتے ہیں کہ اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ معلوم ہوا کہ اپنوں سے نیکیوں کی توقع رکھی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ محاورہ بھی ہے کہ شکایت اپنوں ہی سے ہوتی ہے یہ اپنے طور پر کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ جب ہم یہ محاورہ دیکھتے ہیں کہ اپنوں کا کیا شکر یہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر اپنوں کا شکر یہ ادا نہیں کیا جاتا تو ان سے شکایت کیوں کی جاتی ہے یہ سماج کے غلط رویوں کی طرف اشارہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے محاوروں کو اپنے معاشرتی مطالعہ کے لیے اور ان سے اخذ نتائج کی غرض سے کبھی اعتنا نہیں کیا تو جہ نہیں دی۔ اور ان سے نتائج اخذ نہیں کیے۔

◇ اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ

ڈفلی چھوٹے سے ڈف کو کہتے ہیں۔ اس کو بجایا جاتا ہے اور دوسرے سازوں کے ساتھ اس کی لے ملائی جاتی ہے۔ اس میں کبھی کسی راگ کو بھی دخل ہو سکتا ہے، بہر حال کسی بھی موسیقی سے نسبت رکھنے والی پیش کش کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں وہ ایک دوسرے سے آواز میں آواز ملائیں۔ جب سماج میں افراتفری پھیل جاتی ہے اور کوئی کسی کا ساتھ دینا نہیں چاہتا بلکہ اپنی اپنی کہتا ہے اور اپنی سوچ کے آگے کسی کو اہمیت نہیں دیتا تو سماج بکھر جاتا ہے اور اس کی مجموعی کوشش جو اچھے نتیجے پیدا کر سکتی ہے، ان سے محروم رہ جاتا ہے، اسی وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ ہے۔ کسی کو کسی دوسرے کی کوئی پروا نہیں، ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے اور اپنی رائے کے آگے کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ سماج کا کتنا بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم گزرتے رہے ہیں اور گزر رہے ہیں۔

◇ اُلٹی پٹی پڑھانا

ایک قدیم محاورہ ہے جس کا اندازہ پٹی پڑھانے سے ہوتا ہے۔ پٹی پیمانہ جیسی ایک لکڑی ہوتی ہے جس پر پہلے زمانہ میں تحریر لکھی جاتی تھی۔ اس طرح کی پٹیاں جنوبی ہندوستان کے مندروں میں محفوظ تھیں اور اب میوزیم اور آرکائیوز میں رکھی ہوئی ہیں۔ پہلے یہ کتابوں اور رسالوں کی طرح پڑھانے کے کام آتی ہوئیں اسی سے یہ محاورہ بنا کہ اس نے یہ پٹی پڑھا دی، اس کے ذریعہ سکھایا اور اس کا اپنا مطلب سمجھایا، اب ایک ناواقف آدمی کو غلط سلط بھی سمجھایا بھجایا جاسکتا ہے۔ اسی کو ”اُلٹی پٹی پڑھانا“ کہتے ہیں جو غلط ارادے رکھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں۔

”اُلٹی سیدھی باتیں کرنا“ ایک الگ محاورہ ہے جس میں یہ پہلو چھپا ہے کہ وہ بات بیشک کرتے ہیں مگر سیدھی سچی نہیں اُلٹی سلٹی جو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے وہ کرتے ہیں نہ ان کی عقل و تجربہ سے ان باتوں کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ یہ گویا باتیں کرنیوالوں کے رویہ پر تبصرہ ہے۔

◇ اُلٹی گنگا پہاڑ کو، یا اُلٹی گنگا بہانا

بے تنگی غلط اور اُلٹی بات کے لیے کہا جاتا ہے۔ گنگا پہاڑ ہی سے اُتر کر آتی ہے اور میدانوں میں رہتی ہوئی آگے بڑھتی ہے اسے پیچھے نہیں ہٹایا جاسکتا ہے۔ ایسے موقعوں پر جب کچھ لوگ انہونی بات کرتے ہیں تو یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ یہ تو گنگا کے بہاؤ کو اُلٹ کر پھر پہاڑ کی طرف کر دینا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں یہ بھی سماج کا رویہ ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ

ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس میں جو بے تکاپن ہے، کہنے یا کرنے والوں کو اس کا خیال بھی نہیں رہتا یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ذہنی حالت اور زمانہ کی روش پر ایک گہرا طغز ہے۔

◇ اللہ اکبر، اللہ اکبر کرنا یا اللہ اللہ کرو یعنی اللہ کا نام لو

مسلمان سوسائٹی ہو یا ہندو سوسائٹی یا پھر سکھ سوسائٹی ان پر مذہب کا روایتی اثر زیادہ ہے۔ یہ بات بات میں مذہب کو سامنے رکھتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں وہ مذہب کے نام پر کرتے ہیں اس کا ان کے عقیدے سے بھی رشتہ ہے اور تہذیبی روایت سے بھی۔ وہ لوگ جو مذہب کو زیادہ مانتے بھی نہیں وہ بھی یہ الفاظ یہ کلمات اپنے اظہاری سلیقے کے مطابق زیادہ مانتے ہیں۔ مذہب کا روایتی اثر یہاں تک ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے مگر ایسی صورت میں بد اعمالیاں کیسے ہو رہی ہیں اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے۔

اس سے بہر حال یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ پر مذہب کا جو روایتی اثر ہے اس کا اظہار اس کی گفتگو، جملوں کی ساخت اور خاص طرح کے مذہبی کلمات سے بھی ہوتا ہے۔

◇ اللہ آمین کا بچہ یا اللہ تو کلی، اللہ کا نور، اللہ کی جان

اللہ مارا، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کے گھر سے پھر ہے، خدا کے گھر سے پھر ہے، اللہ کے لوگ، الہی مہر، الہی رات یہ تمام کلمات جو محاورے ہیں اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اس میں مذہب کا وہ روایتی (Traditional) اثر ہے جو ہماری زندگی و ذہن پر مل سکتا ہے اور جس کا اظہار بات بات میں ہوتا رہتا ہے۔

اس کے علاوہ ”اللہ آمین کا بچہ ہو جانا“ ظاہر کرتا ہے کہ بعض بچے بڑے لاڈ پیار اور دعا درود کے سایہ میں پلتے ہیں خاص طور پر ایسے خاندانوں کے لڑکے جہاں بچے بہت کم ہوتے تھے۔ یہ صورت بڑی حد تک اب بھی ہے۔

اللہ تو کلی کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کو بھروسہ کوئی نہیں ہے کہ اس کے پاس وسیلہ بھی کوئی نہیں بس جو کچھ ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ غیب سے جو کچھ ہو جائے تو ہو جائے گا۔ اللہ کسی کے دل میں ڈال دے گا تو کام بن جائے گا یہ بھی ہمارے معاشرے کی حالتِ مجبوری اور معذوری کے ساتھ ایک فیصلے پر پہنچنا ہے۔

”اللہ اللہ کرو“ یعنی یہ بات ہونے والی نہیں، خواہ مخواہ کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ ”اللہ کا نور“ داڑھی کو بھی کہتے ہیں اور ایسے بچے کو بھی جو کم صورت ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کا نور ہے، اس کی

قدرت کا اظہار ہے۔ ”ویسے اللہ کا نور ہونا“ بڑی خوبیوں کی طرف اشارہ بھی ہے کہ وہ تو اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ ”اللہ ہی اللہ ہے“ جب کسی مریض کے اچھا ہونے کی کوئی اُمید نہیں ہوتی ہے تبھی یہ بات زبان پر آتی ہے کہ اس کی اللہ اللہ ہو رہی ہے۔

اللہ مارا یا خدا مارا ہمارے محاورات میں سے ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ خدا کی مار ہے مگر عام طور پر یہ کلمہ محبت میں کہا جاتا ہے۔ اس کو اللہ سنوارے کے روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مریض بہت بری حالت سے واپس ہوتا ہے تو اس کو ”اللہ کے گھر سے پھرنا“ کہتے ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ مرجانا، اللہ کے گھر جانا ہے اللہ کو پیارا ہونا ہے۔ ”اللہ والے“ یا ”اللہ کے لوگ“ دہلی میں فقیروں کو کہتے ہیں۔ اس کے قریبی معنی رکھنے والا محاورہ اللہ کے لوگ ہیں یعنی وہ تو درویش خدامست ہیں، مل گیا تو بھی ٹھیک ہے نہ ملا تب بھی ٹھیک ہے۔ اس معنی میں یہ تمام محاورے ہمارے معاشرے اور اس کے ایک خاص طرز فکر کے آئینہ دار ہیں۔ الہی مہر یا الہی رات بھی اسی طرز فکر کے نمائندہ محاورے ہیں۔ الہی رات کسی مقدس اور تبرک رات کو کہتے ہیں جیسے شبِ معراج اگرچہ الہی رات کا استعمال اُردو میں بہت کم ہے۔ الہی مہر تصدیق کرنے کے لیے مہر لگائی جاتی ہے جس کے بعد وہ تحریر یا رقم مصدقہ ہو جاتی ہے اور جب اس پر خدا کی مہر لگ جائے گی تو اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔

◇ اُکھاڑ پچھاڑ

اُکھاڑنا بھی بیشتر اچھے معنی میں نہیں آتا، جیسے اس کو اُکھاڑ دیا گیا، وہ اُکھڑ گیا اس کی جڑ اُکھڑ گئی، جڑ بنیاد اُکھاڑ کر پھینک دی گئی۔ یہ سب ایک طرح کے سماجی عمل ہیں اور ان میں فرد یا جماعت کا ایسا عمل شامل ہے جو ذاتی طور پر یا جماعتی طور پر نقصان دینے والا ہو۔ یہی صورت پچھاڑ کی ہے۔ پچھڑ جانا، پچھاڑ کھانا، ”پچھاڑ دینا“ شکست دینے کے معنی میں آتا ہے یا پھر اس میں بے چینی اور ناکامی کا مفہوم شامل رہتا ہے۔

یہاں اُکھاڑ پچھاڑ انھیں مطالب کا جامعہ ہے اور اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بہت اُکھاڑ پچھاڑ کی یا اُکھاڑ پچھاڑ کھائی۔ اُکھاڑ پچھاڑ مچانا بھی اسی دائرہ میں شامل ہے۔ پہلے زمانہ میں جب جھڑپیں ہوتی تھیں، لوٹ مار ہوتی تھی۔ اسی کو اُکھاڑ پچھاڑ بھی کہتے تھے۔ اُکھاڑ پچھاڑ مچانا اسی طرح کا عمل ہے۔ فتنہ فساد برپا کرنے والوں کو بھی اُکھاڑ پچھاڑ مچانے والا کہتے تھے۔ خاندانی جھگڑے جب بڑھ جاتے تھے تو وہ بھی ایک طرح کی اُکھاڑ پچھاڑ تھی جس کے ذمہ دار

خاندان ہی کے لوگ ہوتے تھے۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ محاورہ بھی ایسے محاورات میں سے ہے جو سماج کی فطرت انسانی ذہنی روش اور سماجی، معاشرتی اور خاندانی تنظیم کو بگاڑ دینے کا عمل اس میں شامل ہے۔

◆ اُکھڑی اُکھڑی باتیں کرنا

”جماجما کر باتیں کرنا“ ایک طرح کا سماجی عمل بھی ہے اور شخصی عادت بھی۔ اس کے مقابلے میں اُکھڑی اُکھڑی باتیں کرنا آتا ہے، یعنی باتوں کو بے دلی سے کرنا۔ کٹے پھٹے جملے اور بے ربط فقرے استعمال کرنا یہ ذہنی رویہ سماجی نفسیات کا حصہ ہوتا ہے۔ آدمی جب بیزار ہوتا ہے، بات نہیں کرنا چاہتا تو خواہ مخواہ کی بے تکی باتیں کرتا ہے، بے ربط اور بے موقع سوال و جواب کرتا ہے وہی تو اُکھڑی اُکھڑی باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں اس طرح کا عمل طرح طرح سے سامنے آتا ہے۔ ہم کسی بات پر توجہ دینا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، بات کو ڈھنگ سے کہنا نہیں پسند کرتے، ٹلا دینا چاہتے ہیں تو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔

◆ انگاروں پر لوٹنا، انگارے بچھانا، انگارے بھرنا، انگارے مارنا

”انگارہ“ آگ ہی کی ایک صورت ہے اور تکلیف دہ صورت ہے، وہ ہاتھوں پہ انگارے رکھنا ہو یا ”انگاروں پر چلنا“ شدید عذاب کی ایک صورت ہے۔ موت کے بعد قبر کے انگاروں سے بھرنے کے معنی بھی یہی ہیں، کوئی اپنی قبر کو بھرے یا دوسرے کی بات، ایک ہی ہے مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جو عذاب آدمی کو دیا جاتا ہے وہ قبر میں دفن کرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے اور چونکہ مسلمانوں میں عذاب کا تعلق آگ سے ہے دوزخ سے ہے اس لیے قبر میں بھی انگاروں کا ہونا شدید عذاب سے گزرنا ہے۔ انگاروں پر لوٹنے کے معنی بھی سخت بے آرا می اور ذہنی کوفت کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔

سماج کا رویہ بھی کبھی کبھی ایک حساس یا مجبور آدمی کے حق میں اتنا برا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کر نہیں پاتا اور بے انتہا ذہنی کوفت اور جسمانی اذیتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔

◆ اوپری پرانے، بھوت پریت

یہ محاورہ بھی اس معنی میں اہم ہے کہ سماجی تواہم پرستی اور ان دیکھی باتوں سے خوف کی طرف اشارہ کرتا ہے ہم یہ کہتے ہیں ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اوپری پرانے کے بہت قائل ہیں اوپری پرانے کا ڈر رہتا ہے۔

◇ اوکھلی میں سردینا

اوکھلی لکڑی کے اس حصہ کو کہتے تھے جس میں کسی شے کو ڈال کر رسل سے کوٹا جاتا ہے اوکھلی ایک کوٹھی کی طرح ہوتی ہے۔ اب سے کچھ دنوں پہلے تک گاؤں اور قصبوں کے گھروں میں اوکھلی بنی ہوتی تھی اور رسل رکھے رہتے تھے اور وہاں اس میں کوٹے جاتے تھے جس میں چاول الگ ہو جاتے تھے، بھوسی الگ ہو جاتی تھی۔ اب ایسی کسی جگہ کے لیے یہ محاورہ استعمال ہونے لگا یہ کہاوت کام آنے لگی جہاں تکلیف کی باتیں ہوں اور آدمی اپنے سماجی رشتوں اور ضرورتوں کے پیش نظر ان کو برداشت کر لیتا ہے اور یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جب اوکھلی میں سردیا ہے تو مسلوں سے کیا ڈرنا۔

◇ اُونچی ناک کرنا یا ہونا، نیچی ناک کرنا یا ہونا

یہ محاورہ سماجی امتیاز اور بے امتیازی کے تصور کے گرد گھومتا ہے۔ ناک عزت و آبرو کی علامت ہے اسی لیے ”ناک کٹنا“ بے عزت ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ آدمی سر اُونچا کرے چلتا ہے تو اس کی ناک بھی اُونچی ہوتی ہے اگر سر نیچا کر کے چلتا ہے تو ناک بھی نیچی ہوتی ہے اس سے مراد فخر و ناز کا اظہار کرنا ہے یا عاجزی اور انکسار کو پیش کرنا ہے۔ سر اور ناک کے محاورے انسان کی یا ہماری زبان کی سماجی نفسیات کو پیش کرتے ہیں اور اس میں یہ اُونچ نیچ ایک اعتباری یا اختیاری صورت ہے۔

◇ اہلے گہلے پھرنا، خوش خوش ہونا

دہلی کا محاورہ ہے اور جب انسان کسی کامیابی یا خوشی کے موقع پر خوش خوش نظر آتا ہے تو ”اہلے گہلے پھرنا“ کہتے ہیں یہ اس کی شخصی خوشی کا اظہار ہے۔

◇ ایرے غیرے

یہ محاورہ سماجی نفسیات کی طرف اشارہ کر نیوالا ہے۔ (ایرا غیرا) غیر نا آشنا یا دُور پرے کے آدمیوں کو کہتے ہیں۔ انسانی نفسیات میں اپنے بیگانے یا قریب اور دُور کے لوگوں کی تقسیم بہت واضح رہی ہے اور آج بھی ہے اسی لیے وہ نا آشنا لوگوں کو اپنے قریب پسند نہیں کرتا۔ سیاست یا تجارت کے رشتوں کی بات دوسری ہے، ورنہ ایرے غیرے کہہ کر وہ نا آشنا اجنبیوں کا ہی تو ذکر کرتا ہے۔

◇ ایسی تیسی میں جائے یا جا

آدمی اپنی ذہنی حالتوں اور نفسیاتی کیفیتوں کا اظہار ان الفاظ یا آوازوں میں کرتا ہے۔ سیٹی بجاتا ہے یا دوسری طرح کی آوازوں سے اپنی مختلف ذہنی کیفیتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ”ایسی تیسی ہونا“، ”اول فول بکنا“ اسی طرح کے حملوں یا آوازوں کا حصہ ہے۔

◇ ایک منہ، یا ایک زبان ہونا۔ ہزار منہ اور ہزار زبانیں ہونا

ایک منہ اور ایک زبان ہونے ہی کا ایک دوسرا رخ ہے ”جتنے منہ اتنی زبانیں“ یہ بھی اسی سلسلے کا محاورہ ہے۔ اصل میں ”ایک زبان کے ہونا“ کے یہ معنی بھی ہیں کہ سب ایک سی بات کہیں مگر سماجی معاملات میں ایسا ہوتا نہیں۔ ہر آدمی اپنی بات الگ سوچتا اور الگ کہتا ہے۔ منہ سے مراد چہرہ نہیں ہے بلکہ لب و زبان ہے اب جتنے آدمی ہونگے اتنے ہی ان کے منہ ہوں گے ان کی زبانیں ہونگی اور ان کی الگ الگ باتیں ہونگی۔ اسی سے سماج میں اُلجھنیں پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے اور یہی ذہنی خلفشار اور گفتگو میں مقصدیت کے لحاظ سے انتشار کا باعث ہوتا ہے۔

◇ اینڈ اینڈ اچھرا نا، ڈولنا

اہلا گہلا پھرنے ہی کو کہتے ہیں اور اس میں شخصی نفسیات کو زیادہ دخل ہوتا ہے اور جماعت کو کم لیکن اینڈی بیڈی باتیں کرنا دوسری بات ہے یہ وہی صورت ہے جس کو ہم اوٹ پٹانگ بات کرنا کہتے ہیں یا غلط سلط باتیں کرنے کا رویہ جو سماجی طور پر بہت لوگوں میں ہوتا ہے۔ اینڈی بینڈی چال بھی اسی مفہوم میں آتا ہے اس لیے کہ آدمی کی چال بلکہ خود جانور کی چال اس کی ذہنی حالتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ تیز چلنا ایک الگ مفہوم رکھتا ہے آہستہ خرامی کا مطلب الگ ہے اور اینڈی بینڈی چال دوسرے ہی معنی رکھتی ہے۔

◇ آبخورے بھرنا

”آب خورہ“ ایک طرح کی مٹی کے ”فجان نما“ برتن کو کہتے ہیں جو کھار کے چاک پر بنتا ہے اور پھر اسے مٹی کے دوسرے برتنوں کی طرح پکایا جاتا ہے۔ یہ گویا غریب آدمی کا پانی پینے کا پیالہ اور ایسا برتن ہوتا ہے جسے پانی، دودھ یا شربت پی کر پھینک بھی دیتے ہیں۔ عام طور سے ہندوؤں میں اس کا استعمال اس لیے بھی رہا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے استعمال کردہ برتن میں کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ آبخورے میں دودھ پیا اور پھر اسے پھینک دیا اور پھر یہی صورت

شربت کے ساتھ ہوتی ہے مگر ”آبخورے بھرنا“ عورتوں کے نذرونیاز کے سلسلہ کا ایک اہم رسمی آداب کا حصہ ہے۔ عورتیں منتیں مانتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، میاں کی کمائی کے لیے اور ایسی ہی دوسری کچھ باتوں کے لیے، اور کہتی ہیں کہ اے خدا، اگر میری یہ دعا قبول ہوگئی اور میری منت پوری ہوئی تو میں تیری اور تیرے نیک بندوں کی نیاز کروں گی، دودھ یا شربت سے آبخورے بھر کر، انھیں دعا درود کے ساتھ یتیم بچوں، فقیروں، درویشوں یا مسافروں کو پلاؤں گی۔ نیاز کی چیزیں عام طور پر غریبوں ہی کے لیے ہوتی ہیں مگر اس میں اپنے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔

◇ آبروریزی کرنا

”آبرو“ چہرے کی آب و تاب کو کہتے ہیں، اس لیے کہ آب کے معنی چمک دمک کے بھی ہیں، پانی کے بھی۔ لیکن محاورہ کی سطح پر آبرو کے معنی ہیں عزت، سماجی احترام اور اگر کوئی شخص اپنے کسی عمل سے دوسرے کو معاشرتی سطح پر بے عزت یا Dishonor کرتا ہے تو وہ گویا اس کی ”آبروریزی“ کرتا ہے، اسے مٹی میں ملاتا ہے۔ فارسی میں ”ریختن، ریزیدن“ کے معنی ہیں ”گرانا، گرنا“۔ اسی لیے موسم خزاں میں جو پت جھڑکا موسم ہوتا ہے، اسے برگ ریز یعنی پتے گرانے والا موسم کہتے ہیں۔

اس سے ہم ”آبروریزی“ کے لفظی مفہوم اور معاشرتی معنی تک پہنچ سکتے ہیں جو ایک تہذیبی اندازِ نظر ہے۔ ”آبرو“ کے ساتھ کئی محاورے آتے ہیں اور سب کے مفہوم میں چہرہ کی آب و تاب اور عزت شامل ہے۔ مثلاً ”آبرو بگاڑنا“ آبروریزی ہی کے معنی میں آتا ہے۔ ”آبرو رکھنا“ عزت رکھنے ہی کا مفہوم بناتا ہے۔ ”آبرودار“ عزت دار آدمی کو کہتے ہیں۔ ”رودار“ بھی آبرودار ہی کے معنی میں آتا ہے۔ اس سے ہم آبرو کے معاشرتی تعلق کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ بے عزتی بہت بڑی سماجی سزا ہے۔

◇ آبِ حیات ہونا

آبِ حیات کا تصور قوموں میں بہت قدیم ہے۔ یعنی ایک ایسے چشمہ کا پانی جس کو پینے سے پھر آدمی زندہ رہتا ہے۔ اُردو اور فارسی ادب میں حضرت خضر کا تصور بھی موجود ہے۔ یہ چشمہ آبِ حیات کے نگراں ہیں۔ اسی لیے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کا لباس ”سبز“ ہے اور وہ دریاؤں کے کنارے ملتے ہیں اور بھولے بھٹکوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم

جانتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں جب باقاعدہ سڑکیں نہیں تھیں، دریاؤں کے کنارے کنارے سفر کیا جاتا تھا۔ اور اس طرح گویا دریا ہماری رہنمائی کرتے تھے۔ یہیں سے خضر کی رہنمائی کا تصور بھی پیدا ہوا ہے۔

علم کو پانی سے مشابہت دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم علم کا سمندر یعنی بحر العلم کہتے ہیں جسے ہندی میں "ودیا ساگر" کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ علم پانی ہے، پانی زندگی ہے اور پانی نہ ہو تو پھر زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ ان باتوں کو آبِ حیات کی صورت میں ایک علامت کے طور پر مانا گیا ہے۔ حضرت خضر کا علم بھی بہت بڑا ہے جس کے لیے اقبال نے کہا ہے:

علم موسیٰ بھی ہے جس کے سامنے حیرت فروش

قرآن میں بھی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ سے متعلق روایت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ لیکن خضر کا نام نہیں ہے۔ اردو ادب میں اور مغلوں کی تاریخ میں بادشاہ جو پانی پیتے تھے اس کو بھی آبِ حیات کہا جاتا تھا۔ ان سب باتوں کے پیش نظر جب اردو میں بطور محاورہ آبِ حیات ہونا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ یہ بے حد مفید ہے، زندگی بڑھاتا ہے اور صحت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ محاوروں نے ہماری تہذیبی روایت کو محفوظ کیا ہے اور عوام تک پہنچایا ہے۔

◆ آبنوس کا کندا ہونا

یہ ایک عجیب محاورہ ہے۔ لکڑیوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، مثلاً ٹون کی لکڑی کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ صندل (چندن) کی لکڑی کا رنگ زرد ہوتا ہے اور آبنوس کا سیاہ۔ سیاہ ہمارے ہاں خوبصورت اور پرکشش رنگ خیال نہیں کیا جاتا۔ اس لیے دیووں اور بھوتوں کو یہ رنگ دیا جاتا ہے اور سیاہ کہہ کر بھی جن بھوت مراد لیا جاتا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ بالوں کا رنگ بھی سیاہ ہوتا ہے۔ بھوں کا بھی اور آنکھوں کی پتلیوں کا اور تل کا بھی رنگ کالا ہوتا ہے۔ اور یہ سب حسن و کشش کی علامت ہیں۔ کم از کم ہند ایرانی تہذیب میں ایسا ہی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سیاہ رنگ سے نفرت کے اظہار کی وجہ کیا ہے۔ جب کہ شیعہ عقیدہ رکھنے والوں کے ہاں سیاہ رنگ مقدس رنگ ہوتا ہے اور عباسیوں کی سلطنت (خلفائے بنو عباس) میں سیاہ رنگ ان کی اپنی سلطنت کا رنگ تھا۔

ان حقائق کی روشنی میں سیاہ رنگ سے نفرت دراصل آریائی تہذیب کی دین ہے کہ

وہ دراوڑوں سے نفرت کرتے تھے۔ ان کی تہذیب اور علمی کارگزاریوں کو بالکل نظر انداز کرتے رہے۔ بہت سے لوگوں کو بھنگی، چمار اور دوسرے پیشوں سے وابستہ کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کے رنگ سے نفرت شروع کر دی۔ اور اس کا اثر یہ ہے کہ آبنوس کا کنڈا، کالا کلوٹا، کلموہا ہمارے ہاں بڑے الفاظ ہو گئے۔ آبنوس وہ لکڑی ہے جو صرف دراوڑوں کے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے، کہیں اس میں ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی فکر اور ان فکری تعصبات کی جھلک بھی ہے جو ہماری تہذیب و ثقافت کا رشتہ رہے ہیں۔

◇ آب و دانہ اٹھ جانا

آب، پانی۔ دانہ کوئی بھی ایسی شے جو خوراک کے طور پر لی جائے۔ اور پرندے تو عام طور پر دانہ ہی لیتے ہیں۔ چونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدمی کا رزق اوپر سے اترتا ہے اور اوپر والے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو جہاں سے چاہے رزق دے۔ اور یہ سب کچھ تقدیر کے تحت ہوتا ہے اور تقدیر کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیا خبر ہے کس کا آب و دانہ کب اٹھ جائے اور جب تک آب و دانہ ہے، اسی وقت تک قیام بھی ہے۔ جب آب و دانہ اٹھ جائے گا تو قیام بھی ختم ہو جائے گا۔

یہ محاورہ ہمارے تہذیبی تصورات اور زندہ رہنے کے فطری تقاضوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آب و دانہ، آب و خور اور آب و خورش بھی اسی ذیل میں آتے ہیں۔ یہ ایک ہی محاورہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ خورش، خور اور خوراک فارسی الفاظ ہیں اور اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

◇ آب و رنگ

آب و رنگ کے معنی دوسرے ہیں، یعنی رونق، خوب صورتی، رنگینی اور رعنائی۔ ”آب دار“ اسی لیے چمک دار کو کہتے ہیں۔ ”آب داری“ کے معنی روشن اور چمک دار ہونے کی صفت تھی اور بے آب ہونے کے معنی اپنی خوب صورتی سے محروم ہونا ہوتا ہے اور اس کے معنی عزت کھونے کے بھی آتے ہیں۔ لڑکی بے آب ہو گئی، یعنی بے عزت ہو گئی، اس کا کنوار پن ختم ہوا۔ ”موتی کی سی آب“ محاورہ ہے اور چمک دار موتی کو درخوش آب کہتے ہیں۔ اس معنی میں آب بمعنی عزت، توقیر، آن بان وغیرہ کے معنی میں آتا ہے جو استعاراتی معنی ہیں۔ یہاں بھی آب و رنگ اسی معنوں میں آیا ہے۔ رنگ خوب صورتی پیدا کرتا ہے اور آب تازگی، طراوت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

◆ آپ بیتی۔ آپ بیتی

انسان کی تاریخ عجیب ہے۔ یہ اس کی اپنی تاریخ بھی ہے، اس کے ماحول کی تاریخ بھی ہے، اس کی اپنی نسلوں کی تاریخ اور خود اس ملک یا اس نسل کی تاریخ بھی جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اب کوئی انسان، اپنے حالات کے تحت، یہ بھی ممکن ہے اپنی تاریخ بھول جائے اور کسی انسان کو اپنے ماحول، اپنی قوم اور اپنے شہر یا اپنے علاقہ کی تاریخ یاد رہے۔ اپنی تاریخ کو آپ بیتی کہتے ہیں اور دوسروں کی تاریخ کو جگ بیتی۔ جب انسان اپنے حالات لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے تو اسے وہ آپ بیتی کہتا ہے۔ ہم اسے خودنوشت سوانح عمری بھی کہتے ہیں۔ گفتگو میں جب آدمی اپنے حالات بیان کرتا ہے اور اگر اس میں اس کا اپنا غم شامل ہوتا ہے تو وہ اس کی ”رام کہانی“ کہلاتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں جگ بیتی نہیں آپ بیتی کہہ رہا ہوں۔ ہم نے خودنوشت سوانح کو آپ بیتی کہا ہے اور جب کسی کی خودنوشت سوانح کو اردو یا ہندی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اسے آپ بیتی کہتے ہیں، جیسے میر کی آپ بیتی، غالب کی آپ بیتی، خسرو کی آپ بیتی وغیرہ۔ کہانیاں، افسانہ، قصہ، داستانیں بھی آپ بیتیاں ہوتی ہیں جن میں جگ بیتیوں کا زیادہ عنصر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم ان میں تاریخ، تہذیب و ثقافت کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ بھی شعوری، نیم شعوری یا لاشعوری طور پر ہمارے ماحول کی گزاری ہوئی زندگی یا گزارے جانے والے ذہنی ماحول کا حصہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ بیتی اور جگ بیتی کا ہمارے تہذیبی ماحول سے گہرا رشتہ ہے۔

◆ آپ سوار تھی

”سوار“ ہندی میں خود غرضی کو کہتے ہیں، یعنی اپنا مطلب جسے آدمی ہر طرح حل کرنا چاہے۔ اسے ”مطلب نکالنا“ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی عام کمزوری ہے اور پچھلی صدیوں کے حالات کا نتیجہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے نہیں سوچتا یا سوچتا ہے تو برا ہی سوچتا ہے۔ اس کو جانتا بھی ہے۔ اسی لیے جب دوسرے کی طرف سے غلط سوچ سامنے آتی ہے تو اس پر اعتراض بھی کرتا ہے۔ لیکن اس غلط روش یا خود غرضانہ رویے سے بچنا نہیں چاہتا۔ اس بات کو لوگ سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں۔ اس کا ثبوت ہمارا رد عمل بھی ہے اور یہ محاورے بھی جن میں انہیں رویوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ہم اپنی معاشرتی زندگی میں اس کا مشاہدہ بھی روز روز کرتے ہیں مگر حالات کے دباؤ

اور قدیمانہ روایت کے تحت اس کے خلاف کھلم کھلا کچھ نہیں کہتے۔ اور کہتے ہیں تو صرف اس وقت جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ ورنہ عام رویہ یہ ہے کہ صبر کرو، برداشت کرو جب کہ سامنے کی بات بالکل یہ ہے کہ ان روشوں کو کیوں نہ ترک کیا جائے، صرف برداشت ہی کیوں کیا جائے۔ مگر انسان نے کچھ روایتیں تو اختیار کر لیں لیکن اپنے اوپر خود تنقید کرنا جسے خود احتسابی کہتے ہیں، وہ منظور نہیں کیا اور بد قسمتی یہ ہے کہ مذہب کے روایتی تصور نے بھی انسان کو اس میں مدد دینی شروع کی کہ وہ من مانی کرتا رہے۔ جب کہ مذہب کا اصل مقصد یہ نہ تھا۔

◇ آپ روپ

اپنے آپ ہی سب کچھ ہونا۔ روپ کے معنی ہندو فلاسفی اور ادب میں بہت سے ہیں۔ یہ محاورہ بھی ایک طرح سے ہندو فلسفہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے معنی ہیں جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو۔ ظاہر ہے یہ صفت صرف خدا کی ہے جو کسی سے پیدا نہ ہوا کہ کسی نے اس کو بنایا، اور سنوارا نہیں۔ اس کے دوسرے معنی جو محاورہ ہی سے پیدا ہوئے ہیں، وہ خود بدولت ہیں جو مغلوں میں بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مزاج کے طور پر، جس آدمی کو بڑا بننے کی عادت ہو، اس کے لیے طنز کے طور پر بھی یہ فقرہ استعمال ہوتا ہے۔

◇ آپ سے باہر ہونا یا آپے سے باہر ہونا

”آپ“ کا لفظ محاورہ کے طور پر اپنی مختلف صورتوں میں بار بار استعمال ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی وجود کو ایک معاشرتی وجود مان کر کیا کچھ کہا گیا اور سوچا گیا ہے۔ ”آپے سے باہر ہونا“ ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو سماجی طور پر اپنی شخصیت کو ضرورت سے زیادہ سامنے لاتا ہے، مثلاً یہ کہتے ہیں کہ اسے ملازمت کیا مل گئی کہ وہ تو آپے سے باہر ہو گیا۔ یا ذرا سی بات میں وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہاں مراد غصہ سے ہے کہ وہ اپنے غصہ پر قابو نہیں رکھ سکتا۔

آدمی کی خوبی یہ ہے کہ وہ غصہ پر قابو پائے تاکہ تعلقات میں ایک گونہ ہمواری باقی رہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے جس کو ہر موقع اور تعلقات کے ہر مرحلہ میں پیش نظر رکھا جائے۔ کبھی کبھی دوسرے لوگ انسان کی شرافت اور کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب تک سختی سے منع نہ کیا جائے یا اظہارِ ناخوشی نہ کیا جائے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔

◇ آدھا تیر آدھا بیئر

جب کردار میں یا کسی شے کی ظاہری شکل و صورت میں توازن و تناسب نہیں ہوتا اور اس کی غیر موزونیت پہلی نظر میں بھانپ لی جاتی ہے تو اسے ”آدھا تیر آدھا بیئر“ کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شوقین طبع لوگ تیر پالتے تھے۔ بیئروں کے پالنے کا بھی رواج تھا اور لکھنؤ میں بیئروں کا لڑائی بھی کرائی جاتی تھی۔ اس کا رواج دہلی میں بھی تھا۔ یہ رئیسوں کا شوق تھا اور رفتہ رفتہ درمیانی طبقے میں بھی سراپت کر گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بیئر پالنا اور تیر پالنا معاشرے میں کچھ خاص رجحانات کا ترجمان بن گیا۔ ان میں موزونیت اور ہم آہنگی بطور خاص شامل ہے جس کی طرف یہ محاورہ بطور خاص اشارہ کرتا ہے۔

◇ آدمیوں کا بن یا جنگل

جنگل آدمی کے لیے ایک اہم تہذیبی حوالہ ہے۔ دیہات والے اپنی بہت سی ضرورتیں جنگل سے پوری کرتے ہیں۔ لکڑیاں لانا ہو، پھل کھانا ہو، مکان کی کوئی ضرورت ہو، کڑیاں ہوں، برگے ہوں، شہتیر ہوں یا چھپر ہو، اسارہ ہو، جس کے سہارے چھپر کھڑا کیا جاتا ہے یا پھونس جس سے چھپر بنایا جاتا ہے، سب کا تعلق جنگل سے ہے۔ جنگل سے انسانی تہذیب کا گہرا رشتہ ہے۔ رفتہ رفتہ شہر آباد ہو گئے۔ گاؤں اور ضلعے بس گئے تو آدمی کا اور جنگل کا ساتھ چھوٹ گیا۔ آدمی نے جنگل کاٹ بھی دیے اور اپنے شہری تصورات کے تحت غیر مہذب آبادی کو جنگلی کہنا شروع کر دیا۔ بن میں رہنے والے انسان ان کے نزدیک آدمی نہیں، بن مانس تھے۔ زیادہ شہریت آئی تو گاؤں والوں کو گنوار کہنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ شہر میں اگر گھنی آبادی ہو گئی، بہت بڑھ گئی تو اسے آدمیوں کا جنگل کہہ کر پکارا اور اس کے مقابلے میں جہاں آبادی نہ ہوئی یا بہت کم ہوئی اسے جنگل بیابان کہنا شروع کر دیا۔

ان محاوروں پر اگر نظر ڈالی جاتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جنگل کا آدمی کی زندگی سے کیا رشتہ ہے۔ صحرا بھی ایک طرح کا بھوڑ جنگل ہی ہوتا ہے۔

میر انیس کا مصرعہ ہے:

صحرا کا آدمی ہے کہ جنگل کا جانور
جنگل کا استعارہ شاعری میں بھی آتا رہا ہے اور صحرا کو تصور عشق کے طور پر طرح طرح سے تشبیہ اور استعاروں میں شامل کیا گیا ہے۔ فراق کا مصرعہ ہے:

صحرا صحرا دل بھٹکے گا آج تمہیں نے روکا ہوتا

◇ آدمیت پکڑنا

انسان آدم زاد ہے اور اردو ادب میں اسے آدم زاد بار بار کہا بھی گیا ہے۔ جہاں آدمی سے قصور اور خطا وابستہ ہے، وہاں آدمیت، شرافت اور انسانیت کے تقاضے بھی اسی سے متعلق ہیں۔ انھی تقاضوں کے پورا نہ ہونے پر انسان کو جنگلی اور جانور کہا جاتا ہے۔ جب کسی انسان میں شرافت، نیکی اور بھلے آدمی ہونے کی صفات نہیں دیکھی جاتیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی بن، آدمیت سیکھ۔ اسی لیے صورت شکل میں بھی اس کے آدم زاد ہونے کو سراہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی کا بچہ ہے، یعنی قبول صورت ہے۔

◇ آدھی رات ادھر، آدھی رات ادھر

رات اوقات کی تقسیم میں دن کے مقابلے میں کچھ زیادہ پر اسرار، پرکشش، لائق توجہ اور ڈرانے والی ہوتی ہے۔ رات سے چونکہ اندھیرا متعلق ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کا ذکر خوابوں کے ساتھ خوفناکیوں کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، جیسے ڈراؤنی رات، اندھیری رات، اندھیرا گھپ۔ اندھیروں کا سفر زندگی کا تکلیف دہ اور ڈراؤنا سفر ہوتا ہے۔ اس اندھیرے کا سفر جب ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا۔ رات تاروں بھری بھی ہوتی ہے، چاند رات بھی ہوتی ہے اور چاندنی رات بھی۔ اسی کے ساتھ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ غرض کہ رات سے ہمارے بہت سے تصورات وابستہ ہیں۔

”آدھی رات ادھر، آدھی رات ادھر“ نصف شب کو کہتے ہیں جب سونے کا وقت آ جاتا ہے۔ پچھلا پہر بھی رات ہی سے منسوب ہے۔ انسان دو برابر کے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کو بڑی بات خیال کرتا ہے۔ چاند کے حساب سے راتیں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں تو وہ چودھویں رات کہلاتی ہے اور اس کے چاند کو چودھویں کا چاند کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں داستانوں اور کہانیوں کا تصور بھی راتوں سے وابستہ ہے۔ ”الف لیلیٰ“ کا نام ہی ”الف لیلیا و لیلیا“ ہے یعنی ایک ہزار ایک راتیں۔ اُردو کی مشہور معشوقہ لیلیٰ بھی رات ہی سے وابستہ ہے۔

◇ آدھوں آدھ کرنا

آدھا ایک کا نصف ہے اور تہذیبی طور پر اپنے خاص معنی رکھتا ہے۔ مذکورہ محاورے میں بھی آدھے کا تصور واضح طور پر موجود ہے۔ ادھی، ادھنا، ادھ پکا، ادھ رانا، ادھ بانکا، ادھ مرا، ادھ موا، ادھ کچرا، ادھ بنا، ان سب میں آدھ شامل ہے اور ایک خاص ذہنی پیمانے کو پیش کرتا ہے۔

ہمارے معاشرے کی سوچ ہمارے ذہنوں پر اثر ڈالتی ہے اور ہمارا ذہن زبان پر اپنے گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ دیکھا جائے تو الفاظ کے محاوراتی معنی، استعاراتی معنی ہوتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے آدھی کو چھوڑ ساری کو دھاوے، آدھی رہے نہ ساری پاوے۔ یعنی آدھی جب زیادہ لالچ کرتا ہے تو نہ آدھی ملتی ہے، نہ ساری؛ محرومی ہی اس کے حصے میں آتی ہے۔ یہ بھی سماج کے رویہ پر تبصرہ ہے کہ صبر و ضبط سے کام لو، زیادہ لالچ اور خود غرضی اختیار نہ کرو۔

◇ آڑے ہاتھوں لینا

عجیب بات ہے کہ محاورات ہماری تہذیب کے مختلف روپ پیش کرتے ہیں اور ان سے ہمارے ذہن و زندگی کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ”آڑے ہاتھوں لینا“ فضیلتا کرنے کو کہتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ کے معنی ہوتے ہیں محبت کا اظہار کہ پیار سیدھے ہاتھوں ہی کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ”آڑے ہاتھوں لینا“ (بد تہذیب) گفتگو کا عمل بھی ہے اور تعلقات کے اچھے برے ہونے کی ایک نشانی بھی ہے۔ ترچھی نظروں سے دیکھنا بھی اسی عمل کا ایک حصہ ہے۔ انسانی عمل کی ادائیگی میں الفاظ بھی حصہ لیتے ہیں۔ اعضا کا ایکشن اور ری ایکشن (reaction) بھی اشارے اور کناہیے بھی، خیال، عمل، خوشی اور ناخوشی بھی۔ محاورے انہی سب حقیقتوں کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ محاورہ بھی تشبیہ ہوتا ہے، استعارہ بھی، تصور بھی اور تصویر بھی۔

”آڑے آنا“ بھی اسی سلسلے کا محاورہ ہے۔ اس کے معنی بھی رکاوٹ بننے ہی کے ہیں۔ لیکن کسی مصیبت سے بچانے کے لیے آفت میں کام آنے کی غرض سے ”آڑے آنا“ کام آتا ہے اور ایک طرح کا سماجی عمل ہے جس میں دوسروں کا تعاون اور ان کی بروقت مدد شامل رہتی ہے کہ یہ تو وہ تھا کہ آڑے آ گیا، ورنہ کون جانے کتنا نقصان پہنچتا اور کتنی پریشانیاں برداشت کرنی ہوتیں۔ ”اڑم ڈھم ہونا“ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ مگر اس کے معنی بھیڑ بھڑکا کے ہیں۔ جب راستہ نہ ملے اور نہ بیٹھنے کی جگہ ہو، نہ جانے کی کوئی راہ، ایسے وقت میں ”اڑم ڈھم“ کہتے ہیں۔ محاورہ عوامی طرز اظہار بھی ہوتا ہے اور بعض محاوروں میں صوتی اعتبار سے ایک کرختگی بھی ہوتی ہے جو عوامی اظہار میں شامل رہنے والی ایک صورت اظہار ہے۔ خواص سخت الفاظ اور کرخت آوازوں کا استعمال کم کرتے ہیں۔ ممکن ہے ہماری زبان میں یہ رجحان پوربی بھاشا سے آیا ہو۔ اُردو کے ابتدائی مراحل میں ان بھاشاں کا اثر ہماری زبان پر زیادہ تھا اور بعد

میں فارسی اثرات کی بدولت یہ رجحان شہری سطح پر کچھ اور آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔ مگر عوامی محاورے نے ان آوازوں کو جو نسبتاً ثقیل آوازیں تھیں، ہماری زبان میں باقی رکھا ہے۔

◇ آزاد کا سونٹا (فقیر)

فقیر پابند نہیں ہوتے؛ نہ گھر بار کے، نہ عزیز داری، نہ رشتہ داری کے کاروبار وہ کرتے ہی نہیں۔ جب، جو مل گیا وہ کھا لیا، نہ ملا تو صبر کیا۔ ایسی زندگی سماجی اعتبار سے مشکل ہی سے نبھتی ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کا ایک طبقہ رہا ضرور ہے۔ اقبال کا یہ مشہور شعر انھیں آزاد طبع لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

درویشِ خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی گھر میرا نہ دلی، نہ صفا ہاں، نہ سمرقند
فقیر کا سونٹا ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ بڑی آزادی سے اس کا استعمال کرتا ہے۔ بھنگ گھونٹتا ہے، کڑا بجاتا ہے، بلی کتے کو بھگاتا ہے، اپنے دشمن کا سر پھوڑتا ہے۔ اس معنی میں ہمارے معاشرے میں ایسے شخص کی زبان کو جو اپنے لب و لہجے پر قابو نہیں رکھتا، آزاد کا سونٹا یا فقیر کا سونٹا کہتے ہیں۔

◇ آس

”آس“ اُمید کو کہتے ہیں اور اُمید کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر دنیا قائم ہے، یعنی اُمید نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اُمید کے ساتھ بھی قیامت کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ اردو کا ایک شعر ہے۔

اُمیدیں باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں

کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے

اُمیدیں ہمارے خواب ہیں، خیال ہیں، توقعات ہیں جو زندگی میں وقتاً فوقتاً، موقع بموقع ایک نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ عورت کے ہاں حمل کی حالت کو ”اُمید سے ہونا“ کہتے ہیں۔ اردو کا ایک شعر ہے۔

کہتے ہیں، جیتے ہیں اُمید پہ لوگ

ہم کو جینے کی بھی اُمید نہیں

اُمید آس ہے، جو آشا کی عوامی شکل ہے اور بعض محاورات کا ضروری جزو ہے۔ آس

رکھنا تو خیر اُمید رکھنے کے بارے میں ہے۔ آس اولاد اس سے آگے کی بات ہے۔ ہم اولاد سے

بھی آس رکھتے ہیں۔ اور اولاد ہم سے آس رکھتی ہے۔ یہ سلسلہ باہمی طور پر ذہنی رشتوں کو قائم رکھتا ہے۔ دعاؤں میں آس پوری کرنا بھی کہتے ہیں، پوری ہونا بھی۔ اولاد کی آس تو بہت بڑی آس ہوتی ہے اور جس کے اولاد نہ ہو اس کی تو گویا جڑ بنیاد ہی اُکھڑ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے تو آس اولاد کچھ بھی نہیں ہے۔ ”بے اولاد ہونا“ ایک طرح کی نحوست ہے اور عورت تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بہت ہی نامرادانہ زندگی گزارتی ہے۔ ”آس لگانا“ اور ”آس رکھنا“ بھی اسی میں شامل ہے اور ”آس ٹوٹنا“ یا ”آس بندھنا“ بھی۔ آسرا بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ آسرا ڈھونڈنا، آسرا جوہنا، آسرا لگانا، آسرا باندھنا بھی اور آسرا رکھنا بھی۔ فراق کا شعر ہے۔

آسرا وہ بھی شامِ فرقت کا خواب تو دیکھیے محبت کا
 ◊ آسامی بنانا

”آسامی“ جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک پٹواری، ایک ٹیچر یا ایک کلرک کی آسامی خالی ہے۔ ”آسامی بنانا“ ایک محاورہ بھی ہے اور انسان کے فریب، مکر اور دغا کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آدمی جھوٹ سچ بول کر، پُر فریب باتیں کر کے کسی سے ناجائز فائدہ اٹھالیتا ہے، اسی کو ”آسامی بنانا“ کہتے ہیں کہ اُس نے وہاں آسامی بنا رکھی ہے، یا وہ نگریم باز ہے، آسامی بنالے گا۔ آسامی بمعنی جگہ اب بہت کم استعمال ہوتا ہے اور درخواستوں میں بھی نہیں آتا۔ اس سے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بعض الفاظ سماج میں ایک خاص طبقے یا حلقے میں اپنی جگہ بناتے ہیں اور جڑیں پھیلاتے ہیں اور وقت کے ساتھ وہ سمٹ بھی جاتے ہیں اور ان کا استعمال کم یا ختم ہو جاتا ہے۔

◊ آستین کا سانپ ہونا

یہ بھی سماج میں موجود افراد کی برائیوں کی طرف ایک اشارہ ہے۔ سانپ خود بھی بطور محاورہ اور علامت استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی نہیں بلکہ سانپ ہے۔ اس معنی میں سانپ گویا بدترین دشمن ہوتا ہے اور آستین کا سانپ وہ ہوتا ہے جو بظاہر ہمارے ساتھ ہو، ہمارا ہم درد ہو اور مخلص نظر آتا ہو لیکن در پردہ ہمارا دشمن ہو۔ سماج میں اس طرح کے کردار بہر حال موجود ہوتے ہیں۔

◊ آستینوں میں بت چھپائے رکھنا

یہ محاورہ ایسے موقعوں پر بولا جاتا ہے جب انسان عقیدہ و خیال کو چھپائے رکھنا چاہتا

ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ظاہر کچھ اور کہا جاتا ہے۔ یہ روایت ہے کہ عرب کے کچھ لوگ جو دراصل بت پرست تھے، جب نماز پڑھنے مسجد میں آتے تو اپنی آستینوں میں بت چھپائے رکھتے اور اس طرح ایک منافقانہ کردار ادا کرتے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقبال نے یہ شعر کہا ہے۔

اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں

مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ

◇ آسمان پر اڑنا۔ آکاس پھل

یہ ایسا محاورہ ہے جو ہماری زبان اور ہماری روایتی فکر کی سماجی بنیادوں کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی بہت اونچی اونچی باتیں کرنا، بڑھ چڑھ کر باتیں بنانا، جس کو ”زمین آسمان کے قلابے ملانا“ بھی کہتے ہیں۔ آسمان ہماری ایک اہم تہذیبی علامت ہے۔ ہم اپنے مذاہب کو بھی آسمانی مذہبوں سے تعبیر کرتے ہیں، آسمانی کتابیں کہتے ہیں، آسمانی صحیفہ قرار دیتے ہیں۔ سنسکرت میں اسے ”آکاش وانی“ کہا جاتا ہے۔

مسلم اقوام میں آسمان کا ایک اور کردار بھی ہے کہ وہ فریب کار ہے، دعا باز ہے، فتنے برپا کرتا ہے، دلوں میں فرق ڈالتا ہے اور عاشقوں کا دشمن ہے، رقیبوں کا دوست ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے فارسی اور اردو شعرا کے ہاں آسمان کی شکایتیں ملتی ہیں اور اس طرح کی تمنائیں بھی کی جاتی ہیں۔

شبِ وصال بہت کم ہے، آسماں سے کہو

کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شبِ جدائی کا

اسی لیے ایک نیازاویہ فکر پیدا ہوا۔ وہ یہ کہ آدمی اگر زیادہ مکازیاں کرتا ہے تو وہ گویا آسمان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسے بہت سے محاورے آئے ہیں جن سے ان ذہنی رویوں کا پتہ چلتا ہے جو آسمان سے متعلق ہیں، جیسے آسمان کے تارے توڑنا، آسمان سے باتیں کرنا، آسمان میں پیوند لگانا، آسمان پر دماغ ہونا، آسمان پر چڑھنا، آسمان کو ہلا دینا، آسمان جھانکنا یا تاکنا۔ اس سب میں زیادہ چالاکی دکھانے، جھوٹ بولنے اور فریب دینے کا مفہوم شامل رہتا ہے۔ اس کے کچھ دوسرے پہلو بھی ہیں جو انسانی مشکلات سے تعلق رکھتے ہیں اور انسانی زندگی پر جو آفتیں ٹوٹتی ہیں، ان کی طرف ان میں اشارہ مقصود ہوتا ہے، جیسے آسمان پھٹ

پڑنا، آسمان ٹوٹ پڑنا، آسمان سے بلاؤں کا اترنا۔ فارسی کا ایک شعر ہے۔

ہر بلائے کز آسمان آید خان انوری تلاش کند

یعنی جو بلا آسمان سے نازل ہوتی ہے، وہ انوری کا گھر تلاش کر لیتی ہے۔ یہ ہر وہ آدمی کہہ سکتا ہے۔ جس کے گھر پر زیادہ آفتیں آتی ہیں۔

آسمان سے متعلق اور بھی محاورات ہیں، جیسے ”آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا“ یعنی ایک جگہ سے کوئی مسئلہ حل بھی ہوا تو دوسری جگہ جا کر اٹک گیا۔ ایسا ہمارے انتظامی معاملات، گھریلو مسائل اور دفتری سطح کی باتوں میں اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ محاورہ ہمارے معاشرے کی صورت حال کو سمجھنے اور محاورے کے ذریعے معاشرتی امور پر تبصرہ کرنے کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اوپر از غیبی گولے کا ذکر آیا ہے۔ آسمانی گولا، آسمانی تھپیڑا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ آسمان کے متعلق اور بھی کچھ محاورے ہماری زبان کا حصہ ہیں۔ ان میں ”آسمان تلے آنا“ بھی ہے۔

◇ آسن

بیٹھنے کے انداز کو کہتے ہیں۔ جوگی دھیان، گیان کے وقت ایک خاص انداز سے بیٹھتے ہیں۔ اس کو ”آسن لگانا“ کہتے ہیں۔ اگر وہ اپنی جگہ پر نہ رہے تو اسے ”آسن ڈگنا“ کہتے ہیں۔ ”آسن مارنا“ یا ”آسن مار کر بیٹھنا“ آسن لگانے ہی کے معنی میں آتا ہے۔ جنسیات میں ایک خاص طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آنے کو بھی ”آسن لگانا“ کہا جاتا ہے۔ ”آسن تلے آجانا“ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

◇ آفت توڑنا

آفت کے معنی مصیبت، سانحہ اور شدید پریشانی کے ہیں۔ آدمی کی زندگی میں اس طرح کے تکلیف دہ موقعے آتے رہتے ہیں کہ وہ اچانک کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی دکھ کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ دکھ زیادہ تر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وقت کی دین ہوتے ہیں مگر اس میں انسان ہمارے عزیز رشتے دار، پڑوسی اور ساتھ کام کرنے والے شریک رہتے ہیں۔ انھی کی وجہ سے یہ ہوتا بھی ہے۔ اب وہ اپنے ہوں یا غیر، وہی مصیبت کا باعث ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ”آفت ڈھاتے“ ہیں، کچھ لوگ ”آفت اٹھاتے“ ہیں، کچھ لوگ ”آفت توڑتے“ ہیں۔ کچھ لوگ اس کی وجہ سے یا کسی اچانک حادثے کے باعث آفت رسیدہ ہوتے ہیں، جنہیں ”آفت زدہ“ یا ”آفت کا مارا“ کہتے ہیں۔

ہمارے ہاں شاعر اپنے آپ کو سب سے زیادہ آفت زدہ یا آفت رسیدہ خیال کرتا ہے۔ اس میں غم جاناں بھی شامل رہتا ہے غم جان اور بھی۔ جہاں آفت خود ایسا لفظ ہے جو تہذیبی رشتوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ آفتی ہے جو سنسکرت لفظ ہے۔ وہاں سے ہندوی بھاشاں میں آیا ہے اور فارسی میں پ کے بجائے ف آگئی اور تشدید غائب ہو گیا اردو نے بھی اسے فارسی انداز کے ساتھ قبول کیا جس کے ذریعے ہم زبانوں کے باہمی رشتوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ذہنوں اور زمانوں کے آپسی لین دین کو بھی۔

◇ (آفت کا پرکالہ) لپکتا ہوا شعلہ

غیر معمولی طور سے ذہن اور شرارت پسند آدمی کو آفت کا پرکالہ کہتے ہیں۔ آفت کا ٹکڑا بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ ایک اور محاورہ ”آفت کی چٹھی“ ہے۔ ”چٹھی“ خط کو کہتے ہیں۔ اب سے کچھ زمانہ پہلے تک ڈاکیا کو چٹھی رساں کہتے تھے۔ یعنی خط پہنچانے والا۔ چٹھی رساں کا لفظ بھی ایک ایسی ترکیب پر مشتمل تھا جس میں ایک لفظ ہندی اور دوسرا فارسی تھا۔ آفت کی چٹھی بھی اسی طرح کا ترکیبی لفظ ہے جس سے ہماری زبان کی ساخت اور پرداخت کا علم ہوتا ہے۔ خط آنے پر ہمارے قصبوں اور خاص طور پر دیہات کے لوگوں میں ایک طرح کی کھلبلی سی مچ جاتی تھی۔ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اور پھر یہ کہ اسے کون پڑھ کر سنائے؟ چٹھی میں کوئی بہت خوشی یا غم کی بات ہوتی تھی تو اسے آفت کی چٹھی سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ رویے اگر محفوظ ہیں تو ہمارے ان محاورات میں جو معاشرتی مطالعے کی کنجیاں کہہ جاسکتے ہیں۔

◇ آکھ کی بڑھیا

آکھ ایک خاص طرح کا پودا ہوتا ہے جسے آک بھی کہتے ہیں۔ یہ پودا گرمی کی شدید اداؤں میں پروان چڑھتا ہے اور اس کے پتے اور پھول بہت تر و تازہ ہوتے ہیں۔ اس کے بیج کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہرے خول میں بند رہتے ہیں۔ جب وہ خول کھلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بیج بالوں جیسے بہت سارے ریشوں کے درمیان ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ انہیں بچے پکڑتے ہیں اور پھر اپنی پھونک سے اڑ دیتے ہیں۔ ان بالوں کو اور بیج کو آک کی بڑھیا کہتے ہیں یعنی سفید بالوں والی بڑھیا جو اڑتی پھرتی ہے۔ ایسی ہی ایک مشین بھی ہے جس میں شکر سے سفید سفید بالوں جیسا ایک گھچا پیدا ہوتا ہے اسے سمیٹ لیتے ہیں وہ بھی بڑھیا کے بال کہلاتے ہیں۔ یہ محاورہ جو مشینی دور تک آ گیا اس بات کی علامت ہے کہ

ہمارے معاشرے میں بوڑھی عورت اپنے سفید بالوں کے ساتھ بچوں اور بڑوں کو کسی نہ کسی خاص معنی میں متاثر کرتی ہے۔ کہانیوں میں بھی اکثر بوڑھی عورتوں کا ذکر آتا ہے مگر شفقت و محبت کے ساتھ نہیں ایک طرح مکاری کے ساتھ۔

◇ آگاتا گالینا

یہ ہمارے معاشرتی رویوں کا ایک نمایندہ محاورہ ہے۔ ہمارے یہاں درمیانی طبقہ اور اس میں بھی نچلا درمیانی طبقہ ذمہ داریوں سے گھبراتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے ہمت کر کے آگے بڑھیں اور جو قریب تر لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کریں۔ مثلاً اگر ضرورت پڑے تو شرافت کے ساتھ ان سے اچھا سلوک کریں، خاطر تواضع مناسب سطح پر لین دین اور ضرورت وقت امداد و تعاون سے بھی گریز نہ کریں۔

حکومت کی طرف سے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے یا سوسائٹی نے کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں کیا جس میں دوسروں کی بھلائی یا وقت ضرورت ان کی مدد کا کوئی "provision" ہو اس میں زیادہ تر رشتہ دار عزیز دوست اور ہمدردی ہی کام آتے ہیں اور وہی آگاتا گالیتے ہیں اور یہی سماجی عمل کی خوبصورتی ہے۔

◇ آگاپیچھا دیکھنا

نفع نقصان اور اچھائی برائی پر نظر رکھنا۔ بہت سے آدمی غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ کر کے یا اس پر عمل کرتے وقت انجام کو ذہن میں نہیں رکھتے جو چاہے کہہ دیتے ہیں جو چاہے کر دیتے ہیں وہ یہ کبھی غور نہیں کرتے، اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں بناتے کہ بات کا آگاپیچھا سوچ لیں، احتیاط برتیں اور کسی بھی فعل کے معاملہ میں اپنی ذمہ داری کے احساس کو فراموش نہ کریں۔

◇ آگارو کنا

”آگارو کنا“ بھی ایک طرح کا وہ عمل ہے جو ہماری سماجی نفسیات سے گہرا رشتہ رکھتے ہیں۔ کسی بھی معاملہ میں جو مشکلات ابتدا پیش آتی ہیں ان کو روکنا یا روکنے میں معاون ہونا ”آگارو کنا“ کہلاتا ہے۔ دشمن کے حملہ کے وقت اس کے پہلے حملے کو روکنا ”آگارو کنا“ کہلاتا ہے۔ شادی میں دلہن کو لے جاتے وقت آگارو کنا کی ایک اور صورت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ رعایا پر آیا ہے کے لوگ آ کر برات کا راستہ روکتے ہیں اس کو باڑرکائی کہا جاتا ہے لیکن ہے

وہ بھی ”آگ روکنا“ اور جیسا کہ اس سے پیشتر اشارہ کیا جا چکا ہے بہت سے محاورے ہماری سماجی فکر و معاشرتی عمل اور سماجی رویوں کو ظاہر کرتے ہیں۔

◇ آگ بگولہ ہونا

ایسے ملکوں کا محاورہ ہے یا ان کی زبان یا طرز بیان میں داخل ہو سکتا ہے جہاں شدت سے گرمی پڑتی ہو، سخت گرم لوہیں چلتی ہوں، وہیں تو بگولے آگ کا درجہ رکھتے ہوں۔ وہیں بگولہ آگ بگولہ کہلاتا ہے جہاں آدمی ذرا سی بات پر بھڑک رکھتا ہے اور اپنے شدید غم و غصہ پر بھڑک اٹھتا ہے اور اپنے شدید غم و غصہ کا اظہار کرتا ہے ایک اپنے معاشرے میں جہاں تحمل اور بردباری کم ہوتی ہے وہیں اس طرح کی جذباتی روشیں زیادہ سامنے آتی ہیں خواہ وہ غصہ کے عالم میں ہوں یا غم و الم کے جذبات سے متعلق ہوں یہاں شدت احساس کا غلبہ مشرقی قوموں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔

آگ سے متعلق ایک ہم محاورہ ”آگ کھائے گا انکارے اگلے گا“ یہاں آگ کوئی نہیں کھاتا لیکن مداری شعلہ اگلے اور آگ نکلے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا نظر بندی کا عمل بھی ہے۔ اور یہاں کی جادوگری کا ایک حصہ ہے مگر اسی کے ساتھ اس کا ایک اور سماجی مفہوم ہے وہ یہ کہ آدمی جس طرح کے اعمال اختیار کرتا ہے وہی اس کے سنسکار میں جاتے ہیں جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان میں ہوتا ہے آخر ہونٹوں تک کوئی بات دل سے گذر کر یا دماغ سے اتر کر ہی آتی ہے ایسی صورت میں جس طرح کے کردار کا کوئی انسان ہوگا وہی اس کی رفتار و گفتار میں بھی سامنے آئے گا۔

◇ آگ لگانا، آگ بچھانا، یا لگائی بچھائی کرنا

یہ سماجی عمل ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فتنہ پردازیاں کرتے ہیں۔ یہ سیاسی مقصد سے بھی ہوتا ہے اور سماجی مقاصد اس میں شریک رہتے ہیں۔ لوگوں کی اپنی کمینہ فطرت بھی ایسی صورت میں چاہیے، افراد میں تعلقات بگاڑے جائیں یا خاندانوں میں، بہر حال وہ ایک سماجی سطح پر یہ کردار ہے۔ بعض کا اظہار آگ سے متعلق محاورات سے ہوتا ہے جیسے آگ بھڑکانا یا ”آگ پانی کا بیر ہونا“، ”آگ پھونکنا“، ”آگ اگلنا“، ”آگ لگا کر تماشہ دیکھنا“، ”آگ دینا“، ”آگ ہوئی تو دھواں ہوگا وغیرہ۔

بعض محاورے عجیب و غریب ہیں جیسے ”آگ جوڑنا“، آگ روشن کرنے کی کوشش کو

کہتے ہیں۔ ”آگ دھونا“ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب محاورہ ہے۔ چلم پر رکھنے کے لیے جب انگاروں کو جھاڑا جاتا ہے اور راکھ الگ کی جاتی ہے تو اسے ”آگ دھونا“ کہتے ہیں۔

◇ آگے آگے چلنا یا ہونا، آگوا گوا کرنا

”آگے آگے چلنا“ ہمارے یہاں ایک تہذیبی قدر ہے ہر اول دستہ ہمیشہ آگے آگے چلتا تھا۔ شاہی سواری کے ساتھ خیمہ بردار اور دوسرے خادم ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ ان کو پہلے سے خیمے چھولداریاں اور ڈیرے لگانے ہوتے تھے، احتراماً بزرگوں کے آگے آگے چلتے تھے۔ اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی رکاوٹ دشواری اور خطرہ سے ان کو بچایا جائے۔

جہاں محاورے کے ساتھ آگوا گوا بھی دیا گیا وہیں آگاڑی آگاڑی کے ساتھ آگاڑو آگاڑو آگاڑ بھی لکھا گیا ہے۔ یہ تلفظ را جستھانی اثرات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ لوگ آگا تلفظ ہو یا ”ی“ کا دونوں کو ”و“ کے تلفظ میں بدل دیتے تھے اور گاڑھا کو ”گاڑھو“ کہتے ہیں اور مارا کو مارو کہتے ہیں۔ محاورے ہماری زبان کی قدیم شکل کو محفوظ رکھتے ہیں اس میں تلفظ املا بھی شریک ہے۔

◇ آگے خدا کا نام

یہاں تک آگے آگے خدا کا نام ہے ساقی

خدا ہمارے یہاں ایک فکری آئیڈیل ہے ہم جو عقیدتوں، خیالوں اور خوابوں میں بھی شریک رہتا ہے۔ یہاں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ہم جس انتہا تک آگے ہیں اس کے بعد میں خدا کا نام ہے اور کچھ نہیں۔

معلوم ہوا کہ فکر و خیال اور سعی و عمل کی وہ حد جسے ہم نقطہ آخر کہہ سکتے ہیں وہ مقام آچکا ہے اور اس کے بعد خدا کا نام ہے۔ ایک محاورہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے خدا کے نام اور محمد کے، کلمہ کے۔ بات پھرو ہیں آئی کہ صورت جو بھی ہو انتہا کو پہنچ کر ہم خدا کے نام کو سامنے رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے نہ اس سے پہلے کچھ تھا اور نہ اس کے بعد کچھ ہے۔

◇ آگے سے ہوئی آئی ہے

ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر روایت پرست ہے اور انسان نے اپنی راہ ارتقا کے مختلف مرحلوں میں سوچا ہے، سمجھا ہے، نئے فیصلے کیے ہیں، مگر معاشرہ بنیادی طور سے روایت پسند رہا

ہے یہ کہنا کہ آگے سے ہوتی آئی ہے اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں وہ پہلے سے چلی آتی ہوئی ایک روایت ہے۔

ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں

یعنی اپنی سوچ کا عمل یہاں بھی موجود نہیں ہے صدیوں کا سفر آنکھ بند کر کے روایت کی لکیر پر ہوتا رہا ہے آخر اچھوں کو کیوں برا کہا جاتا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے مگر ہر آدمی نے روایت کا سہارا لیا، خود سوچا نہیں اور یہی انسانی معاشرے کی بہت بڑی کمزوری، نارسائی اور ناکامی ہے کہ اس نے ایک بار کسی بات کو مان کر پھر اس پر کبھی نہیں سوچا۔ اور Tradition Bound روایت پرستی پر ہمیشہ فخر کیا۔

◇ آگے کا اٹھا کر کھانے والا، یا آگے کا اٹھا کے کھانا

”آگے کا اٹھا کھا کرنا“ یہی محاورہ دوسرے الفاظ میں بھی ملتا ہے ”اوپر کا پڑا کھانا“ اور ہمارے معاشرے کی شدید کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی بغیر محنت کے یا بغیر حق کے کھانا جو مل گیا، جسے مل گیا، جہاں سے مل گیا اس سے پیٹ کی آگ بجھالی یا اپنی کوئی بھی معاشرتی ضرورت پوری کرنا ہے۔ معاشرے کی یا سوسائٹی کی اس مجموعی عادت کو اس محاورے میں پیش کیا گیا ہے جس میں ایک گہرا طنز موجود ہے۔

◇ آگے ڈالنا

اس کے معنی سامنے رکھنا بھی ہے اور بیوہ کی مدد کرنا بھی ہے۔ ہندوؤں میں دستور ہے کہ کسی بیوہ عورت کے گزارے کے خیال سے اس کے عزیز رشتہ دار اٹھاڑھویں یا تیرھویں کے دن حسبِ مقدور کچھ روپیہ دیتے ہیں۔

اس کے یہ معنی ہیں کہ ہماری رسمیں زندگی اور دنیاوی معاملات سے بھی رشتہ رکھتی ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے معنی اور مقصد پر نظر رکھی جائے۔

◇ آگے کو کان ہونا

یہاں کانوں کے آگے یا پیچھے ہونے سے مراد نہیں ہے بلکہ آئندہ کے لیے ذہن کے ہوشیاری ہونے سے مراد ہے کہ اب جو کچھ ہم نے سنا ہے دیکھا ہے اس سے ہم نتیجہ اخذ کریں۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگ آئندہ کے لیے احتیاط اور اخذ نتائج کے عمل سے اکثر محروم رہتے ہیں۔

◇ آگے ہاتھ پیچھے پات

پات پیڑ کے پتے کو کہتے ہیں۔ ایسا غریب آدمی جس کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو یہ محاورہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ ہندوستان میں سادھو سنت اور خاص طور پر جین مت کو ماننے والے منی ننگے رہتے ہیں جو غربت کے باعث نہیں ہوتا۔ یونان میں بعض دیوتا یا قدیم انسان پرانیوٹ حصہ جسم کو انجیر کے پتے سے ڈھکتے تھے۔ وہ ایک فنکارانہ رویہ تھا غربت وہاں بھی شریک نہیں تھی، مگر ہمارے معاشرے میں غربت و افلاس کو بھی اس پس منظر میں خصوصیت سے شامل کیا گیا ہے۔

غربت پر ہمارے یہاں بہت محاورے ہیں ان میں ایک محاورہ یہ بھی ہے کہ ”اس کے گھڑے پر پیالہ بھی نہیں ہے“ یا ”دنگلی کیا نہائے کیا نچوڑے“ بھوکا بنگا فقیر جیسے محاورے ہمارے معاشرے کی غربت کو ظاہر کرتی ہے۔

◇ آپ سے خوب خدا کا نام

یعنی اپنے سے اچھا تو صرف خدا کا نام ہوتا ہے۔ اس سے سماج کی اس نفسیات کا پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی خود مرکزیت کا شکار ہوتا ہے کہ صرف میں سب کچھ ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں بس خدا کا نام ہے۔ اگر اس اعتبار سے محاوروں پر غور کیا جائے تو سماج کہ ذہن و زندگی کے کتنے پردے اٹھتے ہیں جن کے اندر ہم جھانک نہیں پاتے۔

◇ آیا دیکھنا

معنی: اپنے اوپر نظر کرنا۔ یہ اس اعتبار سے بڑی معنی خیز بات ہے کہ انسان دوسروں کے ایک ایک عیب کو ڈھونڈتا ہے اور اپنی طرف نظر نہیں کرتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور خود اس کی اپنی ذات کی اچھائیاں برائیاں کیا ہیں یہی محاورہ اس شکل میں بھی ہے۔ ”آیا ہی آیا نظر آنا“ یعنی اُسے اپنا وجود ہی نظر آتا ہے اور اس سے باہر کچھ نظر نہیں آتا، یہاں بھی مراد خود غرضی ہے، خود شناسی نہیں۔ خود شناسی میں تو اپنے آپ کو امکانی طور پر صحیح پیمانوں سے دیکھنا اور پرکھنا شامل ہے۔ صرف خود غرضی یا آپ اپنی پرستش کرنے کے جذبہ سے خود کچھ دیکھنا نہیں۔ آدمی جب دوسرے کی نظر سے خود کو دیکھتا ہے تو اس نتیجہ پر بھی پہنچتا ہے اور یہ بھی محاورہ ہے آیا ہے برا ہے یعنی ہم ہی برے ہیں اور تو سب اچھے ہیں۔

◇ آپادھاپی پڑنا

یعنی وہ صورت پیدا ہو جانا کہ چھینا جھٹی ایک عام رویہ بن جائے۔ ”آپا سنبھالنا“ بھی ایک محاورہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھو۔ اس کے بغیر دوسرے تمہیں یا کسی کو تحسین کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔

◇ آپے سے باہر ہونا

یہ بے حد اہم محاورہ ہے۔ اس کے معنی ہیں اپنی حدود اور موقع کی نزاکت کو نہ سمجھنا اور غصہ و غم پر قابو نہ پانا اور بے محابا اظہار کر دینا اس میں برا بھلا کہنا بھی شامل ہے اور دوسرے برے سلوک بھی ہیں جیسے نقصان پہنچانا، توڑ پھوڑ کرنا، مار پیٹ کرنا، عذابوں میں شامل کرنا سب ہی شامل ہے۔

اس اعتبار سے یہ نہایت اہم محاورہ ہے اور اخذ نتائج کی طرف ذہن کو مائل کرنا ہے۔ اُردو میں آپ سے متعلق بہت سے دلچسپ شعر بھی ہیں جیسے

آپ ہیں آپ، آپ سب کچھ ہیں
اور ہیں اور، اور کچھ بھی نہیں

◇ آنچل میں بات باندھنا

آنچل پر بہت محاورے ہیں ان میں ”گرہ باندھنے“ کا محاورہ اس معنی میں اہم محاورہ ہے کہ وہ آپس کے پیار کو مضبوطی بخشنے کے معنی میں آتا ہے بات کو نبھانے کے معنی میں۔ اُردو کا گیت ہے اس کے مکھڑے کے بول اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

آنچل سے کیوں باندھ لیا ایک پر دیسی کا پیار

◇ آنسو نکل پڑنا، آنسو پونچھنا، آنسو پینا، آنسو ڈالنا، آنسو سے منہ دھونا، آنسوؤں کا تار باندھنا

آنکھوں میں آنسو آنا، آنکھوں کا ڈبڈبانا، آنکھوں کا تر ہونا، آنسو ہی سے متعلق ہے۔ اور آنسوؤں سے منہ دھونا بھی۔ اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رونے اور آنسو بہانے کا تصور یا تاثر ہمارے ذہنوں پر کس حد تک رہا ہے اور ہمارے معاشرے نے آنسو بہانے کے ذکر میں کن کن نفسیاتی حالتوں کا تذکرہ کیا ہے۔

◇ آنکھ اٹکنا، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، آنکھ اٹھا کر دیکھنا، آنکھ اٹھانا، آنکھ آنا، آنکھ اُونچی نہ کرنا، آنکھ بچانا، آنکھ بدلنا، آنکھ بند ہونا، آنکھ بھر کر دیکھنا، آنکھ بھوں ٹیڑھی کرنا، آنکھ پڑنا، نظر ادھر گئی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا، آنکھیں پھیر لینا، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا سرمہ، آنکھیں ٹھنڈی کرنا، آنکھیں ٹیڑھی کرنا، آنکھیں چرانا، آنکھیں چھپانا، آنکھ سے آنکھ ملانا، آنکھیں لڑانا، (یا آنکھ لڑنا) آنکھیں مٹکانا وغیرہ آنکھوں میں رات کا ثنا، آنکھیں پتھرانا

ان محاورات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے مختلف رویوں کو جو سماجی اخلاقیات سے گہرا واسطہ رکھتے ہیں ہماری سوچ سے کیا تعلق رہا ہے۔ اور اس پر ہمارا تبصرہ کرنا کیا کیا انداز اختیار کرتا ہے مثلاً ”آنکھیں پھیر لینا“ مطلب نکل جانے کے بعد بے مروتی اختیار کرنا۔ ”آنکھ بدلنا“ رویہ میں تبدیلی کرنا۔ ”آنکھ بھر کر دیکھنا“ بھی ایک عام رویہ کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھے کہ اس میں احترام کا پہلو باقی نہ رہے۔ ”آنکھیں چار ہونا“ ایک دوسرے کے دیکھنے کو کہتے ہیں مگر ”چار آنکھیں ہونا“ غیر ضروری خواہشات نامناسب تمنا اور توقعات کو دل سے لگانے اور اپنی سماجی زندگی میں داخل کرنے والی عورتوں کے لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کی چار آنکھیں ہو گئیں۔

”آنکھ سے آنکھ ملانا“ برابری کے رشتہ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنا ہے اور ”آنکھ نہ ملا سکتا“ فرق و امتیاز یا نفسیاتی طور پر شرمندہ ہونا کہ اس کے بعد سامنے جرات کی ہمت نہیں ہوتی بشرطیکہ وہ غیر شخص ہو۔

”آنکھیں چرانا“ بھی سماجی عمل ہے اور وہی کہ نفسیاتی طور پر آدمی کسی سے آنکھ ملا کر گفتگو نہ کر سکے اور بات کو ادھر ادھر ٹالنا چاہے

”آنکھ لڑنا“ یا ”آنکھیں لڑانا“ عجیب و غریب انداز سے ہماری نفسیات پر روشنی ڈالتا ہے، لڑنا یا لڑانا کوئی اچھی ذہنی کیفیت نہیں ہے۔ لیکن قوم کشتی سے لیکر ہاتھیوں کی لڑائی مرغیوں کی پالی اور تتر بٹیر کی باہمی جنگ دیکھ کر جو لوگ لطف لیتے ہوں ان کے ہاں ”آنکھیں لڑانا“ بھی محبت کا اشارہ ہو جائے گا۔

”آنکھ پھڑکنا“ سماج کی توہم پرستانہ فکر فرمائی کی ایک نشانی ہے کہ آنکھ پھڑک رہی

ہے تو کوئی آفت آنے والے ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں بہت رائج رہی ہیں۔ مثلاً نبی نے راستہ کاٹ دیا، تو اب سفر منحوس ہو گیا۔ سفر میں خطرات تو تھے ہی اسی لیے سفر پر جانے والے کے بازو پر امام ضامن باندھا جاتا تھا، آئینہ کے منہ پر پانی ڈالا جاتا تھا۔ اس سے اس دور کی توہم پرستی کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہوتا ہے۔

”آنکھ پھوڑ ٹنڈا ہونا“ دہلی کا خاص محاورہ ہے دوسری جگہوں پر استعمال نہیں ہوتا اور اچانک جو شخص تکلیف پہنچنے یا پہنچانے کا باعث بن جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہ آنا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھنا بھی ہمارے سماجی رویہ کا ایک پہلو ہے جو افسوس ناک حد تک سماجی ذہنیت کی برائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

”آنکھیں ٹھنڈی کرنا“ بھی بہت دلچسپ اور معنی خیز محاورہ ہے جب کسی بات کو دیکھ کر ہمارا جی خوش ہوتا ہے اور ہماری تسکین کا باعث بنتا ہے اسی کو ”آنکھیں ٹھنڈا ہونا“ کہتے ہیں۔ اس کے اریب قریب کا محاورہ ”کلیجہ ٹھنڈا ہونا“ ہے۔ میری آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش کہا جاتا ہے اور اس کے مقابلہ میں جو باتیں تکلیف کا باعث ہوتی ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہیں۔

”آنکھوں کی سوئیاں نکالنا“ بھی کسی محنت طلب اور دقت والے کام کا انجام پا جانا ہے۔ اسی طرح ”آنکھوں میں سلانی پھیرنا“ یا ”سلانی پھرنا“ اندھا کیے جانے کے عمل کو کہتے ہیں کہ مغلوں میں اس کا دستور تھا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جنھیں اپنا بیٹا بنا دینا مقصود ہوتا تھا ان کی آنکھوں میں سلانی پھر دیتے تھے مغلوں کے دور میں ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں میر کا یہ شعر اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

شہاں کہ کحلِ جواہر تھی خاکِ پا جن کی
انھی کی آنکھوں میں پھرتی سلانیاں دیکھیں

ہم میر کے زمانہ سے پہلے اور میر کے زمانہ میں اس طرح کے واقعات کو تاریخ کا حصہ بنتے دیکھتے ہیں اسی کی طرف یہ محاورہ اور میر کا شعر اشارہ کر رہا ہے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض محاورے تاریخی واقعات سے بھی رشتہ رکھتے ہیں مثلاً احسان لیجے جہاں کا مگر احسان نہ لیجے شاہ جہاں کا۔

یہ کہاوت ہے اور کسی وجہ سے شاہ جہاں کے زمانہ میں رائج ہوئی ہے اسی طرح نادر گردی، مرہٹہ گردی اور جاٹ گردی بھی محاورہ کے معنی میں آتی ہے بری صورت حال کو کہتے ہیں مگر ان کا تعلق تاریخ سے ہے، جب انتظام باقی نہ رہے مگر بہر حال اس صورت کا تعلق تاریخ کے حقائق سے تو ہے۔

ر د ل ف ب

◇ بات اٹھانا، بات اُلٹنا یا اُلٹ دینا، بات بنانا، بات اُونچی کرنا، بات نیچی ہونا، بات کا بنگلڑ بنانا، بات بات میں ذکر کرنا، اعتراض کرنا، بڑھ گئی بات بات کچھ بھی نہ تھی۔ بات کا سراپانا، بات کا سرا ملنا، جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ بات بدلنا، بات بڑھنا یا بڑھانا، بات بڑی کرنا، بات بگاڑنا یا بگاڑ دینا، منہ سے نکلی بات کو ٹھوں چڑھتی ہے، بات لگانا، بات میں سے بات نکالنا، بات نہ کرنا وغیرہ۔

گفتگو ہمارے معاشرتی رویوں کا بہت بڑا حصہ ہے ہمارے بہت سے معاملات و مسائل بات چیت کے غلط رخ یا رویہ کی بدولت بگڑ جاتے ہیں اور بات ہی سے سنورتے ہیں کہا سنی، گالی گلوچ، برا بھلا، لڑائی جھگڑا، تناہی آخر ہمارے معاشرتی رویے ہیں جن کی بنیاد اکثر بات چیت سے پڑتی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں گفتگو کے طریقہ سلیقہ میں غلط ہو جاتے ہیں بات آگے بڑھتی ہے غلط رخ پر آ جاتی ہے بلکہ بات کا بنگلڑ بن جاتا ہے۔

ہم غلط طور پر اپنی بات کا بیج بھی کرتے ہیں یعنی اپنی بات کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں غلط اور صحیح مناسب اور نامناسب کی حدود کو اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے بہر حال ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی میں جو پریشانیاں ذہنی الجھنیں شکر رنجیاں اور (دوستانہ تعلقات کا بگاڑ) اور عزیزانہ رشتوں میں گرہ پڑنا یہ سب گفتگو کے الفاظ سلیقہ اور طریقہ پر قابو نہ رہنا ہوتا ہے بعض لوگوں کو صحیح الفاظ آتے بھی نہیں بعض جلدی میں غلط سلسلہ بات کہہ جاتے ہیں اور اس سے زیادہ برا یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی پر اڑ جاتے ہیں اور دس باتیں اور بری ہو جاتی ہیں اور بات کو بڑھ کر جہاں نہیں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ جاتی ہے اور پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بات کو سنبھالنا ہر آدمی کے بس میں ہوتا بھی نہیں۔ درگزر کرنا ایک اچھا رویہ ہے لیکن مناسب حد تک ہی برداشت کرنا چاہیے نامناسب حد تک بات کو پہنچانا یوں بھی صحیح نہیں ہوتا۔ توازن برقرار رکھنا چاہیے۔

کبھی کبھی بات اتنی پھیلتی بگڑتی اور اُلجھتی ہے کہ بات کا سرا نہیں ملتا کہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ اصل مسئلہ کیا تھا، اور کیوں تھا اور کیسے تھا، بات کا سرا پکڑنے کی کوشش ہم اکثر کرتے بھی نہیں اس سے بھی بات اُلجھتی ہے اور اس کا سمٹانا یا معاملہ سے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔

بہ حیثیت مجموعی سماج کو سمجھنا ماحول کا جائزہ لینا اور صورتِ حال کا تجزیہ کرنا ایک بہت ضروری امر ہے جس سے خوبصورتی کے ساتھ عہدہ برا ہونا بڑی بات ہوتی ہے۔ معاملہ کے تقاضوں کا خیال کرنا، مسئلے کے ضروری پہلوؤں پر نظر رکھنا، بات کے بے تکیے پن سے بچنا، سچ یہ ہے کہ بہت سی سماجی برائیوں سے بچنا ہے اور بہت سی اُلجھنوں سے نجات پانے کی کوشش ہے۔

◇ بارہ باٹ کرنا یا ہونا

بارہ باٹ کرنا تتر بتر کرنے کو کہتے ہیں جس کے بعد جمع آوری مشکل ہو جاتی ہے اور آدمی کچھ کر نہیں پاتا سارا کنبہ بارہ باٹ ہو گیا ہے۔

◇ بارہ بانی کا ہو جانا

ہر طرح سے صحت مند ہو جانا یہ بھی دیہات میں اکثر بولا جاتا ہے، صحت مندی کے لیے بھی اور کھیت کی اچھی پیداوار کے لیے بھی، اب رفتہ رفتہ محاورات غائب ہو رہے ہیں۔ یہ محاورات بھی دیہات اور قصبات تک محدود ہو گئے ہیں مثلاً دیہاتی یہ کہتے ہیں کہ ذرا سی محنت کر لو وقت پر پانی دو اور کھاڈو الو تو تمہارے کھیت بارہ بانی کے ہو جائیں گے۔

اب یہ ظاہر ہے کہ شہر کا معاشرہ جب ”کھیت کیار“ کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا تو اس سے نسبت رکھنے والے محاورے بھی اس کی زبان میں داخل نہیں ہیں بالکل اسی طرح جیسے بہت سے شہری محاورے جو پڑھے لکھے اور ملازمت پیشہ طبقہ میں رائج ہیں وہ ان لوگوں کی زبان میں شامل نہیں جو کھیتی باڑی اور محنت مزدوری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جیسے (دھیلی) پاؤلا کمانا یا پکڑنا محنت مزدوری کر نیوالوں کا محاورہ ہے۔ جو لوگ باقاعدہ تنخواہ لیتے ہیں ان کا محاورہ یہ نہیں ہو سکتا۔ روپیہ کے مقابلہ میں (دھیلی) اور دھیلی میں پاؤلا آٹھ آنے چار آنے کو کہتے ہیں۔ یہ محاورہ اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب ایک آدمی کی مزدوری آٹھ آنے روز ہوتی تھی اور وہ بھی کاریگر کی عام مزدور کو چار آنے ملتے تھے۔ اس طرح سے محاورات میں نہ صرف یہ ہے کہ طبقاتی ذہن کی پرچھائیاں ملتی ہیں بلکہ ایک وقت میں ایک خاص طبقہ کی جو آمدنی ہوتی تھی اس کی محنت

کا جو معاوضہ ملتا تھا محاورے میں اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا تھا۔

آج بھی ہمارے یہاں روٹی، روزی، روزگار سے لگا ہوا کہنے والے موجود ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس زبان اس فن یا اس کام کا تعلق روٹی روزی سے جوڑ دیا جائے اس سے ان کی مراد روپیہ پیسہ یا آمدنی کے حصول کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے لیکن یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق اس وقت کی مزدوری سے ہے جب محنت کا معاوضہ پیسوں میں نہیں روٹیوں میں ادا کیا جاتا تھا اور روز کی روٹی کہا جاتا تھا۔ روزی دراصل روزینے کو کہتے تھے یعنی روزانہ جو کچھ ملازم یا مزدور کو ادا کیا جاتا تھا وہ اس کی روزی ہوتی تھی۔ چار آنے روز دو آنے روز، ایسا بھی ہوتا تھا کہ آٹا پیسے والی کو پیسوں کے بجائے مزدوری میں آٹا ہی دیا جاتا تھا اور بازار سے جب چیز منگائی جاتی تھی تو روٹی، بنولے، جو، باجرا، چنے اور گیہوں کچھ بھی دوکان پر بھیج دیا جاتا تھا اور اس کے بدلہ میں روزمرہ کے استعمال کی چیز آ جاتی تھی۔

فقیر مٹھی دو مٹھی آٹا مانگتا تھا جو ایک محاورہ ہے اور ایسا ہوتا تھا کہ صبح کے وقت جو عورتیں عام طور پر گھروں میں چکی پیستی تھیں اپنے گھر کے آٹے میں سے ایک مٹھی آٹا اُسے دے دیتی تھیں۔ مٹھی بھر آٹا، مٹھی بھر اناج، یا مٹھی بھر چنے، یہاں تک کہ مٹھی بھر دانے خیرات یا مزدوری کے طور پر دیے جاتے تھے۔

ہمارا معاشرہ بدل گیا لیکن اس دور یا کسی بھی دور یا کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھنے والے محاورے ہم عہد یا معاصر سچائیوں کی نمائندگی اب بھی کرتے ہیں۔

◇ بازار کے بھا پٹنا

یہ دیہات و قصبات میں بولا جانے والا محاورہ ہے۔ مغربی یوپی میں یہ پٹینا بولا جاتا ہے اور لغت المحاورات میں ”پ“ کے زبر کے ساتھ پٹینا بھی ہے۔ لیکن بھا کے ساتھ ”پٹنا“ عام طور پر نہیں آتا۔ بازار سے متعلق اردو میں بہت محاورہ ہیں ”بازار لگنا“، ”بازار میں کھڑے کھڑے بیچ دینا“، ”بازاری میں کھڑے ہونا، گرم بازاری ہونا یا بازار سرد ہونا۔ اتوار کا بازار، پیر کا بازار، منگل کا بازار، ہفتہ کا بازار عام طور سے اس خاص بازار کو کہتے ہیں جو کسی خاص دن لگتا ہے اسی سے روزے بازار کا محاورہ نکلا ہے۔ بازار کارنگ بھی ہمارے محاورات میں سے ہے اور بازار کی چیز بھی غالب کا شعر یاد آ رہا ہے۔

اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے تو مرا جامِ سفال اچھا ہے

◇ بازی ہزاری یا بازار کی مانگ، بازی عورت، بازار کی زبان، بازی رویہ، بازار مندا ہونا

یہ سب بھی ہمارے محاورات کا حصہ ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بازار اس میں بکنے والی چیزیں، بیچنے اور خریدنے والے لوگوں کا رویہ زبان اور انداز بیان ہمارے معاشرے کو کس طرح متاثر کرتا رہا ہے۔ بازیوں بھی ہمارے معاشرتی اداروں میں سے ہے اور ایک بڑا ادارہ ہے۔

◇ بازی دینا یا کرنا، بازی کھانا، بازی لگانا یا بدنا، بازی لے جانا

یہ سب ایسے کھیلوں سے متعلق محاورے ہیں جو مقابلہ کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بد کر کھیلے جاتے ہیں جو اسکی نمایاں مثال ہے۔ جو قمار بازی یا جو کھیلنے ہی کی ایک صورت ہے یہ اور اس طرح تتر بازی ہمارے معاشرے کی وہ کھیلنے کی روشیں ہیں جن کا ذکر ہماری زبان پر آتا ہے۔ آج کرکٹ میں گیند بازی اور بلے بازی، بیت بازی، بازی کے لفظ کے ساتھ کچھ دوسری معاشرتی روشوں کا اظہار ہے بیت بازی ایک اور طرح کا مقابلہ ہے۔

◇ بازی ہار جانا

مقابلہ میں شکست کھا جانا، یعنی وہ بازی ہار گیا اور اس کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ بازی لگانے کے معنی شرط لگانے کے بھی ہیں۔ جان کی بازی لگانا بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ جس کوشش میں کامیابی نہ ملے اس میں بھی بازی ہارنے کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔

◇ بال بال بچ گیا، بال بال دشمن ہو گیا ہے۔ بال بال گنج موتی پرونا، بال بال احسان مند ہے

بال بال کئی محاوروں کا بے حد اہم جز ہے جیسے ”بال بال بند جانا“ یعنی قرض میں مبتلا ہونا اور بری طرح قرض میں گھر جانا جب کہ ”بال بال بچنے“ کے معنی خطرہ سے نکل آنے کے ہیں۔ میرے اور نقصان کے درمیان بال برابر فرق رہ گیا اسی کو ”بال بال بچنا“ کہتے ہیں۔ ”بال بال گنج موتی پرونا“ گویا موتیوں سے بالوں کو آراستہ کرنا ہے یا سجانے کے عمل کو آگے بڑھانا اور اس میں طرح طرح کے تکلفات برتنا ہے۔

”بارہ ایران سولہ سنگھار“ میں یہ بھی داخل ہے کہ بال بال موتی پروئے جائیں۔ ”بال بال احسان مند ہونا“ بھی بے حد احسان مند ہونے کو کہتے ہیں کچھ لوگ شریف ہوتے ہیں وہ کسی کے احسان کو بہت مانتے ہیں۔

◇ (بامن) برہمن کی بیٹی کلمہ پڑھے یا بھرے

یعنی کسی اچھی چیز کو دیکھ کر بڑے سے بڑے آدمی کا تقویٰ ٹوٹ جاتا ہے برہمن کی لڑکی کلمہ پڑھنا یہی معنی رکھتا ہے۔

◇ بانٹیا یا بانٹے

بانٹیا کی جمع بانٹے ہے۔ اصل میں بانٹے کے معنی ہیں حصہ تقسیم کرنا، حق دینا اسی لیے جس کا کوئی حق نہیں ہوتا حصہ نہیں ہوتا، اسے کہا جاتا ہے کہ تیرا کیا بانٹیا اور اپنے حصے حق پر لگنے کا راجحان ہمارے معاشرے میں بہت ہے۔ اور جس کا وہ حق وہ حصہ نہیں سمجھتے اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا بانٹیا یعنی تم بولنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ بندر بانٹ محاورہ میں بھی شامل ہے کہ وہاں حق حصے کی تقسیم بددیانتی کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک رویہ ہے۔

◇ باتسوں اچھلنا

بہت اونچائی تک چھلانگ لگانا یوں بھی بازی گر جب اوپر چھلانگ لگاتے تھے تو لچک دار بانس کے سہارے اُچھلتے تھے مطلب یہاں بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے سے بھی ہیں جو سماج کا ایک عام رویہ ہے۔

◇ باؤ باندھنا، باؤ بندی، باؤ بھری کھال، باؤ بھڑکنا، باؤ پر آ جانا، (اور دفاع میں ہوا بھر جانا، باؤ ٹا ا رانا، باؤ ڈنڈی پھرنا، باد ہوائی پھرنا، باؤ کے گھوڑے پر سوار ہونا، باؤ لی دینا

باد فارسی میں ہوا کو کہتے ہیں اسی کو ہندوی میں باؤ کہا جاتا ہے اور کہیں کہیں دونوں کو ایک ساتھ جمع بھی کر دیا جاتا ہے جیسے باد ہوائی پھرنا، ہوا کی طرح آوارہ گردی کرنا۔ لوگوں کے پاس جب کام نہیں ہوتا تو وہ یونہی مٹر گشت کرتے پھرتے ہیں۔ اس سے سماج میں بے کار لوگوں کے وقت ضائع کرنے کے مشغلوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے اُردو کا ایک شعر جو اسی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے یہاں پیش کیا ہے۔

تیرے کوچہ میں یونہی ہے ہمیں دن سے رات کرنا

کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا

باؤ بندی ہوا کو بند کرنے کا عمل ہے اور ہوا بند ہونے والی چیز نہیں ہے۔ بلبلے کے خول میں ہوا بند ہوتی ہے مگر کتنی دیر کے لیے یعنی یہ ایک بے اعتباری بات ہے۔ سماج میں اس طرح

کی باؤ بندی ہوتی رہتی ہے اسی کی طرف اس مصرعہ میں اشارہ ہے۔
پاؤ بندی حباب کی سی ہے

یا یہ مصرعہ

مٹھی میں ہوا کو تھامنا کیا

وہ آدمی جو بلاوجہ موٹا ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باؤ بھری کھال ہے۔ یہ ایک طرح کی بیماری ہے۔ لیکن اس کا اطلاق انسانی رویوں پر بھی ہوتا ہے اور یہ سماج کا مطالعہ بن جاتا ہے اسی کے ذیل میں یہ محاورے بھی آتے ہیں باؤ بھڑکنا، باؤ ٹڈی پھرنا وغیرہ۔

◇ باہر کا ہونا، باہر کر کے، باہر کرنا، باہر کی بو، باہر کی پھرنے والی، باہر والا، باہر والی

شہری لوگوں میں یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے نہ ان کی زبان کو پسند کرتے ہیں، نہ ان کے طور طریقوں کو، ان کے نزدیک وہ سب باہر کی باتیں ہیں اسی لیے وہ کسی کی بات کو باہر نہیں جانے دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محاورہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ گھر سے نکلی کوٹھوں چڑھی یعنی کوئی بات اس گھر سے باہر نکلتی نہیں چاہیے۔

باہر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نکال کر باہر پھینک دینا اور فالتو سمجھنا، نفرت کا اظہار کرنا۔ باہر کی بو یعنی باہر سے آنے والی روش کو اختیار کرنا یا اس کی خواہش کرنا یہ اور اس طرح کے محاورات شہری نفسیات کو سمجھنے میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ دہلی والے اپنی تہذیب اپنے رسم و رواج اور اپنے محاورے پر بہت ناز کرتے تھے اسی لیے وہ باہر کے لوگوں کی کسی بات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ان کے یہاں مردم بیرون جات کا لفظ استعمال ہوتا تھا جس کے معنی ہوتے ہیں کہ لوگ اسی لیے ان کی زبانوں پر اس طرح کے فقرہ آتے تھے کہ تم تو دلی کے ہو باہر کے نہیں ہو۔

باہر پھرنے والی عورت ان کے خیال سے عزت کے لائق نہیں ہوتی تھی ایک خاص طبقہ پردہ پر بہت زور دیتا تھا وہ دلی سے باہر بھی تھا۔ مگر ایک خاص طبقہ تھا سب نہیں، جو باہر کی پھرنے والی عورت کو بھی برا سمجھتا تھا اور اس پر طنز کرتا تھا۔ اگر دو قدم بھی چلنا ہوتا تھا تو ڈولی استعمال ہوتی تھی۔ اور تانگے میں سفر کیا جاتا تھا تو پردے باندھے جاتے تھے اور عورتیں اپنے گھر کے دروازے سے نکل کر تانگے یا ڈولی تک پردہ کروا کے جاتی تھیں اسی لیے باہر پھرنے والی بہت بری نظر سے دیکھی جاتی تھی۔

♦ بتیسی بچنا، بتیسی بند ہو جانا، بتیسی دکھانا

دانت منہ میں رہتے ہوئے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ہنسنا ہو یا بولنا ہر ایک میں ایک تمیز داری اور آداب شناسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت کھل کر ہنسنا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی لیے ٹھٹھے مارنا یا لگانا اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا یہاں تک کہ دانت دکھانے کو بھی عورت کے لیے پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کے معاشرتی آداب تھے۔ کھاتے وقت دانتوں کا بچنا بھی بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ دانتوں کا سوتے میں رگڑنا بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ دانت دکھانے کا محاورہ بھی برائی کے معنی میں آتا ہے کہ ذرا سی دیر میں دانت دکھا دیئے۔

بتیسی بند ہو جانا دورا پڑنا، اس میں ایک افسوس ناک صورت کی طرف اشارہ ہے کوئی طنز نہیں لیکن بتیسی دکھانے میں ہے کہ اس کا منہ کھلا رہتا ہے اور منہ کھلا رہنا تمیز داری کے خلاف ہے۔

♦ بجلی پڑے، ٹوٹے یا گرے

یہ عورتیں کے کوسنے ہیں اور عورتوں کی زبان میں گالیاں اتنی شامل نہیں ہوتیں جتنے کوسنے شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا مزاج اور عورتوں کا اندازِ نظر ہے آسمان پر بجلی چمکتی ہے لیکن پہلے اس طرح کے قصے بہت ہوتے تھے کہ اس پر بجلی گر گئی جس کے معنی یہ ہیں کہ اچانک وہ ایک المناک انجام سے دوچار ہوا۔ عورتیں اپنے کوسنوں میں اس طرح کے جملوں کو شامل رکھتی تھیں جس میں نقصان پہنچنے موت آنے بیمار پڑنے اور گھر کے برباد ہونے کا مفہوم شامل رہے۔

♦ بجوگ پڑنا

ہندوی محاورہ ہے اور یوگ سے بنا ہے۔ جس کے معنی ہوتے ہیں جدا ہو جانا یا فراق آشنا ہونا۔ ہندوؤں میں عورت کا مرد سے جدا ہونا یوگ کہلاتا ہے۔ وہی بجوگ ہے یعنی تیرا شوہر تجھے چھوڑ کر چلا جائے، مرجائے یا کسی بھی وجہ سے دونوں کے درمیان جدائی واقع ہو جائے، جو بہت بڑا کوسنا ہوتا ہے۔ خاندانوں میں جب آپسی اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ تب بھی ”بجوگ پڑنا“ کہتے ہیں یہ بھی گویا خاندان کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔

♦ بچن بد ہونا، بچن دینا

وچن سنسکرت کا لفظ ہے جو ہندوی میں بچن ہو گیا ہے اور اسی سے یہ محاورے بنے ہیں۔ اپنی بات کا پابند ہونا اور اسے الٹ پلٹ نہ کرنا ایک طرح کا اخلاقی رویہ ہے۔ بچن بد کہہ کر اسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ”وچن دینا“ وعدہ کرنا کہ ہم اس کے پابند ہیں اور ایسا کریں

گے یہ اخلاقی رویہ ہے جو سماج کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس برائی کو بھی کہ عام لوگ اپنی بات اور اپنے وعدہ کو نبھانے کے بجائے ذرا سی دیر میں بات بدل دیتے ہیں اور مسئلے کا رخ پھیر دیتے ہیں۔

◇ بدلگام ہونا

بدتمیز ہونا، سرکش ہونا، زبان کا قابو میں نہ رکھنا، یہ گھوڑے کی مناسبت سے ہے لیکن اس سے مراد انسان کی طبیعت اور کردار ہے کہ وہ کس حد تک اپنی زبان اپنی طبیعت اور اپنے عمل اور رد عمل پر قابو رکھتا ہے۔

بد مزاج اور بد مزاجی بھی اسی ذیل میں آتا ہے بد ذوقی، بد شوقی کی کمی صحیح مذاق کا فقدان، بد کلامی وغیرہ اسی سلسلے کے محاورے ہیں ان میں طریقہ کار، طرز عمل، طرز گفتگو کے اعتبار سے ان محاورات کا موقع بہ موقع استعمال اور اطلاق ہوتا ہے۔

◇ بُرا وقت، بُرے دن، بُری گھڑی

ہم سماجی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی بُرا نہیں کرتا۔ بُرائی کا سبب تو بُری گھڑی ہوتا ہے جس پر آدمی کو کوئی قابو نہیں بری ساعت بھی اسی کو کہتے ہیں اور وہی برے دن ہوتے ہیں۔ جب ایک لمبا دور کسی تکلیف مصیبت یا پریشانی کے عالم میں گزر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ برا وقت نہ لائے، برے دنوں سے بچائے یا کسی بچے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بُری گھڑی کی پیدائش ہے۔ بات وہی ہے کہ برائیوں کی ذمہ دار برے دن ہیں برا وقت ہے بری ساعت ہے۔ اس سے معاشرتی طور پر ہماری سماجی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم حالات کو کس طرح سمجھتے اور کس طرح انہیں Interpretate کرتے ہیں کسی بات کا مطلب نکالتے ہیں۔

◇ بڑی چیز، بڑی روٹی، بڑا کھانا، بڑے گھر کی بیٹی، بڑا نام، بڑا بولا

ان محاورات پر غور کیا جائے تو بڑی چیز بڑا کھانا، بڑی بات سبھی سماجی امتیازات کو ظاہر کرتے ہیں۔ بڑا کھانا اور بڑی روٹی غریب گھرانوں کے مقابلہ میں بڑے خاندانوں ہی سے مل سکتی ہے۔ بڑا مال بھی ہے یعنی دولت اور بہت اچھا کھانا۔

”بڑے گھر کی بیٹی“ اس صورت حال کا اظہار ہے۔ جب وہ کسی چھوٹے درجہ کے خاندان میں بیاہی جائے۔ تبھی تو اسے بڑے گھر کی بیٹی کا طعنہ دیا جائے گا، طنز کیا جائے گا اونچ نیچ کا تصور اس سے جڑا ہوا ہے۔ بڑ بولا اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے۔

◇ بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کا گنبد ہونا، بسم اللہ کی برکت

”بسم اللہ کا گنبد ہونا“ جاہل آدمی کے لیے کہا جاتا ہے جو مذہب کا دعوے دار ہو جس کا ذہن بالکل مکتبی ہو۔ اسے ہم ملائے مکتبی کہتے ہیں اور یہ بھی طنز کرتے ہیں کہ یہ تو بسم اللہ کے گنبد میں رہتے ہیں۔ ویسے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ایک طرح کا مذہبی اور تہذیبی رویہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کیجئے یعنی شروع کیجئے اللہ کے نام کے ساتھ۔

بسم اللہ کی برکت کے معنی بھی یہی ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کرو گے تو برکت ہوگی ظاہر ہے کہ یہ محاورہ مسلمانوں کا اپنا ہے اور ان کی مذہبی فکر سے گہرے طور پر متاثر ہے۔ اور ہمارے سماجی عمل اکثر مذہب، دھرم، خاندانی بزرگوں کے اثر اور صوفیوں کے اثرات سے بھرے نظر آتے ہیں۔ ”بسم اللہ ہی غلط ہوگئی“ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کام کی شروعات غلط ہوگئی۔

◇ بغضِ الہی

بیرِ بغض رکھنا ہمارا ایک محاورہ ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم دوسروں کی طرف سے خواہ مخواہ بھی دشمنی کے جذبات اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ان کی خوشی سے ناخوش ہوتے ہیں۔ یہ خدا واسطے کا بیر کہلاتا ہے۔ اور اسی کو بغضِ الہی بھی کہتے ہیں۔ اس سے معاشرے کی اپنی کچھ برائیاں سامنے آتی ہیں کہ اختلاف بھی ان کے یہاں بسا اوقات بلاوجہ اور بے سبب ہوتا ہے۔

◇ بغل کا دشمن، بغلی گھونسا ہونا

بغل کے ساتھ بہت سے محاورے ہیں مثلاً بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا (منادی) یا بغل میں کتاب اور منہ پر جہالت اس سے مراد یہ ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی بجا بے خبری ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر دوسرے ہمیں دھوکے دیتے ہیں۔ اور دوست بن کر دشمنی اختیار کرتے ہیں وہی لوگ بغلی گھونسا ثابت ہوتے ہیں یا بغل کے دشمن سمجھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ بغل میں گھس کر نقصان پہنچاتے ہیں یہ بھی مکاری و غابازی اور دھوکہ دہی کی ایک صورت ہے۔

◇ بغل گرم کرنا

ایک دوسرے سے ہم آغوش ہونا اور ایک ساتھ ہم خواب ہونا۔ ”بغل گیر ہونا“ ایک دوسرے سے معانقہ کرنا گلے ملنا، یہ بھی ہمارے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مبارکباد کے وقت بھی ہم گلے ملتے ہیں۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ گلے ملنا شکوہ شکایت اور گلہ مند یوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔

◇ بکھیڑا، بکھیڑے میں پڑنا، بکھیڑنا

یہ خالص ہندوستانی محاورہ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اُلجھنوں میں گرفتار ہونا۔ جھگڑے میں پڑنا۔ اختلافات کا بڑھنا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس بکھیڑے میں پڑنا نہیں چاہتے۔

◇ بل بل جانا، بلہاری جانا

ہمارے معاشرتی رویوں کا ایک خاص انداز ہے یعنی صدقہ ہونا قربان ہو جانا، جان دینا، جان بچھا کرنا اسی کو بل بل جانا، بلہاری جانا کہتے ہیں۔

◇ بندوق بھرنا، بندوق لگائے کاندھے ہونا

بندوق بارودی ہتھیار ہے اور حیرت ہے کہ ہم نے بارود سے متعلق بہت کم سوچا اور اسی نسبت سے ہمارے یہاں بارودی ہتھیاروں پر محاورے بہت کم ہیں۔ ایک زمانہ میں بندوق میں بارود بھری جاتی تھی ایسی بندوقوں کو توڑے دار بندوق کہتے تھے۔ اسی سے ”بندوق بھرنا“ محاورہ بنا یعنی لڑنے کی تیاری کرنا، مقابلہ پر آمادہ ہونا۔

اتنی بڑی بڑی بندوقیں ہوتی تھیں کہ آدمی اکیلے ان کو نہیں سنبھال سکتا تھا ان کی نالی دوسرے کے کندھے پر رکھ دی جاتی تھی یہیں سے ”کاندھے بندوق ہونا“ محاورے کے طور پر آنے لگا مراد یہ ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے دوسروں کے مشورہ پر کرتے ہیں۔ ”بندوق کو چھپانا“ بندوق چلانے کا عمل ہے کہ بندوق کا پچھلا حصہ اگر کاندھے سے ایک خاص انداز سے نہ لگایا جائے اور چھاتی کا سہارا نہ دیا جائے تو بندوق ایک دم سے دھکا لگاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہی بندوق کو چھپانے کا عمل کہا جاتا ہے۔ محاورہ کے طور پر یہ زیادہ کام نہیں آتا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیار ہونے کا عمل ہے کہ فوراً ہی گولی چلا دی جائے۔ ”گولی مار دینا“ سامنے کی بات ہے لیکن ہم بیزاری کے طور پر بھی یہ کہتے ہیں کہ اسے گولی مارو اور اس کا ذکر بھی نہ کرو۔

◇ بوٹی بوٹی پھڑکتی ہے، بوٹی بوٹی کر ڈالنا، بوٹیاں چبانا، بوٹیاں چیلوں کو ڈالنا، بوٹی بوٹی تھرکنا

یہ شدید رد عمل اور غصہ کے اظہار کے طور پر کہتے ہیں کہ تیری بوٹیاں چبالوں گا اس لیے کہ کچا گوشت کھانا وحشت و بربریت کی علامت ہے۔ بوٹیاں یا بوٹی بوٹی کر کے چیل کوٹوں کو کھلا دینا ایک بہت ہی المناک انجام ہے۔ مرنے والے کے ساتھ شدید غصہ اور انتقام کا سلوک

کرنا ہے، قدیم زمانہ میں غلاموں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا اور ان کی بوٹیاں چیل کوؤں کو کھلائی جاتی تھیں۔

ہم اس سے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بہت سے محاوروں کے پس منظر میں تاریخی واقعات اور روایات موجود ہیں۔ بوٹی بوٹی تھرکنا یا پھڑکنا دوسری بات ہے اس سے مراد ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے بلکہ اکثر نوجوانوں کے لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں جن میں سے چستی چالاکی اور شوخ مزاجی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تو بوٹی بوٹی تھرکتی ہے۔

◇ بول اٹھنا، بول بالا ہے، بول بالا ہونا، بول جانا، بولنے پر آنا، بولیاں بولنا، بولیاں سننا، بول سنا

یہاں بنیادی طور پر لفظ بول کی اہمیت ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے کتنے معنی اور کتنے "Shades" ہیں اور بات میں سے بات اور نکتے میں سے نکتہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ "بول" بات چیت کے لیے بھی کہتے ہیں۔ بیٹھے بول اچھی بات چیت کے لیے بھی کہتے ہیں جو محبت اور پیار سے کی جائے اسی طرح سے طنز و تعریض سے جو بات کی جاتی ہے اور لہجہ میں سختی اور کڑھکی آتی ہے اسے تلخ گفتگو گویا "کڑوے بول" کہتے ہیں۔ جب کسی کی بات رکھ لی جاتی ہے، مان لی جاتی ہے، سراہی جاتی ہے، تو اسے "بول بالا" ہونا کہتے ہیں اور جب رد کی جاتی ہے تو اس کو "نیچا ہونا" کہتے ہیں۔

طرح طرح کی باتیں کرنے کو "بھانت بھانت کی بولیاں" کہا جاتا ہے۔ "بول اٹھا" اچانک کسی بات پر بول پڑنے کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی چھت ٹوٹنے لگتی ہے تو اس کے لیے بطور استعارہ چھت بول جانا یعنی کڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز پیدا ہونا۔ "بڑبولا" اس سے پہلے آچکا ہے اور اپنے لیے "زمین آسمان کے قلابے ملانا" یہ سب باتیں ہمارے سماجی رویوں اور معاشرتی روشوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔

◇ بھاگ پھوٹنا، بھاگتے کی لنگوٹی، بھاگتے بھوت کی لنگوٹی، بھاگ جاگنا یا کھلنا، بھاگ لگنا، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹنا

ہمارا معاشرہ ایک تقدیر پرست معاشرہ ہے کہ ہم تدبیر پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اپنی کوشش یا اجتماعی کوشش کے نتیجے پر ہمارا یقین نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے یا ہونا ہے وہ قسمت کی وجہ سے ہوا ہے تقدیر میں یونہی تھا اس لیے ہوا ہے۔ اس کو کسی تدبیر کسی منصوبہ بندی

کوشش اور کاوش سے وابستہ کر کے نہیں دیکھتے۔ یہ ہماری بنیادی سوچ ہے کہ ہم (Efforts) کوششوں پر بھروسہ نہیں کرتے "Chances" کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اسی وجہ سے بھاگ قسمت اور تقدیر کا لفظ بہت لاتے ہیں، بھاگ پھوٹنا یعنی بد قسمتی کا پیش آنا، "بھاگ کھلنا" اچھی قسمت ہو جانا۔ "بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹنا" اچانک ایسی صورت کا پیدا ہو جانا جو فائدہ پہنچانے والی ہو۔

اس سے ہم اس فریم ورک کا حال معلوم کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہماری سماجی نفسیات ہمارے معاشرتی رویوں میں شریک ہو جاتے ہیں اسی لیے ہم لڑکی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے ہاتھ پیلے کر دیے ہیں۔ اب جو تقدیر جو نصیب یعنی ہم آگے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔

ہم اپنی زندگی میں اچھے برے مواقع سے بھی گذرتے ہیں جہاں قدرت بظاہر ہمیں Disfavour یا Favour کرتی ہے لیکن پورے معاشرے نے غلطی یہ کی کہ ہر بات کو تقدیر کے حوالہ کر دیا اور حالات ماحول نے انسانی روش اور رویوں پر نظر نہیں رکھی۔ ہمارے یہاں آدمی بددیانت بہت ہے یہاں تک کہ قرض لیا ہوا واپس نہیں دینا چاہتا جو ایک طرح کا سماجی عیب ہے۔ دوسرے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جن کا قرض ہوتا ہے جو کچھ ملے وہی لے لو، یہ آدمی کچھ دے گا تو نہیں، اسی کو بھاگتے کے لنگوٹی یا بھاگتے بھوت کی لنگوٹی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کسی لائق نہیں ہے اور اس کے پاس گرتا پا جامہ بھی ہیں صرف لنگوٹی ہی لنگوٹی ہے۔ وہی تو چھینی جاسکتی ہے۔

◇ بھرا بھتولا، بھرا پرا، بھری بھتولی

مغربی یوپی میں اسے بھرتوں کہتے ہیں۔ دوسرے محاورے جو اس سلسلے کے ہیں وہ وہاں رانچ ہیں دہلی ہی میں رانچ ہیں۔ بھرا پرا گھر کے لیے بھی آتا ہے جس میں چیزیں بھی ہوں اور پیسے بھی اس لیے کہ ہمارے یہاں اتنی غربت رہی ہے کہ بعض اوقات گھرے پر پیالہ بھی نہیں ہوتا تھا تو عورتیں کہتی تھیں کہ ہم نے روٹی پر روٹی رکھ کے کھائی یعنی ہم اتنے غریب نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں دو روٹیاں بھی نصیب نہ ہوں۔ اب ایسے خالی گھروں کے مقابلہ میں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بھرا پرا گھر مال و دولت کے اعتبار سے بڑا گھر کہلاتا تھا اور جب کبھی لڑکی کو یا کسی عزیز کو بہت کچھ دیکر رخصت کیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ ابھی بھرتوں کے بھیجا تھا۔

◇ بھرم کھل جانا، بھرم باقی رہنا

ہمارے ہاں بہت باتیں اصل حقیقت نہیں ہوتیں بلکہ ان کو ظاہر اس طرح کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہوں لیکن اس میں واقعتاً کوئی بنیاد نہیں ہوتی تو جلدی ہی وہ بات کھل جاتی ہے اور بھرم باقی نہیں رہتا۔ اس کو دہلی میں ایک اور محاورے سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ ”پول پٹی کھل گئی“ اور آدمی اپنے بھرم کو باقی رکھ سکے کہ سماج کے لیے وہ بڑی بات ہوتی ہے۔

◇ بھرے کو بھرتا ہے

یہ محاورہ بھی ہمارے سماج کی سوچ ہے اور ہوت نہ ہوت کے نتیجے میں پیدا ہوئی کہ ضرورت مند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مستحق ہوں مجھے ملنا چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور ملتا اُسے ہے کہ جسے ضرورت نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ بھرے کو بھرا جاتا ہے۔ ہم اکثر رشتہ داروں کے لبوں پر شکایت دیکھتے ہیں کہ وہاں تو بھرے کو بھرا جاتا ہے۔ یہ سماجی شکایت ہے یہاں تک کہ یہ شکایت خدا سے بھی ہوتی ہے۔

ہمارے یہاں نکما پن بھی زیادہ تھا اور نہ انصافی بھی، اسی کی وجہ سے کچھ لوگوں کے پاس ہوتا تھا اور کچھ لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہوتا تھا۔ بعض حالتوں میں وہ اس نہ ہوت کے خود بھی ذمہ دار ہوتے تھے۔ لیکن سمجھتے یہ تھے کہ یہ سب تو ہماری تقدیر کی برائی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں اور اپنے رشتہ داروں پر اپنا حق تصور کرتے تھے پھر شکوہ شکایت کرتے تھے۔

◇ بہشت کا جانور، بہشت کا میوہ، بہشت کی قمری، بہشت کی ہوا

بہشت مسلمانوں میں اور اس سے پیشتر عیسائیوں اور یہودیوں میں موت کے بعد کی زندگی کا ایک آئیڈیل ہے کہ وہاں راحتیں ہیں، اس میں محل ہیں، بہتی ہوئی نہریں، پھل دار درخت ہیں اور چہکتے ہوئے پرندے ہیں۔ ہمارے ہاں سکون و راحت آرام کا یہی تصور بھی ہے جو صحرائی قوموں کا ہوتا ہے۔ اس سے بہت سے محاورے ہمارے ہاں جیسے بہشت کی قمری، حور جنت کوثر و تسنیم، شجر طوبہ، شجر ممنوعہ، آدم و حوا کا بہشت میں قیام یہ سب اسی تصور کا نتیجہ ہے جس کا اثر مسلمان تہذیب پر بہت گہرا ہے۔ اس کا اثر عیسائی تہذیب پر بھی ہے مگر اتنا نہیں۔ فردوسِ گم گشتہ کی بات وہاں پر زبانوں پر آتی ہے انگریزی کے مشہور شاعر ملٹن کی نظم پیراڈائس لوسٹ اور (Paradisevaigaincd) پیراڈائس ویکینڈ نظمیں اسی کی طرف اشارہ کرنے والی شعری تخلیقات ہیں۔

◆ بیٹی کا باپ

ہمارے یہاں بیٹی ہونے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں ان میں ایک بڑی وجہ بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال والوں کا رویہ ہے جو ایک بیٹی والے باپ کے لیے بے حد تکلیف کی بات ہوتی ہے۔

ہمارا سماج کمزور کو دباتا ہے چاہے اس کی کمزوری اخلاقی ہو یا رشتوں کی نزاکت کے باعث ہو یا مالی اعتبار سے ہو یا بے سہارا ہونے کے لحاظ سے، یہاں تک کہ اگر اس کے گھر میں بیٹی ہے تو یہ بھی کمزوری ہے۔ اور اس کو بھی موقع بہ موقع داماد اس کے گھر والے برابر "Exploit" کرتے رہیں گے نا جائز دباؤ ڈالتے رہیں گے۔

◆ بے چراغ کرنا، بے چراغ ہونا

چراغ خوشی کی علامت ہے اس لیے کہ وہ اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ اور روشنیوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے بیٹے کو اندھیرے گھر کا چراغ کہتے ہیں۔ دعا دی جاتی ہے، چراغ روشن مراد حاصل اور بے چراغ ہو جانا اس کے مقابلہ میں محروم ہو جانا، بے حد نقصان کی حالت میں ہونا، ویران ہو جانا، گھر کے گھر بے چراغ ہیں، شہر کا شہر بے چراغ ہے۔ اُردو کا ایک شعر ہے۔

روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک
اُجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک

◆ بیس بسولے

ہمارے معاشرے میں غیر شہری یا دیہاتی طبقہ بیس تک ہی گنتی جانتا تھا اور وہ بیسی یعنی چالیس، تین بیسی یعنی ساٹھ اسی نسبت سے وہ کھیت کو بھی بیسوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اسی لیے بیس بسولے کہتا تھا اور اس سے مراد اس کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ یہ معاشرے کے ایک خاص دور کا پیمانہ ہے اور اس معاشرے کے اپنے ماحول سے تعلق رکھتا ہے۔ جو کھیت کیار سے جڑا ہوتا تھا۔

◆ بیل منڈھے ہونا یا چڑھنا، بیل پڑنا، بیل بدھنا

بیل منڈھے چڑھنا، بیل کے سہارا لینے کے عمل کو کہتے ہیں اس لیے کہ بیل تیزی سے بڑھتی ہے مگر سہارا چاہتی ہے، اگر سہارا نہیں ملتا تو وہ گر پڑتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے کسی منصوبے یا تدبیر کے کامیاب ہونے کو بڑی بات اور تقدیر کی خوبی خیال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے

جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بس تقدیر کی خوبی ہے کہ بیل منڈھے چڑھ گئی۔ ہمارے ہاں مدد کرنیوالے تو ہوتے نہیں غلط سلط مشورہ دینے والے ملتے ہیں۔ رکاوٹوں سے بچ نکلنا یا ان پر قابو پانا بڑی بات ہوتی ہے۔ تبھی گھریلو ماحول میں اسے ”بیل منڈھنا“ کہتے ہیں۔ جو چیزیں تیزی سے آگے بڑھتی ہیں انھیں ”بیل بدھنا“ کہتے ہیں یعنی وہ بیل کی طرح پردان چڑھتی ہے یہ لڑکیوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو بیل کی طرح بڑھتی ہیں۔

◇ بے نمک ہونا

نمک ہمارے ہاں سالٹ (Salt) کو بھی کہتے ہیں اور اس سے کئی محاورے نکلے ہیں نمک حلال اور نمک حرام اور دہلی میں ایک حویلی ایسی ہے جس کو نمک حرام کہتے ہیں اور نمک کھانے کا معنی احسان مند کے ہیں۔ کسی کی نیکی خدمت اور بھلائی کا خیال کرنے کے ہیں کہ ہم نے تو اس کا نمک کھایا ہے۔ بے نمک سالن کے معنی بے مزہ ہونے کے ہیں۔ یہاں تک کہ جس شخص کے رنگ میں ہلکی ہلکی ملاہت نہیں ہوتی حسن بے نمک کہتے ہیں۔ جہانگیر نے کشمیر کے لیے لکھا ہے کہ کشمیر میں نمک نایاب ہے یہاں تک کہ اس کے حسن میں نمک نہیں ہے حتیٰ کہ حنش ہم نمک نمی دارو۔

◇ بیوی کا دانہ یا کونڈا، بیوی کی صحنک یا نیاز بیوی کی فاتحہ

مسلمان گھرانوں میں یہ دستور چلا آتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت رسول مقبول کے نام کی فاتحہ دی جاتی ہے۔ اسے گھروں کی زبان میں بی بی کی صحنک یا بی بی کے کونڈے کہا جاتا ہے کونڈا مٹی کی بڑی تغاری کو کہتے ہیں۔ جب فاتحہ کے لیے اس میں کچوریاں، پوڑے، میٹھے (گلگلے) اور کھیر پکا کر اس پر نیاز دی جاتی ہے تو اس کو ”کونڈا بھرنا“ کہتے ہیں یہ محاورے ہماری معاشرتی زندگی اور گھریلو ماحول کی ایک خاص تصویر پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو رسم وابستہ ہے ان محاوروں سے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔

◇ بیوی کا غلام ہونا

اب سے کچھ زمانہ پہلے تک جب بڑے گھروں کی بیٹی رخصت کی جاتی تھی تو اس کے ساتھ غلام اور باندیاں بھی دی جاتی تھیں کہ یہ آئندہ خدمت کے لیے ہیں۔ رفتہ رفتہ جاگیر داریاں ختم ہو گئیں تو یہ رسم بھی ختم ہوئی۔ اب بیوی کے سامنے بول بھی نہیں سکتا بھگی بلی بنا رہتا ہے یعنی اس غلام کی طرح ہوتا ہے جسے اپنے مالک یا ملکہ کی طرح بی بی کے سامنے بولنے کی جرات بھی نہ ہو وہ گویا بیوی کا غلام ہے۔ اس سے ہمارے معاشرے کی ذہنی روش کا پتہ چلتا ہے

کہ شوہر کے مقابلہ میں وہ بیوی کو کوئی درجہ نہیں دیتا تھا۔ اور یہ اس کی مخالف ایک صورت تھی کہ بیوی اس کی آقا بن جائے اور شوہر اس کا غلام نظر آئے۔ یہ صورت حال معاشرہ پسند نہیں کرتا تھا۔ تبھی تو طنزاً کہا گیا کہ بیوی کا غلام ہے۔

رُویف — پ

◇ پابوس ہونا

ہمارے یہاں قدموں کا بہت احترام کیا جاتا رہا ہے اس کا اندازہ ان محاوروں سے ہوتا ہے جو قدموں سے نسبت کے ساتھ ہماری زبان میں رائج ہیں اور رائج رہے ہیں۔ پیر دھونا پیر دھو دھو کر پینا، پیروں کی دھول ہونا، قدموں پر نچھاور ہونا، قدم چومنا، قدموں کو بوسہ دینا، قدم بوس ہونا، قدم چھونا، قدم رنجہ فرمانا یا قدم و میمنت (مبارک قدم) قدموں کی برکت، قدم گاہ وغیرہ۔ اس سے معاشرے میں احترام کے تقاضوں کی نشاندہی ہوتی ہے یہ ہند ایرانی تہذیب کا ایک مشترک رویہ سمجھا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بزرگانِ دین کے ساتھ اور خاص طور سے صوفیوں کے ساتھ یہ رویہ آج بھی برتا جاتا ہے کہ ان کے قدموں کو چھوتے ہیں۔ ہندوؤں میں پنڈتوں کے لیے کہتے ہیں پالاگن مہاراج یعنی ہم حضور کے قدم چھوتے ہیں اور ان پر نچھاور ہوتے ہیں۔ جب کسی سے دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کے قدموں کی دھول کے برابر ہے یا میں تو آپ کے قدموں کی خاک ہوں یا خاک کے برابر بھی نہیں ہوں اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح سوچتا سمجھتا اور کرتا رہا ہے۔ غالب کا شعر یاد آتا ہے۔

کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے

کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں

یعنی آسمان کو قدم بوسی کی اجازت ہے تو مجھے کیوں نہیں ہے۔

◇ پاپ چڑھنا، پاپ ہونا، پاپ کرنا، پاپ سے بچنا، پاپ کا ثنا، پاپ کھانا
ان جیسے محاورے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سماج کچھ باتوں کو گناہ، قصور اور بڑی خطاؤں کے دائرے میں رکھتا ہے اور انھیں پاپ کہتا ہے۔ ہندوؤں میں بڑے قصور کے لیے مہاپاپ کہا جاتا ہے اور اسی نسبت سے قصور کرنے والے کو پاپی یا مہاپاپی کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ ”پاپ چڑھنا“ پاپ کے وارد ہونے کو کہتے ہیں ایسا کرنا تو پاپ کرنا ہے۔ اور اس سے بچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی پاپ ہو جائے ”پاپ کا ثنا“ بھی اسی ذیل میں آتا ہے کہ اپنے دفع کرو پاپ کاٹو۔

◆ پاڑ بیلنا، پاڑ پیٹنا

پاڑ ہندوستان کی کھائی جانے والی اشیا میں ایک خاص قسم کی غذا ہے جو باریک روٹی کی طرح تیار کیا جاتا ہے پھر تل کر کھایا جاتا ہے۔ چونکہ روٹی پکانے کے مقابلہ میں ”پاڑ بیلنا“ ایک مشکل کام ہے، دیر طلب ہے اور بہت سے پاڑ تیار کرنے میں آدمی تھک جاتا ہے۔ اسی لیے تھکا دینے والے کاموں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے دنوں پاڑ بیلتا رہا ہے۔

◆ پاپوش بھی نہ ماروں، پاپوش پر مارنا، پاپوش سے یا پاپوش کی نوک سے، پاپوش کی برابر سمجھنا

پاپوش جوتے کو کہتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں جوتی یا جوتا صرف ایک ضرورت کی چیز نہیں ہے اس کی ایک غیر معمولی سماجی حیثیت بھی ہے اسی لیے بہت سے محاورے جوتی اور جوتے کے نام کے ساتھ ہماری زبان میں داخل ہیں۔ ”جوتے مارنا“ زبان سے ذلیل کرنا ”جوتے کھانا“ دوسروں کے درمیان ذلیل ہونا۔ اصل میں جوتا ہمارے ہاں ایک سماجی درجہ رکھتا ہے بہت نیچا درجہ اسی لیے جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو ”جوتے کی نوک پر رکھنا“ کہتے ہیں۔ تو جوتا ایک طرح کی سماجی سزا ہے اور بڑے آدمی کی نسبت سے خدمت کرنا جوتیاں سیدھی کرنا ہیں کہ ہم نے فلاں کی جوتیاں سیدھی کیں یعنی اس کی ادنیٰ سے ادنیٰ خدمت سے کوئی گریز نہیں کیا۔

◆ پاسا پڑنا، پاسا پلٹنا

پاسا چوسر کی ایک خاص طرح کی گوٹ ہوتی ہے جب پھینکا جاتا ہے تو اس پر جونشانات ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں ان کے مطابق چال چلی جاتی ہے اور اس معنی میں پانسا پورے کھیل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور کھیل کا دار و مدار پانسا پڑنے پر ہوتا ہے اسی کو سماجی طور پر ہم زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پانسا غلط پڑا ہے تو یہ ہماری بد قسمتی ہے اور اگر صحیح ہے تو یہ خوشی کی بات ہے اور اچھی قسمت کی علامت ہے۔

◆ پال ڈالنا

آموں کو لحاف اور گدے کے درمیان رکھنا تا کہ وہ تیار ہو جائیں اس کو ایک سماجی محاورے کے طور پر استعمال کرنا ایک طرح سے طنز کے معنی میں آتا ہے کہ کیا ان کی پال ڈالو گے۔ آم ڈال کا پکا بھی ہوتا ہے اور پال کا پکا بھی۔ اچھے اور تازہ آم کو کہتے ہیں کہ یہ ڈال کا پکا ہے

اور ایسے آدمی کے لیے بھی ڈال کا یکا استعمال ہوتا ہے جو عقل مند ہو چاق چوبند ہو اور ہر طرح مستعد ہو۔ اس سے ہمارے اس زحمان کا پتہ چلتا ہے کہ محاوروں کی صورت میں ہم اپنے عام تجربوں کو خاص معنی دیتے ہیں۔ جس سے ہماری سوچ کے سفر کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے بات کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا۔

◇ پانی پانی کرنا، پانی پانی ہونا، پانی پڑنا، پانی پھر جانا، (کون کتنے پانی میں لہے) پانی توڑنا، پانی ڈالنا، پانی دکھانا، پانی دینا، پانی ڈھلنا (آنکھوں کا پانی ڈھل گیا ہے) پانی رکھنا یا بھرنا، پانی چھوٹا، پانی پی کر کوسنا، پانی پی کر ذات پوچھنا، پانی کا بتا سنا یا بلبلا وغیرہ

پانی ہماری ضرورت کی چیز ہے اگر پانی نہ ہو تو زندگی بھی نہ ہو۔ بہت محاورے پانی پر ہیں مثلاً گہرے پانی پیٹھ، گہرے پانی میں اگر اتر کر دیکھو۔ یہیں سے یہ محاورہ آیا ہے اور اس مفہوم کے ایک رخ کو ظاہر کرتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا تجربہ کار ہے، کون کتنا بھرم رکھنے والا ہے، کون کتنا لائق ہے یا کتنا پیسہ والا ہے۔ پانی پلانا ثواب کا کام ہے اور پیاسے کو پانی پلانا اور بھی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ آنحضرت ﷺ کو اسی لیے ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔ وہ میدان حشر میں پیاسوں کو آب کوثر پلائیں گے۔ ”پانی لگانا“ جانوروں کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے پانی اس لیے لگایا جاتا ہے کہ چھری آسانی سے چل جائے۔ پانی دکھانا بھی اس جانور کے لیے ہوتا ہے جس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ ”پانی دینا“ پودوں کو سینچنا، پانی پی کر کوسنا طرز کرنا ہے یعنی جس نے پانی پلایا اسی کو کوسنے بیٹھ گئے۔ ”پانی پی کر ذات پوچھنا“ بھی اسی طرح سے اپنی ایک روش فکر کا اظہار ہے کہ جس کے گھر کا پانی پی لیا اب اس کی ذات کیوں پوچھتے ہو۔ یعنی اس سے چھوت چھات برتنے کی بات کیوں کرتے ہو۔ ”پانی پانی ہونا شرمندہ ہونا“ یعنی ندامت کے پسینے میں ڈوب جانا ہے اور پانی پانی کرنا شرمندہ کرنا ہے کہ میں نے سارا چٹھا سنا دیا اور اسے پانی پانی کر دیا ہے۔ آنکھوں کا پانی مرجانا یا ڈھل جانا دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی لحاظ پاس نہ رہنا ہے اور کمینہ پن اختیار کرنا۔ ”پانی چھوڑنا“ عورتوں کی زبان میں اس لیے آتا ہے کہ پکانے کے عمل میں پانی کی مقدار کم اور زیادہ ہونا یا پکتے وقت پانی چھوڑنا۔ پانی کا بتا سنا بلبلا کو کہتے ہیں اس طرح سے پانی سے وابستہ تصورات ہماری معاشرتی فکر کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔

◆ پاؤں اُکھڑنا، پاؤں اُکھاڑنا، پاؤں جمنا یا جمانا، پاؤں پڑنا، پاؤں باہر نکالنا، پاؤں ملنا، پاؤں ٹپکنا، پاؤں پسارنا، پاؤں پر سر رکھنا، پاؤں میں ٹوپی پگڑی یا ڈوپٹہ ڈالنا، چلنا یا پیادہ ہونا

پاؤں کے ساتھ جہاں چلنے کے محاورات آتے ہیں جو انسان کے اہم تجربات میں سے ہیں۔ اس کی اہم ضرورت ہے وہاں نہ چلنے کے ساتھ بھی بہت سے محاورات وابستہ ہیں مثلاً ”پیر توڑ کر بیٹھنا“ پیر کی کیفیات کو ظاہر کرتے ہیں ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بیٹھنے کے علاوہ پیروں کے جمنے اور ٹھہرنے کے بارے میں محاورات انسانی کردار اور سماجی ضرورت کی طرف نئے نئے پہلوؤں سے اشارہ کرتے ہیں مثلاً قدم جمانا، قدم جمنا جیسے ہم دوسرے لفظوں میں پیر جمنا اور ”پیر جمانا“ کہتے ہیں۔ یہ مستقل مزاجی کی طرف اشارہ کرنے والے محاورے ہیں جن کے مقابلہ میں قدم اُکھڑنا اور قدم اُکھاڑنا آتے ہیں۔ پامردی اور بہادری کے خلاف ایک صورتِ حال ہے کہ جنت میں ان کے پاؤں اُکھڑ گئے۔ اُکھڑتے ہوئے نظر آئے یا اُکھاڑ دیے گئے۔ ”سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے“ بھاگ کھڑے ہونے کی ایک نئی عجیب اور مبالغہ آمیز صورت ہے ان محاوروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیروں کے بارے میں ہم کیا کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سوچتے ہیں۔

قدم سے متعلق کچھ دوسرے محاورے بھی ہیں جیسے دو قدم کا فاصلہ یا قدم قدم آگے بڑھنا دو قدم چل کر ٹھہر گئے یا دو دم چل کر تو دیکھو یا پھر ہمارا آج کے دور کا محاورہ کہ انھوں نے اپنے قلم یا اور قلم کی حرکت کو کبھی رکنے نہیں دیا مستقل طور پر کام کرتے رہے جو ایک بڑا سماجی قابلِ تحسین صورت ہے۔ پاؤں میں سر رکھنا، ڈوپٹہ رکھنا، انتہائی احترام کا اظہار کرنا مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ قصور معاف کر دیا جائے، خطا درگزر کر دی جائے۔ چونکہ دوپٹہ پگڑی، اور ٹوپی کسی بھی شخص کا اظہارِ عزت ہوتا ہے اور مقصد اس عمل سے یہ ہے کہ آپ ہمیں عزت دیں بخششیں اور ہمارے قصور کو درگزر کریں یہ ایک سماجی طریقہ رسائی ہے۔

◆ پاؤں پاؤں پھونک پھونک کر رکھنا

احتیاط سے قدم اٹھانا اور خطرات کا خیال رکھنا آج اس حد تک سمجھ میں نہیں آتا کہ کل تک جب راستہ پر خطرے تھے، قدم قدم پر خطرہ تھا، دھوکہ بازی تھی، ٹھگی اور ڈکیتی کا اندیشہ تھا دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی آدمی مشکلات میں گھر جاتا تھا اس وقت قدم پھونک پھونک رکھنا اپنے معنی اور معنویت کے اعتبار سے انسان کے سماجی رویوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

◇ پاؤں پھیرنے جانا

یہ محاورہ خاص طور پر دہلی کی تہذیبی زندگی سے وابستہ ہے اور یہاں کی بعض رسمیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں مثلاً پاؤں پھیرنے جانا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے (نواں مہینہ) شروع ہوتے وقت لڑکی سسرال سے میکے جاتی ہے پھر ایک دو دن بعد اپنی سسرال واپس آ جاتی ہے۔ منشی چرنجی لال نے اسکے مقابلہ میں لکھا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد چلہ نہا کر لڑکی میکے جاتی ہے کہ یہ بات تو ضرور ہے لیکن اس کو ”پاؤں پھیرنا“ نہیں کہتے۔ چلہ نہا کر میکے یا کسی قریبی رشتہ دار کے گھر جانا وہ دہلی میں الگ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

◇ پاؤں پیٹ پیٹ کر مرنا، پاؤں پیٹا، پاؤں پٹھنا

یہ دوسری طرح کے محاورات ہیں اور فرد کے رویہ سے تعلق رکھتے ہیں جب آدمی کوئی کام کرنا نہیں چاہتا اور ناخوشی کے اظہار کے لیے قدم اس طرح اٹھاتا ہے جیسے وہ پاؤں پٹھ رہا ہے پاؤں پیٹ رہا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اظہار ناخوشی کر رہا ہے۔ ناخوشی کے ساتھ زندگی گزارنا اور ذہنی تکلیفیں اٹھاتے رہنا، پاؤں پیٹ پیٹ کر مرنے یا جینے کو کہتے ہیں بات وہی ناخوشی میں مبتلا رہنے کی ہے۔

◇ پاؤں میں مہندی لگا ہونا یا لگنا

عورتوں کا محاورہ ہے کہ مہندی وہی لگاتی ہیں اور پیروں میں جب مہندی لگائی جاتی ہے تو چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مہندی خشک ہو جائے اور یہ اتار دی جائے۔ اس کے بعد بھی ہاتھ پیروں کو دھویا نہیں جاتا تا کہ مہندی رچ جائے بہر حال جب مہندی لگی ہوتی ہے تو آنا جانا ممکن نہیں ہوتا اسی لیے طعنہ یا طنز کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ایسا بھی کیا ہے کہ آپ نہیں آسکتے کیا پیروں کو مہندی لگی ہے۔ یعنی آپسی معاملات میں آدمی اپنا حق یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی وہ یاد کرے یا موقع ہو تو دوسرے کو آنا چاہیے اور اگر وہ نہیں آتا تو اس سے شکایت ہوتی ہے، شکوہ کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ تم خواجواہ کی بہانہ بازی کر رہے ہو یہ کوئی جائز بات نہیں ہے۔

◇ پتھر برسنا، یا پتھرا کرنا، پتھر پڑنا

پتھر برسنا گاؤں والوں کی اصطلاح میں ”اولے پڑنے“ کو کہتے بھی ہیں۔ اولوں سے فصل کا ناس ہو جاتا ہے وہ تیار ہوتے بھی اور نہ ہوتے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں اسی لیے

جب کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کیا تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے یعنی وہ کام نہیں کر رہی تھی تم سوچ نہیں پارہے تھے۔ پتھر برسانا پتھرا کرنا ہے یہ سزا دینے جنگ کرنے اور احتجاج کرنے کی ایک صورت ہے۔ پتھرا کرنے کا رواج آج بھی ہے قدیم زمانہ میں اور خاص طور پر یہودیوں کے یہاں پتھرا کر ہلاک کرنا ایک سخت سزا تھی جو بعض جرائم کے سلسلے میں دی جاتی تھی اسلام میں وہ منقطع ہو گئی۔

پتھر بے حس و ہلاکت ہونے کی علامت ہے اس لیے کہ بیوقوف آدمی کو بھی پتھر کہتے ہیں۔ بے حس ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کے دکھ درد کو محسوس نہ کرے اس کا دل کسی کے برے حالات پر پیسجے بھی نہیں تو اسے بھی پتھر دل کہا جاتا ہے۔ انتظار کرتے کرتے آنکھیں تھکن کا شکار ہو جاتی ہیں اس عمل کو بھی آنکھیں پتھرا کرنا کہتے ہیں کہ آنکھیں پتھرا گئیں۔

◇ پتھر چھاتی پر دھرنا یا دل پر پتھر رکھنا

بے صبر کرنا اور ایسے معاملات میں جہاں کسی شخص کے لیے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہاں یہ کہتے ہیں کہ دل پر پتھر رکھ کر یہ کام کیا یا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ”دل پر پتھر رکھنا پڑا“ وغیرہ۔ ”پیٹ سے پتھر باندھنا“ انتہائی بھوک کے عالم میں بھی صبر و ضبط سے کام لینا اور کسی سے اظہار نہ کرنا ”پیٹ سے پتھر باندھنا“ کہلاتا ہے اور مشکلات برداشت کر کے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹ سے پتھر باندھ کر یہ کام کیا ہے۔ یا ایسے کاموں کے لیے تو پیٹ سے پتھر باندھنا ہوتا ہے یعنی سختیاں جھیلنا اور مشکلات برداشت کرنا۔

◇ پرانے مردے اکھیڑنا

غیر ضروری باتوں کو بار بار دہرانا جن کا وقت بھی گزر چکا اور ان کا ذکر بار بار زبان پر لانا گڑے مردے اکھیڑنا کہلاتا ہے۔ یہ ہماری سماجی برائی کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی ہم کسی کی نیکی کو یاد نہیں کرتے اس کے احسانات کو بھول جاتے ہیں اور برائی کو بار بار دہراتے ہیں۔ بلکہ بھولی بسری باتوں کو بھی ضرور سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اس محاورہ میں ایک طرح کا طنز اور اس سماجی روش کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اچھائیوں کا اعتراف کرنے میں بے حد بخیل ہیں اور کمزوریوں، عیبوں، برائیوں کو طرح طرح سے سامنے لاتے ہیں۔

◇ پرانی آنکھیں کام نہیں آتیں

کام تو خیر پرانی آنکھیں بھی آ جاتی ہیں اور دوسرے لوگ اپنی آنکھوں اور اپنے ذہن

کی روشنیوں اور اپنے علم کے ذریعہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں مگر محاورہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اپنی آنکھوں سے ہی کام لینے پر اکثر مجبور رہنا پڑتا ہے اور یہی بہتر بھی ہے کہ اپنی عقل سے کام لے، اپنی سوجھ بوجھ کی روشنی میں فیصلہ کرے اور اپنے ارادے کی مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھائے ورنہ دوسروں کا مشورہ ان کی رہنمائی اور عقل گماہ گمراہی کا باعث بھی بن جاتی ہے کہ لوگ ہمیں دوست بن کر بھی تو فریب دیتے ہیں۔

◇ پرانے شگون کے لیے اپنی ناک کیوں کٹواتا ہے

آدمی کا حال کچھ عجیب ہے بہت سے کام وہ دوسروں سے حرص کا رشتہ رکھنے کی وجہ سے محض لاگ کے طور پر کرتا ہے کہ تم ایسا کرتے ہو تو ہم ایسا کریں گے اور ایسی صورت میں یہ بھی نہیں سوچتا کہ جو کچھ میں دوسرے کی مخالفت کے طور پر کر رہا ہوں وہ خود میرے لیے نقصان کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اسی کی طرف اس محاورے کی طرف اشارہ ہے کہ پرانے شگون کی وجہ سے اپنی ناک کیوں کٹواتے ہو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا دیکھی کام نہیں کرنا چاہیے اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ اس میں ایک بات اور بھی قابل لحاظ ہے اور وہ شگون لینا ہے جو تو اہم پرستی کی ایک صورت ہے اور قابل تعریف نہیں ہے آدمی اس کی وجہ سے بے عقل اور وہمی ہو جاتا ہے اور اپنے برے بھلے اور نفع و نقصان کے بارے میں بھی نہیں سوچ پاتا۔

◇ پر چھاواں پڑنا، پر چھاویں سے بچنا یا دور بھاگنا

پر چھاواں پڑنا بھی اسی طرح کی ایک نفسیاتی صورت حال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پر چھاواں پڑنے سے بھی آدمی کی عقل خبط ہو سکتی ہے۔ اس کی جڑ بنیاد تو ہمارے ہاں چھوت چھات کے تصور میں ہے کہ اگر کسی آدمی پر چھائی بھی پڑ گئی تو کھانے پینے کی کوئی شے یا پھر آدمی کا اپنا وجود ناپاک ہو گیا ہم ایسا سوچتے اور سمجھتے آئے ہیں اور یہیں سے یہ خیال پیدا ہوا کہ برے آدمی کی پر چھائیں پڑنے سے آدمی کا اخلاق تباہ ہو جاتا ہے یعنی برے آدمی کی پر چھائیں بھی بری ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرتی رویوں میں موقع بہ موقع اس صورت حال کو دیکھا اور پرکھا جاسکتا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر اپنے سماجی رویوں میں جائز اور نہ جائز حدود کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ آدمی کا عام ذہن ہے اور ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے اسی سے پر چھاویں سے بچنا یا دور بھاگنا بن گیا۔

◇ پردہ ڈالنا یا اٹھا دینا، پردہ پوشی، پردہ داری، پردہ ہونا
 پردہ ہمارے معاشرے میں ایک غیر معمولی رجحان ہے مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ
 اپنی عورتوں کو پردہ کرواتا ہے یہاں تک کہ اس میں یہ مبالغہ برتا ہے کہ عورت کے لیے تو آواز کا
 بھی پردہ ہے۔

پردہ ایک حد تک ہندوؤں میں بھی رائج رہا ہے اور اب بھی ہے، مگر اس شدت کے
 ساتھ نہیں ہے۔ جو مسلمانوں میں پردہ داری کی رسم ملتی ہے اب اس کا رواج کم ہو گیا ہے لیکن
 مسئلے مسائل کی صورت میں اب بھی جب گفتگو آتی ہے تو وہی تمام مبالغہ احتیاط اور شدت کی
 پرچھائیاں اس گفتگو میں ملتی ہیں۔ باتوں کو چھپانا بھی داخل ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر کی بات
 باہر نہ نکلے یہ رجحان ہمارے قدیم معاشرے میں اور بھی زیادہ تھا کہ لوگ خواہ مخواہ کی باتیں
 کرتے ہیں اور دوسروں کی کوئی کمزوری کوئی مجبوری یا کسی شکرینچی کا حال ان کو معلوم ہو جاتا
 ہے تو وہ اس کو بری طرح اڑاتے ہیں مشہور کرتے ہیں اسی لیے وہ محاورہ آتا ہے کہ گھر سے
 نکلی کوٹھوں چڑھی یا منہ سے نکلی بات پرانی ہو جاتی ہے۔ بعض باتوں کو چھپانا بھی ضروری ہوتا
 ہے کہ دوسروں کی ان باتوں کا پہنچنا اچھا نہیں لگتا ہے کہ رازداری ہماری سماجی ضرورتوں کا
 تقاضہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کتنی بات ضرورت کے تحت کرتے ہیں اور کتنی بات
 غیر ضروری طور پر۔

اس طرح پردہ داری ہو پردہ نشینی ہو پردہ گیری ہو یہ سب ہمارے معاشرتی رویوں کا
 حصہ ہیں۔ اور ان سے موقع بہ موقع ہماری سوچ کا اظہار ہوتا ہے رازدرون پردہ جیسی ترکیبیں
 بھی اسی ذہنی رویہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ”پردہ ہے پردہ“ عام طور پر ہمارے گھروں میں بولا
 جاتا ہے۔

◇ پلٹھن نکالنا یا نکلنا

گھریلو سطح کی زبان کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ
 محاورے چیوں کا محاورہ ہے۔ پلٹھن نکالنا زیادہ سے زیادہ مکے یا مکیاں لگانا ہے جس سے دوسرا
 ادھرا ہو جائے۔ میر تقی میر کا مشہور شعر ہے اور بازاری زبان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

ہاں پلٹھن نکل گیا واں غیر
 اپنی مکی لگائے جاتا ہے

◇ پھوٹ پڑنا یا ہونا، پھوٹ ڈالنا

”پھوٹ“ کے معنی ہیں ٹوٹ پھوٹ پیدا کرنا، اختلاف کو جنم دینا۔ ہندوستان میں ہمارے معاشرے کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں اور اپنے تعلقات میں تلخی، شکر رنجی یا اختلافات کی صورت پیدا کر لیتے ہیں اور ہمارے آپسی میل جول یا اتحاد میں فرق آ جاتا ہے اسی کو ”پھوٹ پڑنا“ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا پڑھا کر غلط سلسلہ مشورہ دے اختلافات پیدا کرتے ہیں اور دلوں میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ جس سے تعلقات میں استواری یا ہمواری باقی نہیں رہتی ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے۔

◇ پھول کھیلنا، پھول کی جگہ پنکھڑی، پھول نہیں پنکھڑی ہی سہی، پھول کی چھڑی بھی نہیں لگائی، پھولوں کا گہنا، پھولوں کی چھڑی، پھولوں کی بیج، پھولوں میں ملنا، پھول پان

پھول ہماری دنیا کا ایک بہت ہی خوبصورت قدرتی تحفہ ہے یہ ہماری سماجی رسموں میں بھی شریک ہے اور خوشی کے موقع پر خاص طور سے پھولوں کا استعمال ہوتا ہے۔ پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں، پگڑی میں لگائے جاتے ہیں۔ بعض مغل بادشاہ اپنے ہاتھ میں گلاب کا پھول رکھتے تھے اکبر جہانگیر اور شاہ جہاں کی ایسی تصویریں ملتی ہیں جن میں گلاب کا پھول ان کے ہاتھ میں ہے۔ پھول دواؤں میں بھی کام آتے ہیں اور فنون لطیفہ میں بھی اور ہماری سماجی زندگی سے ان کا ایک واسطہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی شاعری کے علاوہ اپنے محاوروں میں پھول کو شامل رکھتے ہیں جس کا اندازہ مندرجہ بالا محاوروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھول سوکھنا یا پھول سوکھ کر جینا انتہائی کم خوراک ہونا ہے۔ پھول چننا یا موتی چننا خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔

ڈلھن کی بیج پر پھول بچھائے جاتے ہیں، پنکھڑیوں کی بارش کی جاتی ہے اور خوشی کے موقع پر پھولوں کے گہنے پہنے جاتے ہیں۔ دلی میں تو گرمی کے موسم میں پھولوں کے اس طرح کے ہار بکتے ہیں جو عورتیں اپنے جوڑے میں لگاتی ہیں، کانوں میں پہنتی ہیں یا ہاتھوں میں پہنتی ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں تو مرد و عورتیں بھی عام طور سے پھول پہنتی ہیں یہیں سے محاورے تشبیہیں استعارے اور تمثیلیں پیدا ہوئی ہیں۔ پھول کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ قابل قدر ہوتا

ہے اور محاورے میں یہ کہتے ہیں پھول نہیں پٹکھڑی سہی، بے حد اچھا سلوک کرنا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی پھولوں کی چھڑی بھی نہیں ماری تمام تر ناز برداریاں کیں وغیرہ ”پھولوں میں تکنا“ بے حد ہلکا پھلکا ہونا ہے۔ پھول پان بھی اسی صورت حال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

◇ پیر پھیرنے جانا

یہ کسی کی آمد کے سلسلے میں بطور تشکر اس کے ہاں جانے کے موقع پر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے غالب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ مجھے ان کا ایک آنا دینا تھا۔ ہاں ملاقات کی غرض سے کسی کے آنے کی طرف اشارہ ہے۔ علاوہ بریں دہلی میں یہ ایک خاص رسم ہے جو کسی بچے کی پیدائش سے پہلے لڑکی سسرال سے میکے نرے مہینے آتی ہے اسے ”پاؤں پھیرنا“ بھی بولتے ہیں اس لحاظ سے خاص طور پر اس کے محاورے کی تہذیبی اہمیت ہو جاتی ہے۔

◇ پیر نابالغ

”پیر“ بوڑھے کو کہتے ہیں اور جب کسی آدمی کو بڑھاپے تک عقل نہ آئے تو طنز کے طور پر اسے ”پیر نابالغ“ کہتے ہیں۔ یہ مذاق اڑانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ بوڑھے ضرور ہیں مگر پیر نابالغ ہیں۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور محاورہ ہے کہ بوڑھا اور بچہ برابر ہوتا ہے۔ یہاں ان کمزوریوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو بڑھاپے میں عود کر آتی ہیں اور آدمی بچوں جیسی باتیں کرنے لگتا ہے۔

◇ پیندے کا ہلکا ہونا، پیندے کے بل بیٹھ جانا

جو آدمی مستقل طور پر جم کر نہیں بیٹھتا کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر رہتا ہے۔ اور اس طرح مستقل مزاجی نہیں ہوتی اس کو ”پیندے کا ہلکا ہونا“ کہتے ہیں۔ پیٹ کا ہلکا ہونا ایک دوسری صورت ہے اور اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ کسی بات کا ہضم نہیں کر سکتا بلکہ کہہ ڈالتا ہے وہ پیٹ کا ہلکا کہلاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مستقل مزاجی ایک بڑی صفت ہے اور جو آدمی مستقل مزاجی سے کام نہیں لیتا اور کسی بات پر نہیں جمتا اسے آدمی کا ہلکا پن کہا جاتا ہے یہاں تک کہ جو بات گمبیر نہیں ہوتی اسے بھی ہلکی بات کہا جاتا ہے۔

◇ پیوند ہماری اوقات ہے

غربی میں اکثر آدمی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے اور کبھی کبھی تو پیوند پر پیوند لگانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اس میں کسی آدمی کی مالی حیثیت بھی شریک رہتی ہے اور وہی اس کا

سوشل اسٹیٹس بن جاتا ہے۔ بعض پھل و پھول پیوند لگا کر ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک الگ طریقہ ہے اور اس کا سماجی رتبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے پیوندی آم یا پیوندی بیرو غیرہ۔

ر د ل ف ت

◇ تاک لگانا، تاک میں رہنا

تاک کے معنی ہیں دیکھنا، تکنا۔ ہم بولتے ہی ہیں کہ وہ دیر تک تکتا رہا، تاک جھانک اسی سے بنا ہے میر تقی میر کا مصرعہ ہے۔

تاکنا جھانکنا کبھونہ گیا

یعنی جب موقع ملا دیکھ لیا، نظر ڈال لی، چوری چھپے دیکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس سے سماجی رویہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح بعض سوالات خیالات اور تمنائیں ہمارے دل سے الجھی رہتی ہیں اور ہم ان کے نظر بچا کر یا چوری چھپے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اردو شاعری میں حسن و عشق کے معاملات کے لیے اس طرح کی باتیں اکثر گفتگو میں آتی رہتی ہیں۔

◇ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجاتی

یہ ایک قدرتی عمل بھی ہے لیکن ہم نے اس کو ایک سماجی عمل کے طور پر دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کی اور ظاہر کیا کہ کسی بات کی ذمہ داری بشرطیکہ اس میں خرابی کا کوئی پہلو ہو کسی ایک آدمی پر نہیں ہوتی وہ عمل دو طرفہ ہوتا ہے اور دوسرا کوئی شخص یا فریق بھی اس میں شریک رہتا ہے شرکت کا پیمانہ جو بھی ہو جتنا بھی ہو۔

◇ تجاہل عارفانہ

جان بوجھ کر انجان بننا۔ تجاہل کے معنی ہیں لاعلمی ظاہر کرنا اور جانتے بوجھتے ہوئے ظاہر نہ کرنا جو ایک مکار رد عمل ہوتا ہے، اور سماج میں اس کی بہت مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ جانتے ہیں کچھ ہیں لیکن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نہ واقف ہیں۔

◇ تعزیہ ٹھنڈا ہو جانا

تعزیہ دراصل اظہار ملال ہے۔ بعض طبقوں میں تعزیہ اندھے کنویں میں پھینک دیے جاتے ہیں، بعض دریا میں بہا دیے جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا انھیں سفید چادروں میں لپیٹ کر کسی تنہا جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ بہر حال جب تعزیہ کی رسمیں ختم ہو جاتی ہیں تو محاورتا اسے ”تعزیہ ٹھنڈا کرنا“ کہتے ہیں۔

◆ تقدیر پھرنا، تقدیر کا لکھایوں تھا، تقدیر کا بنا، تقدیر کا پلٹا کھانا، تقدیر کا دامن، تقدیر کا کھیل

ہمارا معاشرہ تدبیر منصوبہ بندی اور کاوش میں اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا تقدیر کو اسے بھروسہ ہوتا ہے یہ مشرقی قوموں کا ایک عام رویہ ہے۔ ہندوستان اور مسلمانوں میں نسبتاً زیادہ ہے کہ وہ ہر بات کو تقدیر سے منسوب کرتے ہیں، چنانچہ تقدیر سے متعلق بہت محاورات ہیں جو ہماری زبان پر آتے رہتے ہیں۔ اور اس لیے آتے رہتے ہیں کہ ہم غیبی فیصلوں کو مانتے ہیں اور ان سے باہر آ کر سوچنا سمجھنا نہیں چاہتے۔ اوپر دیے ہوئے محاورات کا مطالعہ اسی نقطہ نظر سے کرنا چاہیے تقدیر کا لفظ بدل کر کبھی قسمت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ”قسمت کا لکھا، قسمت کا کھیل“ قسمت کا بنا اور بگڑنا کہا جاتا ہے۔

◆ تلوار کو میان میں رکھنا، تلوار کی آنچ، تلوار گر جانا، تلوار میان سے نکلی پڑتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں

تلوار جسے تیغ بھی کہا جاتا ہے وسطی عہد کا ایک بہت معروف اور ممتاز ہتھیار رہا ہے۔ قدیم زمانہ کی تلوار ایک خاص طرح کی ہوتی تھی جسے کھانڈا کہتے تھے جہاں ”ل“ کو ”ر“ سے بدلا جاتا ہے وہاں تلوار کا تلفظ تراڑ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سپاہی پیشہ خاندانوں کے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تلواروں کی چھاؤں میں پلے بڑھے ہیں اقبال کا مصرعہ ہے۔

تیغوں کی چھاؤں میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں

تلوار چلنا، تلوار کا کسنا یعنی اس کی لچک دیکھنا تلوار کا پانی، اس کی دھار، اس کی آب و تاب اور دھار، تلوار کا میان سے نکلنا یا میان میں رکھا جانا یہ سب تلوار کے استعمال سے متعلق باتیں تو اس زمانہ کی زندگی میں عام تھیں ان میں تلوار کے گھاٹ اتار دینا بھی تھا۔ ہمارے ہاں اُردو میں محبوب کی بھوں کو تلوار سے تشبیہ دی جاتی ہے اس سے بھی تلوار سے ذہنی اور سماجی رشتوں کا پتہ چلتا ہے۔

◆ تمھارے منہ میں کبھی شکر یا گھی کھانڈ

شکر ہو یا پھر شکر وہ مٹھاس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے پسندیدہ اشیا ہیں گڑ، کھانڈ اور راب بھی اسی ذیل میں آتے ہیں اسی لیے اس طرح کے محاورے بھی ہیں۔ گڑ نہ دے گڑ جیسی بات کہہ دیے گڑ اور گھی کا ایک ساتھ استعمال دیہات کی سطح پر بہت پسند کیا جاتا ہے۔

شکرانہ میں خاص طور پر گھی اور کھانڈ یا گھی اور شکر استعمال ہوتے تھے۔ دیہات میں لال شکر اور شہروں میں گھی اور پورا خاص طور پر استعمال میں آتا تھا اور اس کے نیچے چاول ہوتے تھے۔

بہم حال جب ہم ان امور پر غور کرتے ہیں تو گھی اور شکر کی سماجی حیثیت اور معنویت سامنے آتی ہے اور یہ کہاوت ہے تمہارے منہ میں گھی شکر اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس سے مراد ہوتی ہے کہ تمہارا کہنا پورا ہوا اور مراد بر آئے اب بھی ایسے موقع پر ایسی کہاوت اور بولی جاتی ہے اور بیٹھائی کھلانے یا کھانے کا وعدہ کیا کہا جاتا ہے۔ مقصد اظہارِ خوشی ہے۔

◆ تنکے کا احسان ماننا، تنکے کا سہارا، تنکے کو پہاڑ کر دکھانا، تنکا تنکا کر دینا

تینکا لکڑی کا چھوٹے سے چھوٹا اور کم سے کم درجہ کا حصہ ہوتا ہے اس سے جانور اپنا گھونسل بنا تے ہیں اور جب گھانس پھونس کے جھونپڑے، ٹٹیاں اور چھپر بنتے ہیں تب بھی گویا تنکے ہی کام آتے ہیں۔ دیہات میں اس طرح کے مکانات چھپرا اور چھپریاں اب بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ سرکٹیاں بھی اسی کی مثالیں پیش کرتی ہیں اور سرکنڈے بھی تنکے کے سے وابستہ کہاوتیں اور محاورے کمزوری بے ثباتی اور کم سے کم درجہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ”سوکھ کر تنکا ہونا“ انتہائی کمزور ہو جانا ہے۔ ”تینکا تنکا بکھر جانا“ گھاس پھونس کی چھپری یا چھپروں کا ہوا میں اڑ جانا ہے یا باقی نہ رہنا ہے۔

اب اس کے مقابلہ میں ”تینکے کا احسان ماننا“ ہماری سماجی زندگی کا ایک دوسرا رخ ہے عام طور پر لوگ دوسرے کی ہمدردی محبت اور خلوص کا بدلہ تو دیتے ہی نہیں بلکہ احسان بھی نہیں مانتے جب کہ احسان تو خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، ایسا عمل میں جس کا دوسروں کو شکر گزار ہونا چاہیے ذوق کا مصرعہ ہے۔

ارے احسان مانوں سر سے میں تنکا اتارے گا

”تینکے کا پہاڑ کر دکھانا“ ایک تیسری صورت ہے کہ اس کا بھی ہماری سماجی زندگی سے ایک گہرا رشتہ ہے کہ بات کو کچھ اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ تینکے کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ بات کا بے تکلف بتانا اور بات کو بہت آگے بڑھا دینا ایک دوسری صورت ہے۔ داڑھی میں تنکا ہونا ایک اور صورت حال کی طرف اشارہ ہے کہ جو دراصل کسی غلطی یا نقصان پہنچانے کا مرتکب ہوتا ہے اسے احساس تو رہتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے میں قصور وار ہوں اس کا کوئی ایکشن یا ریکشن اس کی طرف اشارہ بھی کر دیتا ہے اسی کو چور کی داڑھی میں تنکا کہتے ہیں۔

ایک اور محاورہ بھی اسی سلسلے کا ہے دوسروں کی آنکھ میں تنکا دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا جس کے معنی ہیں کہ اپنی عیب داریاں کوئی نہیں دیکھتا اور دوسروں کی بات پر اعتراض کرتے ہیں اور عیب لگاتے ہیں اس طرح تنکے سے ہم رشتہ بہت سے محاورے ہماری سماجی فکر کا مختلف پہلوں سے اظہار کرتے ہیں اور ہماری سوچ پر روشنی ڈالتے ہیں۔

♦ تن من وارنا

تن من کے معنی ہیں جسم و جان (Body and Soul)۔ جب کسی سے اپنی مکمل وفاداری اور ایثار و قربانی کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ہم تن من سے تمہارے ساتھ ہیں کبھی کبھی تن من دھن بھی کہتے ہیں۔ ”من“ ہندی لفظ ہے اس کے معنی روح کے ہیں اس لیے اس کا کسی عمل میں ساتھ ہونا بڑی بات ہوتی ہے جب یہ کوئی کہتا ہے کہ میں تم پر تن من وار کرتا ہوں تو گویا سب کچھ قربان کر دینا چاہتا ہے گیتوں میں تن من وارنا آتا بھی ہے۔

♦ تن من میں پھولے پھولے نہ سمانا

”تن من میں پھولانہ سمانا“ بھی محاورہ ہے لیکن زیادہ تر اپنے من میں پھولانہ سمانا بولا جاتا ہے۔ اپنے تن من کی کچھ خبر نہ رہی یعنی میں بالکل غافل ہو گیا یہ بھی ہماری زبانوں پر اکثر آتا ہے۔ صرف تن کے ساتھ بھی بہت سے لفظ اور لفظی ترکیبیں بطور محاورہ آتی ہیں جیسے تن پوشی، تن پرستی، تن دہی، تن ڈھانپنا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ لفظی ترکیبیں محاورے کے ذیل میں آتی ہیں اور ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محاورے کیوں اور کیسے بنتے ہیں اور لغوی معنی سے مجازی معنی تک کیسے آتے ہیں۔ تن پرستی اپنے وجود کو یا اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دینا ہے اور تن دہی محنت و مشقت برداشت کر کے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اسے ”تن دہی“ کہتے ہیں۔

♦ تنگ حال ہونا، تنگ وقت ہونا، تنگ ہاتھ ہونا

یہ محاورات دراصل ہماری سماجی زندگی کا منظر نامہ پیش کرتے ہیں خاص طور پر اس طبقہ کی جو کم آمدنی اور اخلاص کے ساتھ اپنے زندگی کے دن گزارتا ہے اسی کو تنگی ترشی کہتے ہیں۔ ”ہاتھ کا تنگ ہونا“ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اور اس کا ذکر اکثر ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ تنگ رہتا ہے یا وہ تنگ حالی میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ ”تنگ وقت ہونا“ محاورے کی ایک دوسری صورت ہے۔ یہاں پیسہ مراد نہیں ہوتا بلکہ وقت کا کم رہ جانا مراد ہوتا ہے جیسے نماز کا وقت کم

ہو رہا ہے۔ ”تنگ ہونا“ تکلیف کی حالت میں ہونا ہے اور ”تنگ کرنا“ دوسروں کو پریشان کرنے کے معنی میں آتا ہے اور یہ ہماری سماجی روش ہے کہ جب ہم دوسروں سے کوئی ناچاقی یا اختلاف یا خود غرضانہ اختلاف رکھتے ہیں تو ان کو طرح طرح سے ستاتے اور پریشان کرتے ہیں، اسی کو ”تنگ کرنا“ کہا جاتا ہے کہ اس نے مجھے تنگ کر رکھا ہے۔

◇ تازہ کرنا

نئے سرے سے کسی خیال کو زندہ کرنا ہے جیسے ”غم تازہ کرنا“ کہ جس غم کو آدمی بھول گیا تھا اسے پھر یاد دلایا۔ ویسے ہم تازہ بہت چیزوں کے لیے بولتے ہیں جیسے تازہ کھانا، تازہ روٹی، تازہ گوئی اور تازہ روٹی (تازہ خیالی، تازہ دم ہونا) نئی بات کہنا، (تازہ کاری) نیا کام کرنا وغیرہ۔

◇ تیوری بدلنا یا چڑھانا، تیوری میں بل ڈالنا، تیوری کا بل کھلنا

تیوری انسان کی پیشانی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کے حصے کو کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ہمارے جذبات و احساسات کا آئینہ ہوتا ہے ہم گفتگو کرتے وقت آنکھ بھوں چڑھاتے ہیں ناخوشی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اسی کو ”تیوری چڑھانا“ کہتے ہیں اُردو کا ایک مصرعہ ہے جس سے سماجی رویہ کی نقش گری ہوتی ہے۔

تیوری چڑھائی تم نے کہ یہاں دم نکل گیا

تیوری کو تیور بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی ”Exprotrion“ میں شامل رہتے ہیں جیسے آج کل ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ نظریں بدل گئیں ہیں اگر ناگواری ختم ہوگئی تو اسے تیوری کا بل کھلنا کہتے ہیں یہ تیوری کے ہر بل پڑنے کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔

رُویف _____ ٹ

◇ ٹاپا توڑ نکل جانا

مرغیاں خریدنے والے ایک خاص طرح کا گھیرے دار جال رکھتے تھے وہ ٹاپا کہلاتا تھا وہ لوگ ٹاپے والے کہہ کر یاد کیے جاتے تھے۔ مرغیاں گھر کے ماحول سے نکل کر اس ٹاپے میں پھنس جاتی تھیں تو پریشان ہوتی تھیں اور اس سے نکلنا چاہتی تھیں اسی مشاہدہ سے یہ محاورہ بنا ہے۔ یعنی مصیبت میں پھنسا اور پھر نکلنے کی کوشش کرنا۔

◇ ٹالم ٹول (ٹال مٹول) کرنا

اس معنی میں ایک اہم محاورہ ہے کہ ہماری یہ ایک عام سماجی روش اور معاشرتی طرزِ فکر ہے کہ ہم بات کو سلجھاتے وقت قدم اٹھانے اور تدبیر کرنے کے بجائے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اپنے معاملہ میں بھی اور دوسروں کے معاملہ میں بھی۔ یہ ایک طرح کا سماجی عیب ہے کہ معاملات کو نمٹاؤ نہیں ٹالتے رہو اور کوئی نہ کوئی غلط سلط بہانہ بناتے رہو۔ ہم آج کے معاشرے میں بھی شہری وہ معاشرہ ہو یا قصبائی معاشرہ یہی ٹال مٹول کی صورت دیکھتے ہیں خود بھی اس سے گذرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔

◇ ٹانکا ٹوٹ جانا، ٹانکے کا کچا ہونا، ٹانکے کھل جانا

ٹانکا ہماری معاشرتی سماجی اور گھریلو زندگی کا ایک اہم حوالہ ہے یہاں تک کہ بہت اہم سطح پر ہم ٹانکا ٹھپا کہتے ہیں۔ پھٹے پرانے کپڑے میں ٹانکا لگانا اور اسے جوڑنا ہماری ایک سماجی ضرورت ہے اسی لیے یہ کام گھریلو طور پر کیا جاتا ہے۔ کپڑوں کے علاوہ چادر، بستر، لحاف میں ٹانکا لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جوتی میں ٹانکا موچی لگاتا ہے۔ جب کچا ٹانکا ہوتا ہے تو جلدی ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ بھی ہمارے محاورے کا حصہ ہے اور پکا ٹانکا لگانا بھی اور موتی ٹانکنا بھی۔ باریک ٹکائی بھی اس طرح سے یہ محاورے ہماری گھریلو زندگی کے اپنے انداز اور ماحول کو پیش کرتے ہیں۔

◇ ٹسر ٹسر رونا، ٹسولے بہانا

اصل میں رونے کے لیے یہ ایک طنزیہ محاورہ ہے جو سماجی رد عمل کو ظاہر کرتا ہے کہ پہلے سوچا نہیں سمجھا نہیں اب ٹسر ٹسر رو رہی ہے اور ٹسولے بہا رہی ہے دہلی میں ”ٹ“ کے نیچے کسر لگاتے ہیں اور ٹسولے کہتے ہیں۔

◇ ٹگر ٹگر دیکھنا

جب آدمی احساسِ محرومی اور تصورِ نامرادی کے ساتھ کسی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے گھریلو سطح کی ٹگر ٹگر دیکھنا کہتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم دوسروں کی نظروں کو پہچانتے ہیں ان کے جذبات و احساسات کی تصویر ان کی آنکھوں میں اس کا خاص انداز سے ذکر کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی سے ہمدردی کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ الگ بات ہے۔

◆ ٹکر ٹکر لگنا، ٹکر کھانا

دیہاتی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں اور طنز کے طور پر ٹکر لگنا بھی بولتے ہیں، ٹکر لگنے میں یہ طنز چھپا ہوا ہے کہ پہلے بھوکے مرتے تھے، کھانے کو نصیب نہیں ہوتا تھا اب کھانے کو ملنے لگا تو یہ انداز آگئے یعنی نخرے کرنے لگے برائی کا اظہار کرنے لگے۔ اسی کو قصباتی زبان میں روٹیاں لگنا کہتے ہیں۔

ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کسی چیز کو بری طرح توڑ دینا پھاڑ دینا اور ضائع کر دینے کا عمل ہے سزا کے طور پر بھی پہلے زمانہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا رواج تھا۔ جس کو اور آگے بڑھا کر بوٹی بوٹی کر دینا یا قیمہ کر دینا بھی کہا جاتا ہے اور قدیم زمانہ کی سزاؤں کی طرف اس سے اشارہ کرنا مقصود چاہے نہ ہو کہ جب لوگ اسے جانتے بھی نہیں مگر قدیم زمانہ کی روایت کسی نہ کسی سطح پر اس میں موجود ہے اور تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے۔

◆ ٹکسالی بولی / زبان، ٹکسالی بول چال، ٹکسالی محاورہ، ٹکسالی باہر

ٹکسال اصل میں بادشاہ کی طرف سے سکے رائج کیے جاتے ہیں اور کھرے سکے مانے جاتے ہیں ان کی دارالعراب سکے ڈھالنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور جو سکے سرکاری ٹکسال کا نہیں ہوتا ہے اسے کھوٹا سکے یا ٹکسال باہر قرار دیا جاتا ہے۔

شہری بولی میں جو بات چیت یا محاورہ مستند ہوتا ہے اس کو ٹکسالی کہا جاتا ہے اور جس سے ادھر ادھر کی بولی کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اسے ٹکسال باہر کہا جاتا ہے۔ دہلی والے جامع مسجد کی سیڑھیوں اور اس کے آس پاس کی زبان ہی کو سند مانتے تھے چنانچہ میر تقی میر نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میری زبان ان کے لیے یا محاورہ اہل دہلی ہے یا جامع مسجد کی سیڑھیاں۔ اس کے معنی یہ تھے کہ مردم بیرون جات یعنی دہلی شہر سے باہر کے لوگوں کی زبان ان کے نزدیک پسند نہیں تھی ٹکسالی زبان یا ٹکسالی محاورہ وہی کہلاتا تھا جو جامع مسجد کی سیڑھیوں کے آس پاس سنا جاتا تھا۔

◆ ٹوپی اتارنا، ٹوپی پیروں میں ڈالنا، ٹوپی اچھالنا، ٹوپی بدلنا

یہ محاورات نسبتاً نئے ہیں۔ ٹوپی سر کو ڈھکنے کے لیے کلاہ کی صورت میں ایک زمانہ سے ایران، افغانستان اور مرکزی ایشیا میں موجود رہی ہے مگر عام طور پر تہا نہیں اس کے ساتھ پگڑی بھی ہوتی تھی۔ ہندوستان میں جہاں تک قدیم کلچر کا سوال ہے صرف کبھی ٹوپی سے کبھی چیز سے

ڈھکتے تھے۔ دیہات میں پگڑی رائج رہی ہے بدن پر چاہے لباس کم سے کم رہا ہو مگر سر پر پگڑی رہی۔ اس کی وجہ سر کو دھوپ کی شدت سے بچانا بھی تھا۔ مدراس میں ہم دیکھتے یہی ہیں۔

پگڑی کے طرح طرح کے انداز مرہٹوں میں راجپوتوں میں اور جنوبی ہندوستان کے مختلف قبائل میں رہا ہے جس کا اندازہ ان تصویروں سے ہوتا ہے جو مختلف زمانوں اور خاص طور پر وسطی عہد میں رائج رہی ہیں۔ قدیم تر ہندوستانی تہذیب میں سادہ سنت بال رکھتے تھے اور اونچا طبقہ مکٹ پہنتا تھا (تاج کی طرح کی کوئی چیز)۔ ”سر“ عزت کی چیز ہے اسی لیے ”سر پر رکھنا“، ”سر جھکانا“ ہمارے ہاں خاص معنی رکھنے والے محاورات میں ”سر اٹھانا“ سرکشی اختیار کرنا ہے اور ”سر سے ٹیک دینا“ دوسری طرح کے محاورے ہیں جو آگے بڑھ کر سرگوشی تک آجاتے ہیں۔ ”سر کو ڈھکنا“ مرد سے زیادہ عورت کے لیے ضروری تھا جیسے آج بھی دیکھا جاسکتا ہے ٹوپی اسی کی ایک علامت ہے، اوپر دیے ہوئے محاورے ہوں یا دوسرے محاورے جو ”سر“ سے متعلق ہوں جیسے سر سے چادر اتر گئی۔

انہی محاوروں میں سر جھکانا، سر پیروں پر رکھنا ”سر پر خاک ڈالنا“ بھی اور ہم اپنی عزت کے نشان کے طور پر شخصی خاندانی قومی اور قبائلی وقار کے طور پر پگڑی یا دوپٹہ کو یا چادر اور آنچل کو سر سے گرنے نہیں دیتے تھے اور جب اسے دوسرے کے قدموں پر رکھتے تھے تو اپنی انتہائی وفاداری کا اظہار کرتے تھے جسے ہم مکمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیہات قصبات اور شہروں میں جب دوسرے کی عزت کو بڑا دکھانا چاہتے ہیں اور اپنی شخصیت کو کمتر ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیروں میں کوئی دوپٹہ پگڑی رکھتے ہیں اور اس کو اپنی طرف اظہارِ عاجزی کی سب سے بہتر صورت خیال کرتے ہیں۔ اس معنی میں یہ محاورے ہمارے سماج کے رویوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

ر د ی ف _ _ _ ث

◆ ثابت قدم رہنا یا ثابت قدمی دکھانا

ثبات کے معنی ہیں ٹکنا، قائم رہنا لیکن قدموں کے ساتھ اس کا تصور انسانی کردار سے وابستہ ہو جاتا ہے خاص طور پر ان افراد یا ان قوموں کے کردار سے جو جنگ کرتی تھیں اور مشکل مرحلوں سے گذرتی تھیں جنگ میں پیر اکھڑنا اور قدم اکھڑنا بہر حال ایک محاورے کے طور پر وہاں آتا تھا جہاں ڈٹے رہنا ضروری ہوتا تھا۔ ”قدم جمائے رکھنا“ لازمی تھا اسی لیے قدم

اُکھڑ جانے یا پیر اُکھڑ جانے کے معنی پزدلی دکھانا اور بھاگ کھڑا ہونا تھا جو بری بات تھی اور کردار کی استقامت کے لحاظ سے ناپسندیدہ بات تھی اسی لیے ثابت قدم رہنا ایک سپاہی ایک عالی حوصلہ اور مستقل مزاج انسان کے لیے ایک بہت اچھی صفت تھی جس کی تعریف کی جاتی تھی اور اس کو موقع بہ موقع سراہا جاتا تھا۔ مثنویوں اور قصیدوں میں اس طرح کے بہت سے شعر مل جائیں گے جن میں ثابت قدمی کی تعریف کی گئی اور اس معنی میں وہ انسانی کردار کی خوبی اور سماجی تقاضوں کی ایک علامت کے طور پر محاورے میں سامنے آتی ہے۔

◆ ثواب کمانا

ہمارا بنیادی طریقہ فکر مذہبی اور اخلاقی ہے ہم ہر بات کو تعبیر اور تشریح مذہبی طرز فکر کے طور پر پیش کرتے ہیں اور نیک عمل کا اجر بھی ہم قدرت یا خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسی کو ثواب کہتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو ثواب ہو گا یا ملے گا اگر ایسا کیا گیا تو تم ثواب کماؤ گے۔ اس اعتبار سے ثواب کمانا نیکی کرنے اور اس کے بدلہ یا انجام کو خدا سے وابستہ کرنے کا ایک نفسیاتی عمل جس کو ہم ثواب کمانے سے تعبیر کرتے ہیں۔

اگر دیکھا جائے تو ثواب کمانا ایک طرح سے مذہبی رویہ کے ذیل میں بھی آتا ہے اور اس سچائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اچھے برے عمل کا نتیجہ ثواب یا عذاب سے ہے۔

ردیف ___ ج

◆ جادو لگانا، جادو چلانا، ڈالنا، کرنا، مارنا، جادو کا پتلا

جادو سحر کو کہتے ہیں اور سحر کے معنی ہیں ایسی بھید بھری بات جس کے ذریعہ عقل کو حیرت میں ڈالنے والے کام کیے جاتے ہیں ہندوستان میں جادو ٹونے کا رواج بہت رہا ہے اسی لیے ہم یہاں منتر کے ایک معنی جادو بھرے الفاظ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا منتر پڑھ پھونک دیا ہے۔ یہ تصور دوسری قوموں میں بھی ہے اور خود عرب بھی جادو کے قائل تھے۔ کافر قرآن کی آیت کو نعوذ باللہ سحر عظیم کہتے ہیں ہمارے ہاں جادو ڈالنا، جادو چلانا، جادو کرنا، عام طور پر بولا جاتا ہے جیسے اس کا جادو چل گیا اس نے جادو چلا دیا۔ جادو تو وہ ہوتا ہے جو سر پر چڑھ کے بولتا ہے اُردو کا مشہور شعر ہے۔

کیا لطف جو غیر پردہ کھولے

جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے

اس معنی میں جادو ہماری سماجیاتی سوچ کا حصہ کیا ہے اور ہم ماورائے جن چیزوں کے قائل ہیں۔ اور انہیں مافوق العادت کہتے ہیں یہ انھی کا ایک حصہ ہے ایسے ہماری کہانی حقوق داستان اور شاعری کے نمونوں میں دیکھا پرکھا اور سمجھا ہندوستان میں خاص خاص موقعوں پر جادو کیا جاتا ہے۔

◇ جاگرن کرنا

جاگرن کرنا ہندو کلچر کا ایک اہم رسی اور مذہبی پہلو ہے کچھ خاص منتر پڑھ کر چراغ روشن کر کے اور دھیان گیان کے سلسلہ کو اپنا کر عقیدتوں کو دل میں جگایا اور من میں بسایا جاتا ہے اسے بھگوتی جاگرن کہتے ہیں۔ مغربی یوپی میں جاگ گئے کو یا جاگ اٹھنے کو ”جاگر“ کہا جاتا ہے جاگر میں صرف آنکھیں کھلتی ہیں نیند کا سلسلہ ٹوٹتا ہے جاگرن میں دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور عقیدیں جاگ اٹھتی ہیں اس معنی میں جاگرن کلچر تہذیب اور مذہب سے وابستہ ایک عمل ہے۔

◇ جال بچھانا، پھیلانا، یا ڈالنا، جال میں پھنسا، یا پھنسانا

جال ایک طرح کا وسیلہ شکار ہے۔ شیر سے لیکر مچھلی تک اور مچھلی سے لیکر پرندوں تک کو جال میں پھنسا جاتا ہے۔ جال پانی میں پھینکا جاتا ہے، اونچی چھتری پر لگایا جاتا ہے، جہاں کبوتر آ کر بیٹھتے ہیں اور اس جال میں پھنس جاتے ہیں، یہی صورت مچھلیوں کی ہوتی ہے اور یہی شکل ان پرندوں کی ہوتی ہے جو زمین میں دانہ چگنے کے لیے اترتے ہیں اور اس جال میں پھنس جاتے ہیں جس پر دانہ بکھیرا ہوتا ہے۔

انسان بھی فریب، جھوٹ دغا اور مکر کا شکار ہوتا ہے اور ان زبانی وسائل کو بھی جال ہی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی فریب دہی کا عمل ہے جس کا سلسلہ کون جانے کب سے رائج ہے مگر یہ بات برابر ہورہی ہے اس کا پیمانہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے اس دام فریب کے حلقوں میں برابر اضافہ ہو رہا ہے اور سماج اس سے باہر نہیں نکل پایا غالب کا شعر یاد آ گیا۔

دام ہر موج میں ہے حلق صد کام نہنگ

دیکھیں کیا گزرے ہے قطرہ پہ گہر ہونے تک

◇ جامے سے باہر ہو جانا یا جامے میں پھولا نہیں سمانا، جامہ زیب ہونا

جامہ دراصل لباس کو کہتے ہیں ہم زیر جامہ اور چار جامہ بھی بولتے ہیں۔ زیر جامہ انڈوریر کو بھی کہتے ہیں۔ ”چار جامہ“ چار طرح کے کپڑے جن سے تن پوشی یا جسم کی زیب

وزینت کا کام لیا جاتا ہے۔ گھوڑے کے ساتھ اور زین و لگام وغیرہ کے لیے بھی چار جامہ تسمہ محاورہ آتا ہے۔

”جامہ میں پھولانہ سمانا“ انتہائی خوشی کے اظہار کو کہتے ہیں جو دوسرے بھی دیکھ لیں سمجھ لیں اور محسوس کر لیں۔ کپڑے سب لوگ پہنتے ہیں اور معاشرہ میں اسی پوزیشن کے اظہار کے ذریعہ بناتے ہیں اس میں مذہب سے اپنے تعلق و وفاداری کو بھی شامل رکھنا چاہتے ہیں اور ایک طبقہ تو اس پر زور دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہر لباس ہر رنگ ہر وضع قطع ہر آدمی کے لیے وجہ زینت نہیں بنتی۔ بعض بدن جامہ زیب ہوتے ہیں، بعض لباس کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی کے اچھے لگتے ہیں۔ لباس کا اچھا لگنا ہی جامہ زیبی کا سبب ہوتا ہے، لباس کا رشتہ ہمیشہ ذاتی پسند سے زیادہ سب کی پسند کا مسئلہ رہا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے ”کھامن بھاتا اور پہنے جگ بھاتا“ ہے۔

◇ جان پر کھیلنا، جان دینا، جان پڑنا، جان جانا، جان جھوکنا، جان چرانا، جان چھڑانا، جان چھوڑنا، جان سکھونا، جان سے جانا، جان سے زیادہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، جان جو کھوں میں ڈالنا، جان ہونا وغیرہ

جان آدمی کو بہت ہی عزیز ہے، وہ اس کی روح رواں ہے سرچشمہ حیات ہے، اس کے وجود کا باعث ہے اور اپنے وسیع مفہوم اور معنی کے ساتھ اس کی زندگی میں شریک ہے اسی لیے ہم طرح طرح سے جان کے لفظ اور معنی کو اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں اور جان کے ساتھ جو محاورے بنتے ہیں وہ ہماری سماجی فکر اور مسائل کو ظاہر کرتے ہیں جیسے جان دینا، جان چھڑکنا، جان نہ ہونا، جان و ایمان کے برابر ہونا وغیرہ۔

◇ جانے کے کچھن ہیں

جانے کے معنی بھاگ جانے کے بھی ہیں، نکل جانے اور چھوڑ جانے کے بھی ہیں۔ جان نکلنا تو محاورہ ہے، جانے کے کچھن ہیں کہ معنی ہیں کہ اس کے روپ اور روش سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ رہنے والا نہیں ہے چھوڑ کر جانے والا ہے یہ گویا ان لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے جو کسی نہ کسی سطح پر کچھ توقعات رکھتے ہیں غالب کا شعر اس موقع پر یاد آ گیا۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

◇ جگ جینے، یا جے، جگت لڑنا

”جگ جگ جینا“ ہمارے ہاں کی دعا ہے ہم ایک خاص دور کو جگ کہتے ہیں جو یگ کا ہندی تلفظ ہے۔ جگ جینے کے معنی ہوئے کہ تم دور بہ دور جیو اسی لیے ہندی میں چل جیو ہونا بھی کہتے ہیں جگ جینے یا جگ بیتا ایک دوسرا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں بہت لمبی مدت بیتنا اُردو کا شعر ہے۔

جدائی کے زمانہ کی جن کیا زیادتی کہیے

کہ اس ظالم کی ہم پر جو گھڑی بتی سو جگ بیتا

◇ جلتی آگ میں تیل ڈالنا، جلتی پرتیل چھڑکنا، جلتے کو جلانا، جی جلنا، جی جلانا

جلنا شدید گرمی کا عمل ہے جس سے روکھ (درخت) جل جاتے ہیں، بدن جل جاتا ہے۔ آگ میں ہر چیز جل جاتی ہے، آگ کے قریب آ کر ہر شے جل اُٹھتی ہے اس سے جلنا ایک استعارہ بن گیا ہے۔ جی جلنا، جی جلانا یعنی تکلیف دہ باتیں کرنا یا اچانک جل اُٹھنا، بھڑک اُٹھنا غصہ میں بھر جانے کو کہتے ہیں۔ جی کا جلاوا وہ شخص چیز یا بات جو مسلسل ذہنی تکلیف کا سبب ہو ان سب باتوں کا رشتہ ہماری سماجی فکر اور معاشرتی زندگی سے ہے اوپر لکھے ہوئے محاورے اسی سلسل و فکر یا خیال یا دائرہ قول و عمل میں آتے ہیں۔

◇ جلے پر لون یا نمک چھڑکنا یا لگانا، جلے پھپھولے پھوڑنا، دل کے پھپھولے

پھوڑنا، جلی کٹی سنانا، جل اُٹھنا اسی سلسلہ کے محاورے ہیں

ہماری عام روش ہے کہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو خواہ مخواہ بھی اس سے اختلاف کرتے ہیں اسی کو جلے نال کے پھپھولے پھوڑنا کہتے ہیں۔ پھپھولوں کا جلنا محاورہ کی ایک اور صورت ہے جس کا اظہار اس شعر سے ہوتا ہے۔

دل کے پھپھولے جل اُٹھے سینہ کے داغ سے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

◇ جنگل میں منگل ہونا، جنگل میں مورنا چاکس نے دیکھا

جنگل ہماری تہذیبی زندگی کا ایک حوالہ ہے۔ ہندوستان اب سے کچھ زمانہ پہلے تک جنگلوں سے بھرا پڑا تھا یہ جنگل طرح طرح کے تھے پہاڑی جنگل بھی اور میدانی جنگل بھی۔ جنگل پر محاورے موجود ہیں جنگل آباد ہونا ایسے علاقہ کو جس میں کھیتی ممکن ہے کام میں لانے کے لیے کہتے ہیں کہ تمہارا جنگل آباد ہو جائے گا۔ جنگل کا تصور ویرانی کا تصور بھی ہے اس لیے جب میلے

ٹھیلے لگتے تھے اور طرح طرح کی دوکانیں اور کھیل تماشہ جنگل میں ہوتے تھے تو اس کو جنگل میں منگل ہونا کہتے تھے اس کا ہماری معاشرتی زندگی سے بھی ایک رشتہ ہے خانہ بدوش قبائل جنگلوں میں کچھ دنوں کے لیے آباد ہو جاتے تھے تو بھی جنگل میں منگل ہو جاتا تھا۔

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی آدمی ترقی کر کے بڑے عہدے پر پہنچے اور اس کے ہاتھ میں یہ ہوا کہ وہ بھلائی کر سکے تو اس کو اپنے وطن کو بھولنا نہیں چاہیے وطن والوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، نہ ہوا تو وہ مثل ہوگئی کہ جنگل میں مورنا چاکس نے دیکھا خوش ہونے والے تو وطن کے لوگ ہوتے ہیں انھی کے سامنے ترقیوں کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے۔

◇ جنم سدھر جانا، جنم جنم کی دوستی، جنم جنم کا پیر، جنم جنم کا ساتھ، جنم میں تھوکننا
ہندوستان کے لوگ پنہ جنم میں یقین رکھتے ہیں اسی لیے یہاں محاورے میں جنم جنم کا ذکر بہت آتا ہے کہ ایک ہی زندگی میں لگاتار جتنی زندگیاں ہوں گی اس میں یہ دوستی یہ محبت پایہ پتیر قائم رہے گا اس لیے کہ ہندو عقیدہ کے مطابق ایک جنم کے سنسکار دوسرے جنم میں بھی انسان کے ساتھ رہتے ہیں اسی لیے جنم جنم کی بات سامنے آتی ہے، ”جنم سدھرنا“ زندگی بہتر ہو جانے کے معنی میں آتا ہے اور اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پیدائش تو ایک برے ماحول میں ہوئی تھی لیکن حالات بدل گئے اور جنم سدھر گیا۔ ایک اور محاورہ اسی سلسلہ کا ہے اور معاشرہ کے اچھے برے رویہ کی طرف عجیب انداز سے اشارہ کرتا ہے۔ ”جنم میں تھوکننا“ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر تمہارے اخلاقی رویے اتنے ہی برے ہیں تو کوئی کیا تمہارے جنم میں تھو کے گا کیا کہے گا کہ تم کیا ہو تمہارے ماں باپ کیا تھے۔

◇ جو بن اُمنڈنا، یا اُبھرنا

”جو بن“ سنسکرت لفظ ”یون“ کا بدلا ہوا تلفظ ہے جوانی کے زمانہ کو ”یون“ کہتے ہیں اور اس کا اظہار انسان کے چہرے مہرے اور عضائے بدن کے تناسب سے ہوتا ہے، بعض لڑکے اور لڑکیاں اپنی جوانی کے زمانہ میں اتنے بھرپور ہوتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر جوانی پھٹتی پڑی ہے، جو بن چھایا ہوا ہے یا پھر جو بن طوفان کی طرح اُمنڈ رہا ہے یہ ایک احساسِ مسرت کی بات بھی ہوتی ہے اور اس پر رشک بھی کیا جاتا ہے۔ جوانی کا ڈھل جانا بھی ایک ایسی ہی کیفیت ہے جو ڈھلتے ہوئے دن یا ڈھلتی ہوئی رات کی مدہم کیفیت کی طرح ہوتی ہے جیسے کسی پودے درخت یا باغ کی بہار گذرگئی ہو اور خزاں کے آثار اس پر غلبہ پارہے ہوں۔

◇ جوڑ توڑ، جوڑ توڑ کرنا، جوڑ جوڑ یا جوڑ جوڑ کر مرجانا، جوڑ جوڑ کے دھرنا، جوڑ جوڑنا، جوڑ چلنا، جوڑ لگانا، جوڑ یا سجوگ

جوڑنا ایک دوسرے سے ملانا یا جوڑی لانا ایک دوسرے سے شادی کر دینا جیسے ”اللہ ملائی جوڑی“ کہتے ہیں مگر جوڑ کے ساتھ ہماری سماجی زندگی سے متعلق بہت سی باتیں جڑی ہوئی ہیں ان میں جوڑ جوڑ دکھنا بھی ہے جو تکلیف کی ایک صورت ہے، لیکن جوڑ توڑ ایک طرح کا سماجی عمل ہے آدمی اپنی غرض پوری کرنے کے لیے طرح طرح کے جوڑ توڑ کرتا ہے، جھوٹ سچ بولتا ہے، زمین آسمان کے قلابے ملاتا ہے، یہی سب باتیں جوڑ توڑ کے زمرے میں آتی ہیں تعلقات کی اچھائی برائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مگر اس کا استعمال ذہنی طور پر اچھے معنی میں نہیں آتا۔ ہاں ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ بہت جوڑ توڑ کا آدمی ہے اور اپنا کام نکالنا اسے خوب آتا ہے۔

”جوڑ جوڑ کر مرجانا“ ایک دوسرا عمل ہے جس کا تعلق پیسے کے خرچ اور اکٹھا کرنے سے ہے۔ جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ میاں جوڑ جوڑ کر مر جاؤ گے یعنی سب رکھا رہ جائے گا تمہارے کام نہ آئے گا۔ ”جوڑ جوڑنا“ جوڑ لگانے کے معنی میں آتا ہے اور اس سے سجوگ پیدا کرنا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ جبکہ ”جوڑے بننا“ شادی کے جوڑوں کو ایک خاص انداز سے طے کر کے رکھنے۔ اور ان میں سجاوٹ پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ ”جوڑی دار“ برابر کے ساتھی کو کہا جاتا ہے۔ ”جوڑے تقسیم ہونا“ بھی شادی بیاہ یا خوشی کے موقع کی ایک رسم ہے جس میں جوڑے دیے جاتے ہیں اور ان کا اپنا ایک سماجی اور رسمی انداز ہوتا ہے۔

◇ جوگر جتے ہیں وہ برستے نہیں

اگرچہ یہ بادلوں سے متعلق ایک بات ہے کہ جن بادلوں میں کڑک گرج زیادہ ہوتی ہے وہ اکثر بوند باندی بہت ہی کم کرتے ہیں۔ یہاں اس سے ایک معاشرتی یا سماجی نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں بناتے ہیں وہ کام کم سے کم کرتے ہیں اس لیے کہ کام کر نیوالے کو زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت اور فرصت نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارے سماج کا نسبتاً ایک نکما اور ناکارہ حصہ ہوتا ہے جس سے تعلق رکھنے والے لوگ باتیں زیادہ بناتے ہیں، دیکھا جائے تو باتیں بنانا اور کام کرنا ہماری سوسائٹی کے نہایت اہم مسائل ہیں اور انھی سے متعلق یہ گفتگو ہے جو محاورے کی شکل میں یا بطور "Comment" کے سامنے آتی ہے۔

◇ جونک پتھروں میں نہیں لگی

”جونک لگنا“ خود ایک محاورہ ہے۔ جونک پانی کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو کھال سے چمٹ جاتا ہے اور خون چوستا رہتا ہے اسی لیے محاورہ ہے کہ وہ تو جونک کی طرح لگ جاتے ہیں۔ مگر ایسے لوگ تو جو نہایت سخت دل، سخت طبیعت اور سخت مزاج ہوتے ہیں ان سے جونک کی طرح لگ کر بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ پتھر میں جونک لگتی ہی نہیں، جہاں خون ہوگا وہیں تو جونک چوسے گی پتھر میں اسے کیا ملے گا۔

◇ جی ہے تو جہان ہے (جان ہے تو جہان ہے)

اس محاورے کو ”جان ہے تو جہان ہے“ کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فرد کی اپنی اہمیت اور اس کی اپنی جائز فلاح و بہبود سے متعلق ایک سوچ ہے۔ اس کا استعمال دو موقعوں پر ہوتا ہے ایک کہ آدمی کی اگر صحت ہے وہ زندہ ہے اور بقول غالب۔

تنگ دستی اگر نہ ہو غالب

تندرستی ہزار نعمت ہے

یہی تندرستی جی ہے، جہان ہے اور یہی ہزار نعمت، دنیا جہان کی خوشیاں ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی سوچتے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم ہی نہ ہوں گے تو دنیا کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا جی ہے گویا جہان ہے۔

ردیف _____ بچ

◇ چادر اُترنا یا اُتارنا

چادر ہمارے یہاں احترام کی علامت ہے اور ہماری کئی سماجی رکیں ہیں جو چادر کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارے سماجی مسائل اور معاملات میں چادر کے کیا معنی ہیں۔ چادر اوڑھانا، چادر ڈالنا، چادر پیش کرنا۔

ہم جب بزرگانِ دین کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں تو مزار پوشی کے لیے چادر پیش کرتے ہیں، کپڑے کی چادر کے علاوہ پھولوں کی چادر بھی پیش کی جاتی ہے خاص طور پر مزارات اولیا کی مزار پوشی کے لیے، پھولوں کی چادر بھی چڑھائی جاتی ہے۔

چادر اُترنے کے معنی ہوتے ہیں عزت کے سایہ کا ختم ہو جانا۔ خاندان کے بعض لوگ

خاندانی عزت کا سبب ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کنبہ کا وقار بنا رہتا ہے اور جب وہ نہیں رہتے تو یہ کہا جاتا ہے کہ خاندان کی چادر اتر گئی۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ چادر عزت و وقار کے لیے ایک علامت ہے۔

◇ چار آنکھیں ہونا یا چار چشم ہونا

جب آدمی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور آنکھ ملا کر دیکھتے ہیں تو اس کو چار آنکھیں ہونا کہتے ہیں۔ آنکھیں چار ہو گئیں یعنی ان کو دیکھا ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے مقابلہ میں ”چار آنکھوں کی ہونا“ ایک دوسرا محاورہ ہے۔ اور اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کہ وہ تو چار آنکھوں کی ہو رہی ہیں۔ چار چاند لگنا، خوبصورتی آجانا کہ اس سے تو کتاب کو اس کی شخصیت کو یا اس عمارت کو چار چاند لگ گئے۔

ایک ہی چاند ٹپکے، جھومر یا خوبصورتی پیشانی کے باعث اگر اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کو نیوفون کہتے ہیں تو چار چاند لگنے پر حسن کتنا دو بالا ہو جاتا ہے چار ابرو کا صفایا مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں جب سر کے بال بھنوائیں، مونچھیں اور داڑھی سب کو استرے سے موٹڈ دیا جاتا ہے تو اسے چار ابرو کا صفایا کہتے ہیں۔

ہندوؤں میں موت کی رسموں کے سلسلے میں ایک رسم یہ بھی ہے کہ میت کا بڑا بیٹا اپنی چار ابرو کی منڈوائی یا صفائی کروا دیتا ہے یہ دہلی اور لکھنؤ کے بانکوں کی ایک ادا بھی رہی ہے کہ وہ چار ابرو کا صفایا کروا دیں اس معنی میں چار کا عدد ایک تہذیبی اہمیت بھی رکھتا ہے اور ہمارے معاشرے کی مختلف روشوں پر اس سے روشنی بھی پڑتی ہے۔ چار چندے اگلی ہے یعنی چار گنا اچھی ہے یہ بھی اسی سلسلے کا ایک محاورہ ہے۔ چار یا بھئی محاوراتی سطح پر استعمال ہوتا ہے۔

◇ چال چلنا، چال میں آنا

چال چلنے سے بنا ہوا ایک محاورہ ہے۔ چال دکانوں اور مکانوں کے ایک خاص طرح کے سلسلہ کو بھی کہتے ہیں یہ خاص طور پر ممبئی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن چال شطرنج کی ایک اصطلاح بھی ہے اور شاید وہیں سے چال چلنا اُردو کا محاورہ بنا۔ اس کے معنی ہیں دوسروں کو شکست دینے کے لیے کوئی ترکیب استعمال کرنا۔ شکست دینے کے معنی راستہ روک دینا بھی ہے، مات کرنا بھی اور مات دینا بھی یعنی ہرا دینا۔ چال میں آجانا اسی سلسلے کا محاورہ ہے یعنی دوسرے کی مکاری اور چالاکی کے پھندے میں پھنسا اسی کو چال میں آجانا کہتے ہیں۔ اگر دیکھا

جائے تو یہ دونوں محاورے ہماری سماجی زندگی میں ایک خاص کردار ادا کرتے ہیں اسی کو چال بازی کہتے ہیں۔ چال ڈھال ایک الگ صورت ہے جس سے آدمی کی شخصی یا سماجی پہچان ہوتی ہے۔

◇ چاندنی مار جانا

اصل میں ہمارا سماج تو ہم پرستی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جوان اور خوبصورت لڑکوں اور لڑکیوں کو چاندنی میں کوٹھے یا کھلے صحن میں تنہا سونے نہیں دیتے اور یہ خیال کرتے ہیں اور چاند کی چاندنی ان پر جادو کر دے گی، کوئی جن، بھوت ان پر عاشق ہو جائے گا کہ یہ اپنے طور پر پاگل ہو جائیں گے۔ (LUNATIC) لیونیک پاگل کو کہتے ہیں اس سے مراد چاندنی مار جانا اور دیوانہ ہو جانا ہے ویسے چاندنی مار جانا گھوڑوں کی بھی ایک بیماری ہے اور انسانوں کی بھی۔

◇ چائیں چائیں مچانا یا لگانا

جب آدمی بہت بولتا ہے اور چڑیوں کی طرح برابر چہکنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے چڑھ چڑھ کے باتیں کرنا کہتے ہیں یہ گویا سماجی طور پر ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ”چڑھ چڑھ کے باتیں کرنا“ اسی نسبت سے ایک اور طریق گفتگو ہے جس کو عام طور سے ناپسند کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑھ بڑھ کر یا چڑھ چڑھ باتیں کرتا ہے۔

چڑھ جانا بھی ایک نفسیاتی عمل ہے کہ آدمی کچھ باتوں یا کاموں کو ناپسند کرے اور جب وہ ہوتے رہیں تو ان سے چڑ جائے اور بات نہ کرنا چاہے ایسے آدمی عام طور پر بد مزاج خیال کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چڑے ہوئے آدمی ہیں اور چڑی چڑی باتیں کرتے ہیں۔

◇ چراغ بتی کرنا چراغ بتی کے وقت، چراغ جلے، چراغ بڑھانا، چراغ کو ہاتھ دینا، چراغ ٹھنڈا، خاموش، یا گل کرنا، چراغ پا ہونا، چراغ رخصت ہونا، چراغ سحری، چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ تلے یا نیچے اندھیرا

چراغ پر ہمارے بہت سے محاورے ہیں جو اس عمل پر روشنی ڈالتے ہیں کہ چراغ ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ”چراغ بتی کرنا“ گھر کا انتظام اور کام سنبھالنا ہے تاکہ شام ہو تو کوئی چراغ روشن کر دے۔ اس لیے کہ عام طور سے گھروں میں ایک ہی چراغ ہوتا تھا اور غربت کے عالم میں تو اس ایک چراغ کے لیے بھی بتی اور تیل کا انتظام نہیں ہوتا تھا، چراغ بتی کہاں سے ہوتی۔ بڑی بڑی دباؤں یا غارت گروں کے حملوں کے بعد کبھی کبھی ساری ساری

بستی میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ جس پر کہا جاتا تھا کہ بستیاں بے چراغ ہو گئیں۔

”چراغ بجھنا“ اولاد سے محروم ہو جانا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹا گھر کا چراغ ہوتا ہے۔ ”چراغ جلنا“ بھی محاورہ ہے اور گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگنا بھی۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب گھر کا اپنا کوئی آدمی نقصان پہنچاتا اور تباہی و بربادی پھیلاتا ہے۔ ”چراغ سے چراغ جلنا“ ایک شخص کی نیکی، ذہانت اور شرافت کا اثر دوسرا شخص قبول کرے وہی چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ ایک نے دوسرے کو بڑھایا اور دوسرے نے تیسرے کو یہی گویا چراغ جلنا ہوا اور سماج کی وہ نیکی اور بھلائی کہ ایک آدمی سے دوسرا آدمی کوئی سبق سیکھے، کوئی روشنی حاصل کرے۔ کبھی کبھی کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو تمام کنبے، خاندان، بستی، یا شہر کے لیے شہرت یا عزت کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ شہر کا چراغ ہے۔ غالب کے مرثیہ میں حالی نے کہا تھا۔

شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا

چراغ روشن مراد حاصل ایک دعا ہے کہ چراغ روشن ہوگا تو گویا مرادیں حاصل ہوں گی۔ چراغاں ہمارے یہاں خوشی کے موقع پر بہت سے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ اس کو چراغاں کہتے ہیں۔ دیوالی پر یا عرس کے موقع پر یہی چراغاں تو کیا جاتا ہے۔ ہندووانی رقص ایک وہ بھی ہوتا ہے جو چراغوں کی تھالی سر پر رکھ کر کیا جاتا ہے اس کو رقص چراغ کہتے ہیں۔ بعض مندروں خانقاہوں اور مزارات پر بہت سے چراغ جلانے کے لیے مینار بھی تعمیر کیے جاتے ہیں جسے چراغ مینار کہتے ہیں۔

◇ چشم پوشی کرنا

چشم سے متعلق ہمارے ہاں بہت سے محاورے ہیں ان میں چشم نمائی، چشم بددور، چشم بیمار جیسے ترکیبی محاورے شامل ہیں۔ مثلاً چشم بیمار ایک شاعرانہ اندازِ نظر ہے خماری آنکھیں، چشم نیم بار یا چشم نیم خواب جن آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کو محاورہ چشم بیمار بھی کہا جاتا ہے۔ غالب اپنے ایک دوست اور شاگرد میرن صاحب کی آنکھوں کو چشم بیمار کہتے تھے اس سلسلے میں یہ تشریح بھی آئی ہے کہ خماری آنکھوں کی آنکھوں پر معشوقوں کی آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس سے ہمارے معاشرے کی تہذیبی سطح کا بھی شاعرانہ اظہار ہوتا ہے۔

”چشم نمائی کرنا“ طنزیہ انداز سے کوئی فقرہ کہنا اور آنکھوں کا اشارہ کرنا چشم نمائی

کہلاتا ہے۔ ایسا ہی ایک ترکیبی محاورہ انگشت نمائی ہے۔ چشم پوشی تہذیبی اعتبار سے غیر معمولی محاورہ ہے جب ہم دوسروں کی طرف سے کوئی برائی دیکھتے ہیں اور اس پر کوئی اختلاف پیدا کرنا بھی نہیں چاہتے تو اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کو چشم پوشی اختیار کرنے سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ نہایت اہم معاشرتی رویہ ہے جو وقتاً فوقتاً اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ اختلافات کو آگے بڑھنے سے روکا جائے اور اس امر کی شعوری کوشش کی جائے تاکہ تعلقات میں کوئی بدمزگی یا بدنمائی پیدا نہ ہو۔

◇ چمک چاندنی

چاندنی کے ساتھ روشنی اور نور کا تصور وابستہ ہے چمک دمک کا نہیں۔ ایسی عورت جو بہت چمک دمک سے رہتی ہے اور غیر ضروری طور پر سنگار پٹار کرتی ہے وہ معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کو ایک طرح پر فاحشہ عورت تصور کرتے ہیں۔ اس نسبت سے یہ محاورہ ہماری معاشرتی فکر اور انداز نظر کی ترجمانی کرتا ہے۔

◇ چندے آفتاب، چندے ماہتاب، چودھویں رات کا چاند

جو آدمی دوسروں کی نظر میں بہت قبول صورت اور پرکشش ہوتا ہے اس کو بطور تعریف کہتے ہیں کہ وہ چندے آفتاب و چندے ماہتاب ہے جس کہ یہ معنی ہیں کہ وہ چاند سورج کی طرح دل آویز ہے اور نگاہوں کو فرحت بخشنے والا ہے۔ چاہے انھیں کسی وقت بھی دیکھا جائے رات کو دن کو صبح کو شام کو وہ ہر وقت اور ہر حالت میں خوش منظر ہیں، خوبصورت ہیں۔ اس سے معاشرے کی خوش ذوقی اور زبان کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی کہ ہمارے یہاں مبالغہ آرائی کو حسن بیان سمجھا جاتا ہے اور اسی سے ہماری شاعری اور دوسرے فنون لطیفہ کی مقصدیت اور "Approach" سامنے آتی ہے۔ "چودھویں رات کا چاند ہونا" اسی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔

◇ چور کی داڑھی میں تنکا چور محل، چوری اور سینہ زوری یا چوری اور سینہ زوری، چوری چوری، چوری چھپے، چور کی ماں کوٹھی میں سردیوے۔ اور رووے چورنی دیدہ، چوری چنکاری یا چوری چاری

چوری چکاری یا چوری چاری ہمارے بہت بڑے سماجی عیبوں میں سے ہے۔ اس سے چوری چھپے بہت سے بڑے لوگ اپنے ساتھیوں یا غیر ساتھیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور

اس طریقہ سے سماج میں ناہمواریوں اور عیب دار یوں کو رواج دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اسے پہچانتے یا اسے جانتے نہ ہوں۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایسے محاورے رائج ہوئے کہ چور چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ چوری کا عیب اگر آدمی کی فطرت میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ایک سطح پر یہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور وہ اسے کہیں نہ کہیں موقع پا کر اپنے حق میں استعمال کرتا ہے۔ اور لوگ قیافے اور قیاس سے یہ پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ کام کس کا ہے اسی وقت کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے جو مجرم ہوتا ہے وہی چھپاتا پھرتا ہے اور اپنی حرکات سے سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔

چور محل امرا کے محل کا وہ حصہ ہوتا جہاں چوری چھپے کسی کو رکھا جاتا ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے اس کو ایک موقع پر فسانہ عجائب میں استعمال بھی کیا ہے کہ امرا کے چور محل نہیں ہو پاتے تھے۔ چورنی دیدہ ایسی لڑکی یا لڑکا کہلاتا ہے جو چوری چھپے دوسروں کو تا کتا جھانکتا رہتا ہے۔ چور پکڑنا بھی اسی نوعیت کا محاورہ ہے کہ بیماری تکلیف یا رویہ کا اگر سبب نہیں معلوم ہوتا تو کسی نہ کسی ذریعہ یا وسیلہ یا قیاس یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ برائی یہاں ہے اسی کو چور پکڑنا کہتے ہیں۔ ان محاوروں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ سماج کس طرح اپنے انداز پر غور کرتا ہے، کمٹ کرنا ہے اور کسی عمل یا رد عمل پر اپنے تبصرہ کو محاورے یا ذہانت سے بھرے تبصرے کی صورت میں سامنے لاتا ہے۔

◇ چوڑیاں پہنانا، چوڑیاں پہننا، چوڑیاں ٹھنڈی کرنا

چوڑیاں ہندوستان کی عورت کا خاص زیور ہے۔ چوڑیاں کانچ کی بھی ہوتی ہیں، لاکھ کی بھی، سونے چاندی کی بھی اور کم درجہ کے کسی میٹرل کی بھی۔

چوڑیوں کے ساتھ ہمارے محاورے بھی وابستہ ہیں مثلاً چوڑیاں بجنا، چوڑیاں پہنانا، چوڑیاں پہننا، اس کے علاوہ چوڑیاں بڑھانا، چوڑیاں ٹھنڈی کرنا، چوڑیاں اتارنا، چوڑیاں توڑنا، اور ان سب محاوروں کا رشتہ ہماری تہذیبی اور سماجی زندگی سے ہے۔ مثلاً چوڑیاں بجنا سہاگ کی اپنی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔

”چوڑیاں پہنانا“ شادی کرنے کی ایک رسم بھی ہے۔ جس طرح چادر ڈالنا ایک رسم ہے اسی طرح چوڑیاں پہنانا ہے یعنی جس کے نام سے جو چوڑیاں پہنائی جائیں گی لڑکیاں یا عورتیں اس کی دلہن یا بیوی بن جائیں گی۔

”چوڑیاں پہننا“ اسی نسبت سے بیوی بننے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تم چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ مردوں کے لیے طعنے کے طور پر کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ چوڑیاں پہننا عورتوں کا کام ہے مرد اگر چوڑیاں پہنتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بزولی کا ثبوت دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور محاورہ بھی ہے کہ بنگا پہنا دوں گی، گاؤں والے چوڑی بنگڑی کہتے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ تجھے چوڑیاں پہنا دوں گی بز دل اور شکست خوردہ بنا دوں گی وغیرہ۔

اب ان محاوروں کے مقابلے میں چوڑیاں بڑھانا یا ٹھنڈی کرنا بیوہ ہو جانے کی ایک علامت ہے۔ جب کوئی عورت سہاگن نہیں رہتی تو اس کی چوڑیاں اُتار دی جاتی ہیں تو اس کو چوڑیاں بڑھانا کہتے ہیں اور اگر کانچ کی چوڑیاں توڑ دی جائیں تو اس عمل کو ”چوڑیاں ٹھنڈی کرنا“ کہتے ہیں۔ جب چراغ اور شمع کو بجھایا جاتا ہے تو اسے بھی چراغ ٹھنڈا کرنا یا شمع ٹھنڈی کرنا کہتے ہیں۔ بیخود دہلوی کا شعر ہے۔

مجھکو ہے بیخود نہ سمجھ خوب سمجھتا ہوں تجھے
شمع میرے ہی جلانے کو تو ٹھنڈی کر دی
(بیخود دہلوی)

اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ محاورہ ہماری معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی کس کس طرح ترجمانی کرتا ہے۔

◇ چولی دامن کا ساتھ

چولی دامن، قمیض، گرتے یا ساڑھی کے پلو سے متعلق دو ایسی اصطلاحیں ہیں جو ایک سے زیادہ معنی دیتی ہیں اور جب وہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتی ہیں تو ان سے بہت گہری باتوں یا رشتوں کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور اس سے مراد مرد اور عورت کا گہرا تعلق ہوتا ہے جو سماج کی باہمی قربتوں کو ظاہر کرتا ہے۔

◇ چھاتیاں چڑھنا، چھاتی بھر جانا

عورتوں کے خاص محاورات ہیں اور ان کا تعلق بچے کے دودھ پینے یا نہ پینے سے ہے جب پستان دودھ سے بھر جاتے ہیں اور بچہ دودھ نہیں پیتا اور انھیں چھاتیوں کا چڑھنا یا بھر جانا کہتے ہیں۔

◇ چھاتی پر پتھر رکھنا، چھاتی پر سانپ لوٹنا، چھاتی پر مونگ دلنا، چھاتی میں گھونسہ مارنا، چھاتی پکنا، چھاتی پیٹنا، کوٹنا، چھاتی سے لگانا، چھاتی تلے رکھنا، چھاتی ٹھکنا، چھاتی ٹھنڈی کرنا یا ہونا، چھاتی جلنا، چھاتی چھلنی ہو جانا، چھاتی دبانا یا لینا، چھاتی دھڑکنا، چھاتی نکال کر یا ابھار کر چلنا

چھاتی یا سینہ مرد یا عورت کے لیے شخصیت کے اظہار یا سماجی افکار و اعمال میں خاص کردار ادا کرتا ہے۔ عورتوں کی شخصیت میں اس سے جمال کا اظہار ہوتا ہے اور مرد کی شخصیت میں جلال کا جس سے مراد عورت پن اور مردانہ وجاہت ہے۔ اسی لیے چوڑا سینہ یا بھرا سینہ یا بھرا سینہ قابل تحسین یا لائق تعریف باتیں خیال کی جاتیں ہیں۔

چھاتی سے لگانا یا چھاتی پھٹنا یا چھاتی کے سائے میں رکھنا محبت اور شفقت کی باتیں ہیں۔ چھاتی سے لگائے رکھنا بھی اسی زمرہ میں آتا ہے۔ ”چھاتی ٹھنڈی ہونا“ سکون ملنا ہے اسی لیے دعادی جاتی ہے کہ اللہ پاک چھاتی ٹھنڈی رکھے۔

نفرت اور دشمنی کے جذبات بھی سینہ سے وابستہ کیے جاتے ہیں۔ جیسے چھاتی پر گھونسا مارنا یا چھاتی پر مونگ دلنا یا چھاتی جلنا، چھاتی کو ٹناتم کے لیے آتا ہے۔ چھاتی پیٹنے سے بھی یہی مراد ہے۔

چھاتی پر بال ہونا مرد کی خوبی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے خون میں آرن ہونے کی ایک علامت ہے مگر عورت کے لیے نہیں اب عام طور پر مہذب سوسائٹی میں چھاتی پر بال ہونے کا ذکر بھی نہیں آتا۔ دیہات اور گاؤں کی بات الگ ہے۔

جب بہت زخم مل جائیں اور کسی طرف سے طعنہ و تشنیع برابر جاری رہے گویا تیروں کی بارش ہوتی رہے تو محاوروں کے طور پر زخم پڑنا یا چھاتی چھلنی ہونا استعمال کیا جاتا ہے۔ بچہ کی طرف سے دودھ پینے کی عمل میں عورتوں کے محاورے کے لحاظ سے چھاتی دبانا بھی شامل ہے۔ جنسی اور جذباتی روش میں بھی یہ محاورہ آتا ہے۔ چھاتی ابھار کر یا نکال کر چلنا ایک طرح کا سماجی اور نفسیاتی طرز عمل ہے جس میں اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کا رویہ شامل ہوتا ہے۔ چھاتی چوڑی کرنے کا انداز بھی دراصل محاورتا اپنی شخصیت کا اظہار ہے۔

◇ چھٹی کا دودھ یاد آنا

ہمارے یہاں بچہ کی پیدائش سے متعلق بہت سی رسمیں ہیں ان میں سے ایک چھٹی کی

رسم بھی ہے جو بچے کی پیدائش سے چھ دن بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس میں دودھ دھلائی کی رسم شامل ہے جس میں بہنوں یا نندوں کو ننگ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔

جب کوئی شخص مصیبت میں پڑتا ہے یا تکلیف اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ گیا یعنی اچھے دن یاد آ گئے بہت پرانی بات یاد آ گئی۔ پرانی بات یاد آنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا اہم چھٹی کا دودھ ہے کہ اس کا تعلق سماجی رسم سے ہے۔

◇ چہرہ لکھنا، چہرہ بندی کرنا

اصل میں چہرہ لکھنا حیوانات سے متعلق ایک طریقہ ہے کہ جب ان کو خریدایا فروخت کیا جاتا ہے تو ان کا چہرہ لکھ لیا جاتا ہے یعنی سینگ ہیں یا نہیں، دم کٹی ہوئی تو نہیں ہے، دانت کیسے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح چہرہ لکھنے کا رواج ان لوگوں کے بارے میں بھی رہا ہے جو کسی کی ملازمت میں آتے ہیں۔

چہرہ بندی مرثیہ کے تمہیدی حصے کو کہتے ہیں یہ مرثیہ نگاری ہی کی ایک اصطلاح ہے۔ بہر حال چہرہ لکھنا ایک طرح کا شناخت نامہ تیار کرنا ہے جو ہماری سماجی زندگی میں ایک نہایت ضروری کارگزاری ہے۔

◇ چھکے چھوٹ جانا

چھکا آج بھی کرکٹ کے رشتہ سے ہمارے لیے ایک خاص لفظ ہے اس سے پہلے چھکے چھوٹ جانا استعمال ہوتا تھا۔ جس کے معنی ہوتے تھے کہ اس کے پانچوں حواس اور چھٹی جس غائب ہوگئی، اوسان خطا ہو گئے، ہوش حواس گم ہو گئے۔ یہ ایسے وقت کے لیے کہتے ہیں جب کسی ناقابل برداشت صورت حال سے آدمی دوچار ہوتا ہے۔ اور کچھ سوچ نہیں پاتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔

◇ چھلنی میں ڈال کر چھاج میں اڑانا

چھلنی اور چھاج ہماری معاشرتی زندگی کے دو اہم حوالہ رہے ہیں، ایک میں چھانا جاتا ہے اور ایک میں پھٹکا جاتا ہے۔ پھٹکنے کا عمل ایک طرح سے حواس اڑانے کا عمل بھی ہے۔ اور بات اڑانا، افواہ اڑانا، مزہ اڑانا ہمارے ہاں سماجی رویوں میں شامل ہے۔ اسی کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا جاتا ہے کہ چھاج میں رکھ کر اڑا رہے ہیں اور چھلنی میں چھان رہے ہیں۔ ایک طرف باریکیاں نکال رہے ہیں اور دوسری طرف مذاق اڑا رہے ہیں اور بدنامی پھیلا رہے ہیں۔

◇ چہ میگوئیاں

ہمارے معاشرے میں خواہ مخواہ کی باتیں کرنے کا بہت رواج ہے غیر ضروری طور پر بھی ہم کیمنٹ (تبصرہ) کرتے رہتے ہیں اور باتوں کا چرچا کرتے ہیں اسی کو چہ میگوئیاں کہتے ہیں کہ وہاں بہت چہ میگوئیاں ہوتی ہیں لوگ اپنی اپنی سوچ مزاج اور ماحول کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔

◇ چھوٹا منہ بڑی بات

ہر آدمی کو اپنی حیثیت اپنے حالات اور ماحول کے مطابق سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا اور لوگ اکثر اس کا خیال نہیں کرتے تو ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کے منہ پر پھبتی نہیں ہے یا ان جیسے کسی آدمی کی زبان سے اچھی نہیں لگتیں۔ اسی موقع پر کہتے ہیں ”چھوٹا منہ بڑی بات“ یعنی تمہارا منہ اس لائق نہیں ہے کہ تم اس طرح کی یا اس سطح کی باتیں کرو۔

اس سے سماجی آداب و رسوم کا پتہ چلتا ہے۔ کہ کس کو کیا بات کرنی چاہیے اور اگر معاشرے کی سوجھ بوجھ کی سطح گر جاتی ہے تو پھر کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔

◇ چھوٹی موٹی

ایک پودے کا نام بھی ہے جو اس اعتبار سے بہت نرم و نازک پودا ہے کہ جیسے ہی اس کو ہاتھ لگا وہ مرجھایا ہوا نظر آنے لگتا ہے یہ غیر معمولی طور پر حساس ہونے کی ایک صورت ہے اور ایسے لوگوں کی یا ان کی طبیعتوں کی چھوٹی موٹی سے نسبت دیتے ہیں اور ایسی لڑکیوں کو خاص طور پر چھوٹی موٹی کہا جاتا ہے جو ذرا سی بات پر برامان جاتی ہیں یا ذرا ہوا چلنے یا ٹھنڈ لگنے یا گرمی کا اثر ہو جانے پر بیمار ہو جاتی ہیں، یہ گویا سماج کا گہرا طنز ہے جو ایسے لوگوں پر کیا جاتا ہے جو مزاج کے بہت نازک ہوتے ہیں۔

◇ چھینٹا دینا، چھینٹا پھینکنا

ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ عام طور سے جب کسی پر اعتراض کیا جاتا ہے یا چٹکی لی جاتی ہے تو اسے چھینٹا پھینکنا یا دینا کہتے ہیں یہ بھی ایک سماجی روش ہے۔ لیکن چھینٹا دینے کے ایک معنی ایک خاص طرح کی رسم بھی ہے جب کوئی بچہ بیماری سے اٹھتا ہے اور صحت یاب ہوتا ہے تو اسے غسل صحت سے پہلے چھینٹا دیا جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیم کی ٹہنی کو پانی میں بھگوایا جاتا ہے اور پھر اس سے بیماری سے شفا یاب ہونے والے کو چھینٹا دیتے ہیں۔

پکانے کے سلسلے میں بھی یہ محاورہ کام میں آتا ہے اور ایک خاص وقت میں روٹی یا

سالن کو پانی کا چھینٹا دیا جاتا ہے، پراٹھے اور چاولوں کو بھی خاص طور پر چھینٹا دیتے ہیں۔ چھینٹے اڑانا بھی اسی سلسلہ کا ایک محاورہ ہے۔

◇ چیتھڑے بکھیرنا یا اڑانا، چیتھڑے چیتھڑے کر دینا

معروف محاورات میں سے ہے چیتھڑے ایسے کپڑوں کو کہتے ہیں جو گھس کر پھٹ گئے ہوں بالکل جھری جھری ہو گئے ہیں جسے مغربی یوپی میں ”جھیر جھیر ہونا“ یا ”لیر لیر ہونا“ بھی کہتے ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بات کو کسی پروگرام کو یا عزت آبرو کو بری طرح خاک میں ملا دینا۔ کسی خیال کی شدید مخالفت کرنا کہ اس نے فلاں بات فلاں دعویٰ یا دلیل کے چیتھڑے اڑا دیے سماج میں اس طرح کی صورت حال کا پیش آنا بہت بے عزتی کی بات ہوتی ہے اور ایسے ہی موقعوں پر کہتے ہیں کہ اس کے چیتھڑے اڑ گئے اور بات بگڑ گئی۔

◇ چیل کی طرح منڈلاتے پھرنا، یا چیل کووں کی طرح منڈلانا

جب آدمی کو کسی بات کا لالچ ہوتا ہے تو وہ اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ کب اور کس سے کیا جھپٹ لے۔ ”چیل جھپٹا“ بچوں کا ایک کھیل بھی ہے اور چیل کی طرح جھپٹا مارنا اور موقع سے فائدہ اٹھانا سماج کا ایک رویہ بھی ہے۔ اور چیل جھپٹا مارنے سے پہلے منڈلاتی ہے چکر لگاتی ہے۔ اسی لیے چیل کووں کی طرح منڈلانا بھی کہتے ہیں جو کسی کے لالچی طریقہ کا کپڑا ایک طرح کا طنز ہوتا ہے اور ہمارے زیادہ محاورے اگر دیکھا جائے تو طنز اور تبصرہ ہی ہوتے ہیں۔

◇ چیس بولنا یا بلوانا

عجیب و غریب محاورہ ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کو بے طرح دبا دینا کہ وہ پناہ مانگنے پر مجبور کر دینا۔ یہ جانداروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور غیر جانداروں کے لیے بھی جیسے ایسی موسلا دھار بارش ہوئی یا طوفانی مینہ برسا کہ اچھی اچھی عمارتیں چیس بول گئیں یا انھوں نے اس بری طرح ان کی خبر لی کہ وہ چیس بولنے پر مجبور ہو گئے یا ان سے چیس بلوادی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہمارے سماجی رویوں پر بھی تبصرہ ہیں۔ کبھی اتنی زور زبردستی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے اس صورت حال کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔

◇ چیونٹی کے پر نکلے ہیں

یہ محاورہ بھی بہت دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ چیونٹی کا ذکر تو ہمارے روایتی قصوں میں آتا رہا ہے لیکن ”چیونٹی کے پر نکل آنا“ ایک بڑے طنز کا درجہ رکھتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جب

چیونٹی کی موت قریب آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں یہ ایک طرح پر خطرہ کا اعلان بھی ہے۔ لیکن اس سے ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے ہی مفہوم کو اخذ کیا کہ اب چیونٹی کے بھی پر نکل آئے وہ بھی اڑنے لگی اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نادانستہ اپنے لیے نقصان اور تباہی کے راستہ پر بڑھ رہی ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے محاوروں میں کیا کچھ کیا گیا ہے اور کیسی کیسی صورت حال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

رویف _____ ح

◇ حاشیہ چڑھانا

حاشیہ کسی عبارت کے سلسلے میں ذیلی تحریروں کو کہتے ہیں۔ بعض کتابیں حاشیہ ہوتے ہوئے بھی مستقل کتابوں کے درجہ میں آ جاتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ حاشیہ چڑھانا یا حاشیہ لگانا ایک طرح کا مجلسی رویہ ہے کہ بات کچھ نہیں ہوتی اس کو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی کو ”حاشیہ چڑھانا“ کہتے ہیں اور ”حاشیہ لگانا“ بھی کم و بیش اسی معنی میں آتا ہے۔

◇ حاضری دینا یا حاضری میں کھڑا رہنا

یہ درباری آداب کا حصہ ہے۔ بزرگانِ دین کے مزارات کو جانے کو حاضری دینا کہتے ہیں۔ نوکری بجانا دہلی کا ایک محاورہ ہے اس کے معنی بھی کسی رئیس یا ادارے کی ملازمت کو پوری توجہ اور محنت سے انجام دینا۔

”حاضری میں کھڑا رہنا“ تا بعداری ہے، اطاعت ہے، پرانے زمانے میں عبادت بھی کھڑے ہو کر ہی کی جاتی تھی اسی لیے حاضری دینے کے معنی کسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے رہنے کے ہیں اور اس سے ایک طبقہ کے سماجی رویوں کا پتہ چلتا ہے۔

◇ حرام موت مرنا

”حرام“، ”حلال“ کے مقابلہ کا لفظ ہے یعنی جائز کے مقابلہ میں ناجائز حرام کی کھانا۔ حرام کی روزی، حرام کا پیسہ، حرام کی کمائی سب اسی ذیل میں آتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ حرام موت مرنے سے کیا فائدہ تو اس سے مراد ہوتی ہے خواہ مخواہ جان دینا، بڑا نقصان اٹھانا ہے۔ ایسے

موقعوں پر سماج والے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو حرام موت مرا ہے۔ خودکشی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حرام موت ہے مگر اس میں کوئی طنز یا تعریف شریک نہیں ہے جس طرح حرام موت مرنے میں ہے۔

◇ حرف آنا، حرف اٹھانا، حرف آشنا، حرف بنانا، حرف پکڑنا، حرف لانا

”حرف“ بات کو کہتے ہیں اور جس طرح بات کے ساتھ بہت سے محاورے وابستہ ہیں جیسے ”حرف رکھنا“ اعتراض کرنا۔ ”حرف اٹھانا“ تھوڑا بہت پڑھنے کے لائق ہو جانا۔ حرف شناسی بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ ”حرف پکڑنا“ غلطی پکڑنے کو کہتے ہیں، ”حرف لانا“ بھی اسی معنی میں آتا ہے اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ الفاظ کا استعمال سماج کی سطح پر کس طرح اپنے معنی اور معنویت کو بدلتا رہتا ہے۔ اس میں نئے نئے پہلو پیدا ہوتے رہتے ہیں اور نئی نئی شاخیں پھوٹی رہتی ہیں۔

◇ حشر توڑنا یا برپا کرنا، حشر دیکھنا، حشر کا دن ہونا، حشر کا ساہنگامہ ہونا

”حشر“ قیامت کو کہتے ہیں اور ”حشر“ کے معنی طرح طرح کے فتنے اٹھنا، اور ہنگامہ برپا ہونا ہے۔ اسی لیے حشر کے لغوی معنی کے علاوہ محاوراتی معنی بھی سامنے آتے ہیں۔ محشر بھی حشر کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی بعض محاورات وابستہ ہیں اور اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لفظوں کے ساتھ معاشرتی اور تہذیبی ماحول میں کیا کیا تصورات اور تاثرات وابستہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور زبانِ فکر و خیال کی کن کن راہوں سے گزرتی ہے۔ حشر کا دن کیونکہ قیامت سے وابستہ ہے اس لیے مسلمان حشر کے ساتھ فتنہ اور ہنگامہ کا لفظ وابستہ نہیں کرنا چاہتے اگرچہ یہ محاورہ خود اسلامی کلمچر سے وابستگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

◇ حلق بند کرنا، حلق چوں کرنا، حلق دبانا

”حلق“ گلے کو کہتے ہیں۔ آدمی کی آواز بند کرنے کے لیے اس کا منہ دبا دیا جاتا ہے، گلا دبا دیا جاتا ہے، اسے خاموش کیا جاتا ہے۔ یہ مجرمانہ انداز سے بھی ہوتا ہے کہ قاتل چور اور ڈکیت ایسا کرتے ہیں۔ سماجی اور سیاسی زندگی میں بھی کسی کی آرزو دبائی جاتی ہے اس کو محاورتا گلا دبانا بھی کہتے ہیں۔ اور قصبہ کی زندگی میں یہ محاورہ کسی کو خاموش رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اپنے حلق چوں اور اس کی آواز کوئی نہ سنے اس کی کوشش کی جاتی ہے، حلق سے جب آواز نکالی جاتی ہے تو وہ زیادہ قوت سے ابھرتی ہے، حلق سے باہر آتی ہے، اسی لیے جو لوگ یا بچے روتے وقت زیادہ زور سے آواز نکالتے ہیں ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حلق سے روتے ہیں اسی مناسبت سے ”حلق چوں کرنا“ اور حلق دبانے کا محاورہ آتا ہے۔

◇ حور کا بچہ

”حور“ اور ”پری“ ہمارے ہاں خوبصورتی اور حسن کا آئیڈیل ہے جب کسی کو بہت خوبصورت ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اس کو پری رو، پری چہرہ، پری تمثال اور پری کا نمونہ کہا جاتا ہے کہ آخری لفظ ظنر اور تعریض کے طور پر بھی کسی کم صورت یا بد صورت آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حور کا بچہ کسی خوبصورت بچے یا بچی کے لیے یا زیادہ سے زیادہ کسی حسین مرد یا عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب کہ پری اولاد ہوتی ہے نہ حور کے ماں باپ ہوتے یہ آئیڈیل ہیں آئیڈیل یعنی ان کا رشتہ تخلیق سے وابستہ نہیں ہوتا۔

رُویف ___ خ

◇ خار رکھنا، خار گزرنا

”خار“ کانٹے کو کہتے ہیں اور کانٹے کی خصوصیت چبھنا اور شدید اذیت کا احساس پیدا کرنا ہے۔ یہ اس کی فطری خوبی ہے لیکن اسی سے محاورے کے معنی پیدا ہو گئے اور خار کھانا خاری طرح کھٹکنا اور خار گزرنا محاورات بن گئے کہ یہ صورت ناگواری کا باعث ہوتی ہے وہ آدمی برا لگتا ہے اور اس معنی میں وہ خاری طرح کھٹکتا ہے اور اس کا موجود ہونا خار گزارتا ہے یہ ہماری سماجی نفسیات کا حصہ ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے لغت کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جب تک اس کے مراد معنی نہ ہوں وہ محاورہ نہیں بنتا، محاورہ ایک طرح کا ذہنی مفہوم رکھتا ہے جو لغوی معنی سے الگ ہوتا ہے اور تہذیب و سماج سے اس کا رشتہ نسبتاً گہرا ہوتا ہے۔

◇ خاص خاص، خاص محل، خاص اور خاصہ وغیرہ

اس کے معنی ہوتے ہیں مختص، لیکن یہ لفظ کچھ خاص معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دیوان خاص (لال قلعہ) اس کے علاوہ مغل دور میں بادشاہوں کا جو شخص خط بناتا تھا اور بال کاٹتا تھا وہ خاصہ تراش کہلاتا تھا علاوہ بریں بادشاہ کے اپنے لیے یا کسی امیر کے لیے جو خاص کھانا تیار ہوتا تھا وہ خاصہ کہلاتا تھا۔ بیگمات شاہی کو جو خطابات عطا ہوتے تھے ان میں زینت محل، ممتاز محل جیسے خطابات کے ساتھ خاص محل بھی ہوتا تھا۔ یہ سب محاورات کے ذیل میں نہیں آتے اس لیے کہ ان کے جو بھی معنی ہیں وہ لغت کے اعتبار سے ہیں محاورے کے اعتبار سے نہیں۔

◇ خاطر میں رکھنا، خاطر میں لانا، یا نہ لانا وغیرہ

”خاطر“ طبیعت کو کہتے ہیں جو باتیں طبیعت کے لیے ناگواری کا باعث ہوتی ہیں وہ ناگواری خاطر کہلاتی ہیں کچھ باتیں طبیعت کے لیے ایک گونا پریشانی کا باعث ہوتی ہیں وہ غبار خاطر کہلاتی ہیں۔ ابوالکلام آزاد کے ایک مجموعہ خطوط کا نام غبارِ خاطر ہے۔ ہم جب دوسرے کو خوش آمدید کہتے ہیں تو وہ اس کی خاطر ومدارات کرتے ہیں تو وہ خاطر داری کہلاتی ہے۔ اس کے معنی خیال خاطر کے بھی ہیں بقول میر انیس

خیالی خاطر احباب چاہئے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آ بگینوں کو
 ”خاطر نشان ہونا“ دل میں بیٹھ جانا ہے۔ اسی کو دل نشیں ہونا بھی کہتے ہیں۔ خاطر خواہ کے معنی ہوتے ہیں ”حسبِ پسند ہونا“ ہم کسی کو جب توجہ اور تحسین کے لائق سمجھتے ہیں تو گویا اس کو خاطر میں لاتے ہیں۔ اور جب قابلِ اعتنا نہیں سمجھتے تو گویا خاطر میں نہیں لاتے۔

◇ خاک اڑانا، خاک ڈالنا، خاک چھاتنا، خاک چاشنا، خاک ہو جانا، خاک پھا کنا، خاک میں ملنا وغیرہ

خاک ہمارے یہاں ”مٹی“ کو کہتے ہیں جو ہماری زمین کا بہت بڑا مادی عنصر ہے۔ زمین میں جو چیز گر پڑ جاتی ہے وہ زمین ہی کا حصہ بن جاتی ہے، خاک ہو جاتی ہے یا خاک میں بدل جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب اس کا اپنا وجود باقی نہیں رہا وہ خاک کے برابر ہو گئے۔ ”خاک دھول اڑنا“ ایک طرح سے ویرانی کی علامت ہے جو سربزری اور شادابی کی مخالف ایک صورت ہے، سربزری اگر ہوگی تو آبادی بھی ہوگی رونق اور تازگی ہوگی۔ اگر خاک دھول اور مٹی کے سوا کچھ نہیں تو ویرانی کے تصور کے سوا اس کے بارے میں اور کیا سوچا جاسکتا ہے اسی لیے جب کوئی خاندان کوئی ادارہ کوئی بستی یا کوئی ملک اُجڑ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو دیکھتے دیکھتے خاک اڑنے لگی یا انہوں نے اپنی نالائقی سے خاک اڑادی۔

اسی طرح سے ”خاک ڈالنا“ بھی ایک محاورہ ہے اور سماج کے عمل اور ردِ عمل کو پیش کرتا ہے کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ ”خاک ڈالو“ کے معنی ہیں ”لعنت بھیجو“، خاک کی چٹکی بہت کم حیثیت دوا کو کہتے ہیں۔ جب خدا کا حکم ہوتا ہے اور شفا مقدر میں ہوتی ہے تو خاک کی چٹکی سے آرام ہو جاتا ہے یا خاک کی چٹکی بھی اکسیر ثابت ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں خاک پھا کنا، پریشان پھرنا، باد ہوائی پھرنا ہے۔ جب کہیں کسی کا کہیں ٹھور ٹھکانا

نہ ہو تو اسے باد ہوائی پھرنا کہتے ہیں۔ ”خاک پڑنا“ بے رونق بے سہارا اور بے عزت ہو جانا ہے کہ ہمارا وہ منصوبہ تو خاک میں مل گیا یا دشمن کے ارادوں پر خاک پڑ گئی۔

◇ خاک و خون میں ملنا

قتل و غارت گری کے نتیجہ میں بربادی پھیلنا موت کا منظر سامنے ہونا وغیرہ اس سے ہم اپنے محاوروں میں سماجی حالات اور سماج کے ذہنی رویوں اور ان پر گفتگو یا Comment (تبصرے) کو بہتر صورت میں سمجھ سکتے ہیں۔

◇ خام پارہ

اصل میں نادان یا بیوقوف لڑکی کو کہتے ہیں اور ایک مفہوم اس کا کسی کم عمر لڑکی کا آوارہ ہونا ہے۔ گلزار نسیم میں یہ محاورہ اسی معنی میں آیا ہے۔ ”خام کار“ نا تجربہ کار کو کہتے ہیں جو غلط باتیں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے تو اسے خام کاری کہتے ہیں۔ خام کے معنی کچے کے ہیں اور اسی سے نا تجربہ کاری کے معنی محاورتا اخذ کیے گئے ہیں۔

◇ خانہ خراب ہونا

برباد ہونا، خانہ ویران ہونا بھی ہے اور کونسنے کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ تیرا خانہ خراب ہو، تیرا گھر برباد ہو جائے ہم نے محاورات کا مطالعہ تبصرہ کے طور پر تو کیا لیکن گالی، کونسنے یا برے خیالات کے اظہار کے طور پر اس کی طرف بہت کم توجہ دی ہے۔ خانہ خراب ہونا ایک صورت حال بھی ہے۔ مگر تیرا خانہ خراب ہو یا اس کا خانہ خراب ہو، یہ ایک کوسنا ہے۔

◇ خدا خدا کرنا

بڑی کوشش، خواہش اور کاوش سے کوئی کام کرنا اور نتیجہ کا انتظار کرنا۔ جیسے کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے یا خدا خدا کر کے وہ مانے یہ وقت گزارے، بھئی خدا خدا کر یہاں کون کسی کی سنتا ہے۔

◇ خدار کھے۔ خدا سمجھے، خدا سے لو لگنا، خدا کا گھر، خدا کی پناہ، خدا ماری (اللہ

ماری)، خدا بخش (اللہ بخشی، الہی بخش، مولا بخش) وغیرہ۔ (خدا کی اگر نہیں چوری

تو بندہ کی کیا چوری) خدا کی سنوار (اللہ کی سنوار) خدا کے گھر سے پھرنا۔ خدائی خوار،

خدائی خراب، خدائی دعویٰ کرنا

مسلمان تہذیب پر مذہب کا بہت گہرا اثر ہے چاہے عمل پر نہ ہو مگر قول پر ہے اسی لیے

بات بات میں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور خدا خدا کرتے ہیں۔ ان کے ہاں نام بھی خدا پر رکھے

جاتے ہیں جیسا کہ اوپر لکھے گئے محاوروں سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں اس کا اندازہ ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں، خدا لگتی بات کہو، خدا نہ کردہ یا خدا نہ کرے خدا کا چاہا ہوتا ہے، بندے کا چاہا نہیں۔ جب کوئی کام نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ یا خدا کی مرضی اگر یہی ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے۔ یا اگر خدا کی چوری نہیں تو بندہ کی چوری کیا یا بندہ خدا (کوئی آدمی) بالکل بدل گیا یا بالکل مگر گیا، خدا ماری کو محبت میں کہتے ہیں، اللہ سنواری کسی بچے یا بچی کے لیے کہتے ہیں۔ خدا سمجھے یعنی خدا ہی اس بات کو جانتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے جو ذوق کا مصرعہ ہے۔

جو اس پر بھی نہ وہ سمجھے تو اس بت سے خدا سمجھے

مسجد کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے اور کعبۃ اللہ کو تو خدا کا گھر کہا ہی جاتا ہے اقبال کا مشہور

شعر ہے۔

دنیا کے بت کدوں میں پہلا یہ گھر خدا کا

ہم اس کے پاسباں ہیں یہ پاسباں ہمارا

(اقبال)

خدا کے گھر جانے کے یہ معنی ہیں کہ آدمی موت کی منزل سے گزر گیا، خدا کو پیارا ہوا اور ایسے ہی اس منزل تک پہنچ گیا جہاں سب کو جانا ہے، لیکن جب آدمی شدید بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے گھر سے لوٹ آیا۔ اس کو دوبارہ زندگی نصیب ہوئی۔ جب آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا تو وہ اکثر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانیں۔ غرضیکہ خدا پہلے یا اللہ ہماری تہذیبی نفسیات میں داخل ہے اسی لیے ہم توبہ کرتے وقت بھی ایسی توبہ کرتے ہیں اور قسم کھاتے وقت اللہ کی قسم یا ”بخدا“ کہتے ہیں قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اور کلام اللہ کہہ کر یاد کرتے ہیں۔

خدا رسیدہ ایسے بزرگ کو کہتے ہیں جو روحانی طور پر بہت بلند مرتبہ کا انسان ہوتا ہے

لیکن اس کا ترجمہ نہیں کرتے اور اللہ کو پہنچا ہوا نہیں کہتے، صرف پہنچا ہوا کہتے ہیں۔

خلوت و جلوت، خلوت اختیار کرنا، خلوت میسر آنا، خلوت پسند ہونا، خلوت

نشیں ہونا

خلوت کے معنی ہیں تنہائی، تنہا نشینی، جلوت اس کے مقابلہ کا لفظ ہے اور اس کے معنی

ہیں دوسروں کے درمیان ہونا، انجمن یا محفل میں ہونا۔ جو آدمی کسی کو جلوت کا ساتھی کہتے ہیں

اس کے مقابلہ میں پسند کرتا ہے جو بعض لوگوں کی اور خاص طور پر صوفیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت تنہائی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ سے لو لگائے رکھتے ہیں جو خود ایک محاورہ ہے۔ خلوت کدہ یا خلوت خانہ ایسے کمرہ کو بھی کہتے ہیں جہاں آدمی تنہائی کے لمحات گزارتا ہے یا کوئی شوہر اپنی بیوی یا محبوبہ کے ساتھ ہوتا ہے۔

◇ خون پینا، خون جگر پینا، خون سر چڑھنا، خون سفید ہونا، خون کا پیسا سا، خون کا دشمن ہونا، خون اترنا، خون سوار ہونا، خون کے بدلے خون

خون زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے اس کے بغیر بہت سے حیوانات میں زندگی باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے خون کا ذکر ایسے موقعوں پر ہوتا ہے جہاں زندگی کا سوال ہوتا ہے اور موت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے خون گرانا، خون کرنا، قتل کرنا، خون پینا، کسی کے ساتھ انتہائی دشمنی کا اظہار کرنا ہے۔

اسی کی طرف اس محاورے میں اشارہ ہے کہ وہ اس کے خون کا پیسا سا ہے اور جہاں کسی کے لیے قربانی دینے کا سوال ہوتا ہے وہاں بھی ”ایک چلو خون گرانا“ کہتے ہیں یا یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جہاں تمہارا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ ”خون کے بدلے خون“ کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا۔ جہاں خون کے بدلہ میں قیمت لے لی جاتی ہے وہاں ”خون بہا“ کہتے ہیں۔ خون کی ندیاں بہنا یا بہا دینا بے حد خون خرابہ کو کہتے ہیں قتل عام کی صورت میں یہی تو ہوتا تھا۔ جس گھر میں جوان لڑکی بیٹھی ہوتی ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خون کی بارش ہوتی ہے۔ ”لہور ونا“ بھی ایک طرح سے آنسوؤں کی صورت میں خون بہانا ہے۔ خون پینا اور خون کے گھونٹ پینا دو الگ الگ محاورے ہیں پہلے محاورے کے معنی ہیں دشمنی میں کسی کو قتل کرنا یا اس کی شہ رگ کاٹ کر اس کا خون پینا۔ قدیم دور وحشت میں یہ ہوتا بھی تھا اور ترک و تاتاری سپاہی تو گھوڑے کا خون پیتے تھے۔ ”خون پلانا“ انتہائی محبت کا اظہار کرنا یا ایثار و قربانی کرنا ہے۔

جب کسی آدمی کا کوئی عزیز قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے سر پر گویا خون سوار ہو جاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خون کے بدلے میں اس کا خون کر دے اسی کو ”خون سوار ہونا“ کہتے ہیں اس کے علاوہ جب کوئی آدمی انتہائی جوش و جذبہ کے عالم میں کسی کا خون کر دیتا ہے تو اس پر جنون کی سی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو ”خون سوار ہونا“ کہتے ہیں۔

”خون پسینہ ایک کرنا“ انتہائی کوشش کرنے کو کہتے ہیں کہ اس مہم کو سر کرنے یا اس کام کو انجام دینے کے لیے اس نے خون پسینہ ایک کر دیا۔ خون سے خون اور خون کا پانی کر دینا بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ ”خون جگر پینا“ بھی خلوص خاطر کے ساتھ کسی بات کو نبھانا ہے مثلاً عشق کرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں لخت جگر کھانا اور خون دل پینا پڑتا ہے۔

اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم محاوروں کے ذریعہ کس طرح اپنے احساسات جذبات، سماجی رویوں، محبتوں اور نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے جذبات کی نرمی و گرمی کس طرح ہمارے اظہار میں شریک رہتی ہے۔

◇ خیالی پلاؤ پکانا

پلاؤ ہمارے یہاں چاول، گوشت، یا گوشت کی بیخنی سے تیار کیا ہوا ایک خاص کھانا ہوتا ہے۔ اسی لیے پلاؤ کھانا بھی ایک محاورہ بن گیا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔

بتائیں ہم تمہیں مرنے کے بعد کیا ہو گا

پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو گا

یہاں پلاؤ کھانے کے محاوراتی معنی لیے گئے ہیں یعنی لوگ مرنے والے کا غم نہیں مناتے بلکہ پلاؤ پکاتے اور کھاتے ہیں۔

خیالی پلاؤ دوسری بات ہے یعنی اپنے طور پر سوچنا کہ یوں نہیں تو یوں ہو جائے گا ہم یہ کر دیں گے وہ کر لیں گے یہ سب خیالی پلاؤ ہے۔ جس کو انگریزی میں *tjomlmgWosjfi* کہتے ہیں۔ یہ انسان کی عجیب سی حالت ہوتی ہے اور اس کی اچھی بری نفسیات اس میں شریک ہوتی ہے۔ انہیں معنی میں یہ فرد کا یا پھر سوسائٹی کا ایک معاشرتی رویہ ہوتا ہے۔ جو لوگ صحیح وقت پر قدم نہیں اٹھاتے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے وہی زیادہ تر خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں۔

دِوِیْف

◇ داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے

ہماری تہذیبی معاملات اور معاشرتی رویے بھی کچھ عجیب و غریب ہیں اور سماجی نفسیات کے پیچیدہ پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بھنڈاری اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ذخیرہ کا نگہبان ہوتا ہے۔ بھنڈار بڑے ذخیرے ہی کو کہتے ہیں، دینے والا دیتا ہے اور سب کو دیتا ہے لیکن جو ذخیرہ

کا نگہبان ہے وہ اللہ واسطے میں یہ سوچتا ہے کہ کسی کو یوں دیا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کا کام بنتے ہوئے دیکھ کر جلتے ہیں اور خواہ مخواہ اختلاف کرتے ہیں ان کے اپنے پاس سے کچھ نہیں جاتا۔ پھر بھی انھیں تکلیف پہنچتی ہے اس سے ہمارے سماج کی اخلاقی گرواٹ کا پتہ چلتا ہے۔

◇ داد دینا، داد کو پہنچنا، داد نہ فریاد

”داد“ فارسی لفظ ہے مگر ہماری زبان میں داخل ہو گیا ہے اور ایک سے زیادہ محاوروں میں یہ موجود ہے۔ شعر پر جب ہم تحسین و آفریں کہتے ہیں تو اسے داد سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس شعر کی بہت داد ملی۔ ”داد دینا“ انصاف کرنے کو بھی کہتے ہیں اور انصاف کرنے والا اکثر ”دادگر“ کہلاتا ہے۔ کچھری کو ”داد گاہ“ کہا جاتا ہے۔ انصاف پیشگی کو داد گیری کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ جب کسی ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو اسے داد فریاد کہتے ہیں اور جب کوئی کچھ نہیں بولتا اور بڑے سے بڑے ظلم و زیادتی پر لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی داد نہ فریاد۔ اس طرح یہ محاورے سماج میں حق گذاری اور حق شناسی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور ناحق باتوں کی طرف جن میں ظلم و زیادتی اور حق تلفی کا رویہ شریک رہتا ہے۔ ہمارے محاورات انھی سچائیوں کی پردہ کشائی کرتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر کبھی غور کریں یا نہ کریں۔

◇ داغ دینا، داغ اٹھانا، داغ بیل ڈالنا، داغ لگانا، یا داغ لگنا

داغ ایک طرح کا دھبہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز پر خاص طور سے اچھے کپڑے اور کاغذ پر لگ جائے تو بہت برا لگتا ہے قدیم زمانہ میں جو آدمی کسی کا غلام ہوتا تھا خاص طرح سے نشان سے اس کو داغا جاتا ہے اور وہ داغی غلام کہلاتا تھا۔ یعنی وہ آئندہ منہ دکھلانے کے لائق نہ رہتا تھا، اس قابل کر دیا جاتا تھا۔

اسی حقیقت کے پیش نظر خاندانی عزت کو اگر کوئی بات کوئی کام یا کوئی روش خراب کرتی یا مٹاتی تھی تو اسے بھی کام لگنا یا داغ لگنا کہتے تھے۔ داغ دہلوی کا شعر ہے۔

میں اگر چاہوں تو گویا رب ابھی توبہ کر لوں

داغ لگ جائے گا لیکن تیری غفاری میں

داغ اٹھانا، صدمہ سے گذرنا ہے۔ ”داغ دیکھنا“ اور ”داغ کھانا“ بھی اسی معنی میں

آتا ہے کسی شاعر کا شعر ہے۔

داغ دیکھے ہیں داغ کھائے ہیں

دل تے صدے بہت اٹھائے ہیں

داغ کے معنی جلنے یا جل اٹھنے کے بھی ہیں جو اس شعر کی طرف اشارہ ہے۔

دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

”داغ بیل ڈالنا“ ایک الگ صورت ہے جس کے معنی ہیں شروعات کرنا، کسی کام کا ابتدائی منصوبہ تیار کرنا اور اس پر عمل کرنا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کام کی داغ بیل فلاں شخص نے ڈالی تھی یعنی سلسلہ قائم کیا تھا۔

◇ دال روٹی سے خوش ہونا، دال روٹی پیر و شکر سے کھانا

دال ہمارے یہاں غریب آدمی کی خوراک کا ایک ضروری حصہ ہوتا تھا کباب، قلیہ، قورمہ، تنجن وغیرہ اعلیٰ درجہ کے سالن غریب آدمی کو کہاں میسر آتے تھے۔ بکرے کا گوشت اگرچہ آٹھ آنے سیر تھا اور اس سے پہلے اور بھی سستا ہوگا۔ مگر ایک غریب آدمی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے وہ تو دال دلیا سے اپنا کام چلا لیتا تھا اس کا اصل مسئلہ تو پیٹ بھرنا تھا۔ روٹی روٹی نہ کھا کر وہ دال سے کھاتا تھا۔ اس پر بھی خوش ہوتا تھا اور خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دال روٹی آرام سے کھانے دو، یہ ہمیں پیٹ بھر کر مل رہی ہے یہ بھی کیا کم ہے۔ اب سے پچاس ساٹھ برس پہلے تو اتنی غربت تھی کہ شادی کے موقع پر دال چاول اسپیشل کھانے کے موقع پر کھلائے جاتے تھے۔ دال دیگ میں پکتی تھی اور چاول کڑاھے میں اُبالے جاتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ محاورے ہماری معاشی یا مالی حالت کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ روٹی پر روٹی رکھ کر کھانا، روٹی اور خشک نوالے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایک ہی روٹی ہوتی تھی اس کے مقابلہ میں اس کو خوشحالی تصور کیا جاتا تھا کہ روٹی پر روٹی رکھ کر کھانے کا موقع مل رہا ہے۔

اس سطح پر اگر محاوروں کا مطالعہ کیا جائے تو ہم ایسی تاریخی معاشرت کے بارے میں بھی بہت سی سچائیوں کو جان سکتے ہیں اور ایک زمانہ کے زبان کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے تو اس دور کی ذہنی اور نفسیاتی سطحوں اور حالتوں کو بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے غور نہ کرنا۔

◇ دال میں کچھ کالا ہے، دال نہ گلنا

دال پکائی جاتی تھی اور وہ بھی دھوئی ہوئی دال تو اس میں ایسا تو تھا نہیں کہ اس میں گرم مصالحہ ڈالا جاتا ہو۔ لونگیں، سیاہ مرچیں اور کالا زیرہ، دال میں کون ڈالے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے جو بے چارہ دال کھا رہا ہے وہ اوپر سے خرچ کرنے کے لیے مزید پیسے کہاں سے لائے اسی لیے دال میں کوئی کالی چیز نہیں ہوتی تھی اور اگر نظر آ جاتی تھی تو شبہ کی بات بن جاتی تھی کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اسی کو سماجی زندگی میں محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا تو اسی سے شکوک و شبہات کی طرف اشارے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔

دوسرا محاورہ ”دال گلنا“ ایک اور صورت حال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو غربت کی صورت حال ہے۔ اب سے کچھ زمانہ پہلے تک غریب گھروں میں ایندھن کی بڑی دشواری ہوتی تھی۔ آگ بھی ایک بڑی نعمت تھی اور گھروں سے آگ مانگی جاتی تھی۔ اور کچھی لیکر ایک گھر سے دوسرے گھر جایا جاتا تھا کہ ایک دو انگارے مل جائیں اور اکثر ایندھن کی کمی کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ دال پوری طرح پکتی بھی نہیں تھی اور کچی رہ جاتی تھی۔ جس کی وجہ سے دال گلنا ایک محاورہ بن گیا اور جہاں کسی کی بات نہیں بنتی تھی وہاں بھی یہ محاورہ استعمال کیا جاتا تھا۔

◇ دام میں آنا، دام میں لانا، دامن پکڑنا، دامن پھیلانا، دامن جھاڑنا، دامن سے لگنا

دام میں آنا یا لانا کسی کے جال میں پھنسا، فریب دہی کا شکار ہونا۔ یہ ہمارے سماج کا ایک رویہ ہے کہ وہ دھوکا دیکر دوسروں سے کام نکالتے ہیں اور ان کو مصیبت میں پھانس دیتے ہیں اور آدمی اپنی کسی ضرورت مجبوری یا سادہ لوحی کے زیر اثر دوسرے پر اعتبار کر لیتا ہے۔ اور پھر پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے۔ دام میں آنا یا دام میں لانا اسی فریب دہی کے عمل کو کہتے ہیں جس کا مظاہرہ ہماری معاشرتی زندگی میں صبح و شام ہوتا رہتا ہے۔ دامن پکڑنا یا پھیلانا دو الگ الگ محاورے ہیں دامن ہمارے لباس کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے جس سے ہم بہت سا کام لیتے ہیں چھوٹے بچے کو دامن سے ڈھکتے ہیں، عورتیں پردہ میں منہ چھپانے کے لیے اپنے دامن سے نقاب کا کام لیتی ہیں ہم دوسرے کا دامن پکڑ کر اس کی دیکھ ریکھ یا نگرانی اور رہنمائی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ دامن جھاڑنا یا جھٹکنا، ذمہ داری سے دامن بچانے کا عمل ہے۔ جو اکثر ہمارے تہذیبی رویوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ”دامن سے لگ کر بیٹھنا“ کسی سے قریب تر

آتا رہنا اور پناہ لینے کی کوشش کرنا ہے۔ ”دامن چاک کرنا“ انتہائی بے صبری بے سکونی اور جوش کا اظہار کرنا ہے جس کو جنون کی حالت سے تعبیر کیا جاتا ہے اُردو کا ایک معروف شعر ہے۔

اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے

دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں

”دامن کو تارتا کرنا“ بری طرح چاک کر دینا اور اسی کو دامن کے ٹکڑے اُڑا دینا بھی

کہتے ہیں۔

◇ دانت بچنا، دانت پینا، دانت کاٹی روٹی ہونا، دانت دکھانا

دانت سے متعلق مختلف محاورات ہیں۔ سردی میں جب آدمی کپکپاتا ہے تو اس کے دانت بھی کپکپانے لگتے ہیں اسی کو ”دانت بچنا“ کہا جاتا ہے۔ دانت پینا ایک دوسرا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں اظہارِ ناخوشی کرنا اور غصہ میں بھر جانا۔

”دانت کاٹی روٹی ہونا“ ایک دوسری نوعیت کا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں بہت قریبی تعلق ہونا، گہری دوستی ہونا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جھوٹی اور کھائی ہوئی روٹی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ چھوت چھات ہمارے معاشرے پر بے طرح اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ اسی لیے ہم دوسرے کے برتن میں کھانا نہیں کھاتے دوسرے کا پیا ہوا پانی نہیں پیتے۔ لیکن کسی سے ایسا رشتہ بھی ہوتا ہے قریبی تعلق کہ اس کے دانتوں سے کاٹی ہوئی روٹی بھی کھا لیتے ہیں ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے مگر اس محاورے سے بہر حال گہری دوستی اور اپنائیت کے رشتہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔

جانوروں کی عمر کا تعین کرنے کے لیے ان کے دانت دیکھے جاتے ہیں اسی سے یہ محاورہ بنا ہے کہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ ”دانت دکھانا“ منہ چڑانے کو بھی کہتے ہیں اور بے مروتی اختیار کرنے کو بھی کہتے ہیں اور اسی لیے طنز کے طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ تو وقت آنے پر دانت دکھا دیتے ہیں۔ کام نہیں کرتے اور ذمہ داری نبھانے سے منہ موڑتے ہیں۔

◇ دانتوں میں اُننگی دینا دانتوں تلے اُننگی کاٹنا یا داہنا، دانتوں میں تنکا لینا، دانت ہونا

دانتوں سے متعلق جو محاورے ہیں ان میں دانتوں تلے اُننگی دینا یا داہنا سماجی ردِ عمل کا اظہار ہے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔

اس کے مقابلہ میں ”دانتوں میں تنکا لینا“ ایک خاص طرح کا سماجی عمل ہے جس کا تعلق اظہار عاجزی کرنے سے ہے۔ غالب نے اس کی ایک موقع پر تشریح کی ہے اور کہا ہے کہ افغانستان کی طرف کے لوگوں میں یہ رسم رہی ہے کہ جب وہ اظہار عاجزی کرتے ہیں تو اپنے دانتوں میں تنکا دباتے ہیں اور دوسروں کے سامنے جاتے ہیں ان کا شعر ہے۔

نہ آئی سٹوتِ قاتل بھی مانع میرے نالوں کو لیا دانتوں میں جو تنکا ہوا ریشہ نیستاں کا دانت رکھنا اور دانت ہونا ایک طرح کا نفسیاتی عمل اور سماجی رویوں کا اظہار ہے کہ آدمی پہلے سے کسی بات کو دل میں ٹھان لیتا ہے اور لالچ کا ایک رویہ اس کے بارے میں پیدا کر لیتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے اور موت نکلے تو میں یہ کروں گا اس مکان دوکان کھیت زمین یا چیز پر قبضہ کروں گا یہی دانت رکھنا کہلاتا ہے اور اس سے لالچ کا اظہار ہوتا ہے دانت ہونے کے بھی یہی معنی ہیں۔

◇ داؤں پر اڑنا، داؤں پر چڑھنا، داؤں کرنا، داؤں کھا جانا، داؤں لگنا، داؤں میں آنا، داؤں کھیلنا، داؤں پر لگانا وغیرہ

اصل میں فنِ کشتی گری سے متعلق محاورات ہیں جو ہماری سماجی زندگی میں بھی کام آتے ہیں۔ اور مختلف انسانی رویوں کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً ”داؤں آنا“ داؤں جانے کو بھی کہتے ہیں اور موقع ملنے کو بھی۔ یہ شطرنج کے کھیل سے متعلق بھی محاورے کی ایک صورت ہے اسی لیے داؤں کھیلنا کہتے ہیں جس کا مقصد دوسرے کو پھنسانا ہوتا ہے۔ جو اس طرح پھنس جاتا ہے وہ گویا داؤں پر چڑھ جاتا ہے اور پھنسانے والے کو داؤں ہاتھ آ جاتا ہے یا اس کا داؤں چل جاتا ہے۔ اسی کامیابی کو داؤں لگنا بھی کہتے ہیں کہ اس کا داؤں لگ گیا۔ بلی جب چڑیوں کو یا چوہے کو شکار کرنا چاہتی ہے تو کوئی نہ کوئی داؤں کھیلتی ہے یہ فریب دینے کا طریقہ ہوتا ہے یعنی ایک ہی بات پر زور دینا ہے جبکہ داؤں کا تعلق تو صورتِ حال پر نظر رکھنے سے ہوتا ہے۔

”داؤں دینا“ مکاری کر جانے کو کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ایسے محاورات سے پتہ چلتا ہے کہ محاورے طبقاتی ہوتے ہیں پہلے انھی طبقوں میں رائج ہوتے ہیں جس سے ان کا خاص تعلق ہوتا ہے رفتہ رفتہ وہ عمومیت اختیار کر لیتے ہیں اور ان میں معنویاتی اعتبار سے نئی نئی تہہ دریاں اور پہلو دریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

◇ دائیں بائیں کر دینا، دبی آگ کر دینا، دبی بلی چوہوں سے کان کترواتی ہے یا بھگی بلی چوہوں سے کان کترواتی ہے۔

دائیں بائیں کرنے کے معنی ہیں ادھر ادھر کر دینا۔ یہ ایک اہم سماجی عمل ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جھگڑے کو وقتی طور پر نمٹانا کہ وہ دونوں آپس میں بری طرح جھگڑ رہے تھے ان کو دائیں بائیں کر دیا دوسرے معنی ہوتے ہیں پریش کو کم کر دینا۔ اس لیے کہ آدمی کی طبیعت پر جب جوکھ ہوتا ہے حالات ناسازگار ہوتے ہیں تو وہ اس پریش کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ ناقابل برداشت بات کو اسی لیے ادھر ادھر کر دینا چاہتا ہے خیالات یا سوالات کو بکھیر دینا چاہتا ہے تاکہ ان کا دباؤ یا جماؤ ہو جائے۔

دباؤ کو کم کرنا ہماری سماجی زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں متعدد محاورے دباؤ سے متعلق ہیں اس کو دباؤ بھی کہتے ہیں اور داب بھی وہ اس کو اپنی داب میں رکھنا چاہتا ہے داب کا لفظ رعب و داب کے ساتھ بھی آتا ہے۔

آگ کو دبا کر رکھا جاتا ہے یہ اس کی حفاظت کی غرض سے ہوتا ہے لیکن دبی آگ کو کریدنا ایک سماجی عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ یہ کہ جو جھگڑے اختلافات اور الجھنیں دبا کر رکھی گئیں تھیں۔ یعنی ان پر گفتگو نہیں کی جاتی تھی انہیں چھپایا جاتا تھا اب اگر اسے پوچھا جا رہا ہے بات کو اُس رخ پر لایا جا رہا ہے اور ہوا دی جا رہی ہے تو اس عمل کو جو دانستہ اور بڑی حد تک فریب کارانہ ہوتا ہے۔

جب آدمی کسی وجہ سے مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو معمولی لوگ بھی اُس کے منہ آنا چاہتے ہیں اُس کا مذاق اڑاتے ہیں، اُس پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بلی بچاری کہیں پھنس گئی ہے اور چوہے جسے ان کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے وہ اُس کے سر پر سوار ہوتے ہیں بلکہ اُس کے کان کترتے ہیں۔ اس محاورے کے ذریعہ بھی ہم سماج اور کسی معاشرے سے متعلق افراد کے عمل کو سمجھ سکتے ہیں۔

◇ دروازے کی مٹی

دروازہ کسی بھی مکان کا بے حد اہم حصہ ہوتا ہے کہ اسی کے ذریعہ آمد و رفت ممکن ہوتی ہے۔ دروازے کو سجایا جاتا ہے جانیوالے کو دروازے تک پہنچایا جاتا ہے اور آنیوالے کا دروازے پر استقبال کیا جاتا ہے۔ چوکھٹ کا تعلق خاص طور پر دروازے سے ہوتا ہے اور چوکھٹ بڑے احترام کی چیز ہوتی ہے۔

قدیم قوموں میں دروازے کو سجدہ احترام بھی کیا جاتا تھا۔ ہندوؤں میں چوکھٹ کا

پوچن بھی ہوتا ہے اسے تلک لگاتے ہیں، بند دروازے کاغذوں سے سجاتے ہیں۔ بعض قدیم گھروں پر جو دروازے ہوتے ہیں ان پر ہاتھی جھلٹے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ ان کے دروازے پر ہاتھی جھلٹے ہیں دربان بھی دروازوں ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔

”دروازے کو ویران کرنا“ گویا اس گھر اس خاندان کی عزت لے لینا ہے اسی لیے دروازے کی مٹی ایک خاص معنی اختیار کر لیتی ہے۔ ”دروازے کی مٹی لے ڈالنا“ اسی طرف اشارہ کر نیوالا محاورہ ہے، اسے چرنجی لال نے ”لیولے“ بھی کہا ہے۔ جسے مغربی یورپی والے اپنے تلفظ کے اعتبار سے ”لیوڑنے“ بھی کہتے ہیں۔ اور ”لیوڑ لے ڈالنا“ مٹی کی تہوں کو بھی اٹھا اٹھا کر اٹھا کر اٹھا کر لے جانے کے عمل کی طرف اشارہ ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس گھر میں کچھ نہیں چھوڑا اور جو ہاتھ لگا اٹھا کر اسے لے گئے اس سے ہم اپنے معاشرے کے مزاج اور بعض سماجی رویوں کو سمجھ سکتے ہیں۔

◇ دریا، دریادلی، دریا میں ڈالنا، دریا کو کوزے میں بند کرنا، دریا کو ہاتھ سے روکنا دریا کے معنی ندی کے بھی ہیں، بڑی ندیوں کے بھی اور خود سمندر کے بھی۔ دریا اپنے معنی اور معنویت کے ساتھ ہمارے معاشرے کی بہت باتوں میں شریک رہتا ہے اور اس سے ہم موقع بہ موقع اپنی معاشرتی روشوں اور رویوں کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام لیتے ہیں۔ مثلاً دریا بہنا، زیادہ پانی بہنا بھی ہے اور دولت کی فراوانی بھی۔ ”دریا میں ڈالنا“ اس طرح کسی چیز کو پھینک دینا کہ واپسی کی کوئی توقع نہ رہ جائے۔ ”نیکی کر دریا میں ڈال“ ایسے ہی کسی نفسیاتی عمل اور رد عمل کی طرف اشارہ ہے۔ ”دریادلی“ بڑے دل کے لیے آتا ہے۔ ”دریا سوکھ جانا“ بہت مشکل پریشانی اور قحط کے زمانے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس موسم میں تو دریا بھی سوکھ جاتے ہیں۔ ”دریا کو کوزے میں بند کرنا“ کسی بہت بڑی بات کو چھوٹی سی گفتگو میں سمیٹ لینا، علم دریا ہے۔ یعنی علم کا کوئی کنارہ نہیں جتنا چاہو علم سیکھتے رہو، وہ آگے بڑھتا رہے گا، یہی اس کی فطرت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم کے متعلق کیا تصورات پائے جاتے ہیں۔ دریا کو بہاؤ سے نسبت دی جاتی ہے دریا چڑھتا اترتا ہے لیکن اس کے بہاؤ کو ہاتھ سے روکا نہیں جاسکتا جیسے مٹی میں ہوا کو تھاما نہیں جاسکتا۔

سماج میں بعض ایسے رویے اور رویے ہیں کہ ان کو ہم برا کہتے رہتے ہیں لیکن وہ روکی نہیں جاسکتیں۔ آخر دریا کی روانی بھی تو نہیں رک سکتی وقت کا دھارا بھی تو ہاتھ سے نہیں روکا جاسکتا۔

◇ دریا میں رہنا مگر چھ سے بیر کرنا

ہم جہاں رہتے ہیں اس ماحول کو پہچاننا اچھے بُرے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور سوجھ بوجھ کے ساتھ اس سے مناسب تعلق رکھنا یہ ہمارے سماج کا ہماری زندگی کا اور ہمارے معاملات اور مسائل کا ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے۔

جن کے درمیان ہم رہتے ہیں وہ ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، غیر بھی، دشمن بھی ہو سکتے ہیں اور دوست بھی۔ یہ مشکل ہے کہ جس کے درمیان ہم رہتے ہوں ان سے ہم غیریت برتیں، دشمنی مول لیں اور پھر آرام و اطمینان سے رہیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دریا میں رہ کر مگر چھ سے بیر تو نہیں رکھا جاسکتا۔ مگر چھ طاقتور بھی ہوتا ہے اور نقصان پہنچانے والا بھی، وہ گھات لگاتا ہے۔ ایسا ہی کوئی شخص خطرناک دشمن اس ماحول میں بھی ہو سکتا ہے جہاں ہم جا رہے ہوں اور اس آدمی کے اور ہمارے درمیان مخالفت ہو۔

◇ دست بدست دینا، دست درازی کرنا

ہاتھ ہماری ذاتی و معاشرتی زندگی کا نہایت اہم وسیلہ کار ہے۔ اسی لیے ہاتھ پیروں کے چلتے رہنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ ہاتھ ہمارے ہر کام آتا ہے۔ ہم ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور دوسرے کو ہاتھ سے لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دس آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک سے لیکر دوسرے دیتے رہتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر کھانا کھلاتے وقت یہ اکثر دیکھنے کو ملتا تھا اسی لیے ہاتھوں ہاتھ لینا یا دست بدست لین دین کا محاورہ سامنے آیا۔ کسی شاعر کا شعر ہے۔

ان کی محفل میں مرا خون بنا دست بدست

جیسے معشوق لگاتے ہیں جنا دست بدست

اسی طرح اُردو کا ایک مصرعہ ہے۔

کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے

”ہاتھ ادھار کی بات“ اکثر ہم لوگوں کی زبان پر آتی رہتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ

اپنے ہاتھ سے اس نے ادھار دیا ہے کوئی لکھا پڑھی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی موقع پر ”ہاتھ کو ہاتھ پہچاننا“ بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کے دست و دماغ کی بات ہے یعنی ان کے سوچنے اور کام کرنے کا معاملہ ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ ایسے موقع پر دست و قلم بھی کہتے ہیں۔ دست و خود دہانے خود بھی محاورہ ہے یعنی ”خود نوالہ توڑنا اور کھا“ یہ ظاہر ہے کہ اس موقع کے لیے کہا جاتا ہے جب آدمی

دوسرے کا سہارا تکتا ہے کہ کوئی دوسرا ہی سب کچھ کرے اور وہ خود کچھ نہ کرے۔
ہمارے معاشرے کی یہ بہت عام کمزوری ہے کہ ہم خود نہیں کرنا چاہتے ہر کام کی
نجام دہی میں دوسروں کا سہارا لیتے ہیں۔

◇ دسترخوان بڑھانا

دسترخوان لگانا یا سجانا بھی محاورہ ہے۔ مثلاً اپنے دسترخوان کو غریبوں سے سجالینی ان
کو دعوت دو کہ وہ کھاوے ساتھ کھانا کھائیں۔ دسترخوان لگانا اپنے دسترخوان پر اچھے اچھے
کھانوں کا چننا۔ ظاہر ہے کہ یہ امر کے لیے آتا ہے غربا کے لیے نہیں۔ ”دسترخوان اٹھانا“ نہیں
کہتے اس کے مقابلہ میں ”بڑھانا“ کہتے ہیں جو گویا ایک دعا ہے کہ دسترخوان چھوٹا نہ ہو دولت
و نعمت میں کمی نہ آئے بلکہ دسترخوان بڑھتا رہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں
اسی لیے ہمارے یہاں چراغ کے ساتھ بجھانے کا لفظ نہیں آتا۔ ایران والے چراغ گل کردن
کہتے ہیں اور ہم چراغ بڑھانا کہ اس میں بھی دعا کا یہ پہلو شامل رہتا ہے کہ چراغ بجھے نہیں بلکہ اس
کی روشنی پھیلتی رہے۔ اس سے ہم اپنی سماجی نفسیات اور تہذیبی رسوم و آداب کا پتہ چلا سکتے ہیں۔

◇ دست گرداں، دسواں دوار کھل جانا، دست و پا مارنا، دسوں انگلیاں دسوں چراغ
دست (ہاتھ) سے جو محاورات بنے ہیں ان میں دست مال بھی ہے جو رومال کو کہتے
ہیں ”دست دینا“ بھی ہے ”دلوں پر دستک دینا“ بھی اس میں شامل ہے لیکن ان میں آخر الذکر
کے علاوہ محاوراتی انداز کم ہیں۔ ”دلوں پر دستک دینا“ لوگوں کو اپنے حال کی طرف متوجہ کرنا
ہے۔ اردو کے ایک شاعر کا شعر ہے۔

اب تلک میں نے دلوں پر ہی تو دستک دی ہے

اب کہاں جا کے بھلا خود کو پکارا جائے

جو چیز ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچتی رہتی ہے اسے دست گرداں کہتے
ہیں، جیسے اسکے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتے بولتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز بازار میں
عام ملتی ہے اور فروخت ہوتی ہے اسے جنس کو دست گرداں کہا جاتا ہے اب ایسا ہی کوئی شخص بھی
ہو سکتا ہے جو کبھی اس کے ساتھ اور کبھی اس کے ساتھ اسی کو عام زبان میں ”چالو ہونا“ کہتے ہیں
کہ وہ تو چالو آدمی ہے۔

◇ دعوتِ شیراز

دعوت کے معنی بلانے کے یا توجہ دلانے کے ہیں اور کسی کام کی انجام دہی کے لیے خواہش کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے مقابلہ میں کھانے پر بلانا اور شریکِ طعام کرنا دعوت کرنا کہلاتا ہے۔ جس دعوت میں بہت سے تکلف کے سامان ہوتے ہیں وہ پر تکلف دعوت کہلاتی ہے۔ اور جس میں بہت سادہ کھانا ہوتا ہے وہ محاورتاً دعوتِ شیراز کہلاتی ہے۔ یعنی غریبی کی حالت میں کی جانے والی دعوت۔

◇ دل اٹھنا، دل اچاٹ ہونا، دل آنا، دل بچھنا، دل بُرا کرنا، دل بڑھانا، دل بھاری کرنا، دل دھڑکنا، دل بھر آنا، دل بیٹھ جانا، دل پانا، دل دھڑکنا، دل پر چوٹ لگنا، دل پر نقش ہونا، دل پر ہاتھ رکھنا، دل دہی کرنا، دل پکنا، دل پھٹنا، دل پھیکا ہونا، دل توڑنا، دل ٹوٹنا، دل ٹھکانے لگانا، دل جلانا، دل جلنا، دل جمنا، دل چیر کر دیکھنا، دل خوش کرنا، دل سے دل ملنا، دل سے گرنا، دل برداشتہ ہونا، دل سے دھواں اٹھنا، دل کا بخار نکالنا، دل کا خریدار، دل کی بھڑاس نکالنا، وغیرہ وغیرہ

دل اعضائے ریسیہ میں سے ہے۔ جذباتِ انسانی کا دل سے گہرا رشتہ ہے اور بہت سے محاورے دلی احساسات، جذبات اور حیات سے وابستہ ہیں اور اس کی معنی داریوں اور معنی نگاریوں کو پیش کرتے ہیں۔ سماج یا انسانی معاشرہ اپنی سوچ کے جو مختلف دائرے رکھتا ہے ان کی تصویر کشی یا عکاسی میں دل ایک نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور ایک علامتی لفظ ہے جو فکر و فن اور شعور و شعور کی دنیا میں اپنا ایک اہم معاشرتی تہذیبی اور نفسیاتی کردار ادا کرتا ہے یہاں اردو کے دو تین شعر پیش کیے جا رہے ہیں ان سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ دل ہمارے وجود کا کتنا اہم حصہ اور ہماری معاشرتی زندگی کا کتنا غیر معمولی سطح پر علامتی کردار ہے۔

دل گیا رونقِ حیات گئی

غم گیا ساری کائنات گئی

(جگر)

دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب

کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بچھ گیا ہو

(اقبال)

کہتے ہو نہ دیں ہم دل اگر پڑا پایا
دل کہاں کہ گم کیجئے ہم نے مدعا پایا

(غالب)

مختلف محاورے مختلف ذہنی تجربوں تخیلی منظر ناموں اور تمثیلی پیکروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کہیں نزاکتوں کی طرف، کہیں سختیوں کی طرف۔ دل کو پتھر کدہ کہا جاتا ہے اور صنم خانہ شوق قرار دیا جاتا ہے، خوابوں کا گہوارہ کہا جاتا ہے اور خیالوں کی متحرک تصویر جس کی دھڑکن لمحہ بہ لمحہ زمانے اور زندگی کے تغیرات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

میری تاریخ دل کی یادیں ہیں
جن کو دیر و حرم کہا جائے
زندگی کی یہی ہیں شمع و چراغ
جن کو شہر صنم کہا جائے

(تنویر علوی)

دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں اس کے مقابلہ میں سنجیدگی سے کسی بات کو دل میں جگہ دینا اور محسوس کرنا ہے دل بہار، دل پسند، دل خوش کند جیسی ترکیبیں اُردو میں فارسی میں بہت آتی ہیں۔
◇ دماغ تازہ کرنا، دماغ ہونا، دماغ خالی ہونا، دماغ روشن ہونا، دماغ میں خلل ہونا، دماغ نہ ہونا وغیرہ

جب کسی آدمی کو بہت غرور ہوتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا دماغ آسمان پر ہے۔ دماغ ہونے کے معنی بھی یہی ہیں اس کے مقابلہ میں دماغ خالی کرنا یا ہلکا کرنا ایک حد تک خلاف معنی رکھنا ہے۔ ”خالی دماغ ہونا“ انتہائی بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں جس کو عقل ہوتی ہی نہیں اس کے مقابلہ میں دماغ میں بھوسا بھرا ہونا ایسے آدمی کے لیے آتا ہے جو بالکل ہی عقل سے خارج ہو۔

جو لوگ بہت عقلمند ہوتے ہیں یا عقل مند شمار کیے جاتے ہیں ان کو ”روشن دماغ“ کہتے ہیں۔ حالی نے غالب کی موت پر جو مرثیہ لکھا تھا اس میں ایک شعر میں یہ کہا گیا تھا۔

شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا
ایک روشن دماغ تھا نہ رہا

(حالی)

عالی دماغ بھی ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں جس کا دماغ روشن ہوتا ہے اور جو غیر معمولی سطح پر ذہین ہوتے ہیں۔ دیہات میں کند ذہن آدمی کو کھٹل دماغ کہتے ہیں یعنی اس کا دماغ تو اینٹ پتھر کی طرح ہے۔ اس سے کوئی کام نہیں لیا جاسکتا۔

◇ دم آنکھوں میں اٹکنا، دم بخود رہ جانا، دم توڑنا یا ٹوٹنا، دم چرانا، دم میں دم آنا ”دم“ ہماری زبان میں بہت سے معنی رکھتا ہے مثلاً یہ کہ فلاں کا دم تھا کہ اتنے کام ہو گئے جیسے ایک بھائی کا دم تھا یا ایک چچا کا دم تھا وغیرہ کہ جس کے باعث یہ سب کچھ ہوا۔ ”دم دلا سادینا“ سمجھانے بچھانے اور ہمت بڑھانے کو کہتے ہیں۔ ”دم خم ہونا“ ہمت حوصلہ اور تاب و تواں کے لیے کہا جاتا ہے۔ ”دم مارنا“، ”حوصلہ کرنا“، ”دم دینا“ مرثنا، مرجانا اور غیر معمولی طور پر کسی سے محبت کرنا کہ وہ تو اس پر دم دیتا ہے۔ ”دم کرنا“ پھونک کر یا پڑھ کر دم کرنا ہے۔

باورچی خانہ کی اصطلاحوں میں بھی دم دینا آتا ہے جیسے چاولوں کو دم دیدیا پلاؤ کو دم دیدیا گرم کرنا، بھگارنا اور پکانا تینوں معنوں میں آتا ہے۔ ”دم درود ہونا“ بھی دم خم ہونا ہی ہے جیسے اس میں اتنا دم و درود نہیں کہ وہ اتنا کام کر سکے۔

”دم کا مہمان ہونا“ موت سے قریب ہونا کہ وہ تو کوئی دم کا مہمان ہے۔ ”دم قدم کا ساتھی ہونا“ ہر حالت میں ساتھ دینا، دم کے دم میں یہ کام ہو گیا، ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ ”دم توڑنا“ موت آجانا۔ اس نے راہ میں دم توڑ دیا اور اگر آدمی اپنا سانس روک لے تو اس کو دم چرانا کہتے ہیں۔

دم بخود رہ جانا، حیران اور شش در رہ جانا جب کوئی آدمی منہ لے کچھ کہہ بھی نہ سکے اور خاموش رہ جائے۔ آنکھوں میں دم اٹکنے کے معنی ہوتے ہیں۔ اس بیمار نے بہت انتظار کیا اور آخر وقت تک اس کا دم آنکھوں میں اٹکا رہا۔ یہ اس خیال پر مبنی ہے کہ سب سے آخر میں آنکھوں کا دم نکلتا ہے۔

ان محاورات میں ہمارے معاشرے کا "Observation" بھی شامل ہے رویہ اور روش بھی، تجربہ اور تجزیہ بھی۔ محاوروں کو اگر اس رشتہ سے دیکھا جائے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور ایک معاشرتی جاندار کے اعتبار سے انسان کے عمل اور رد عمل کے مختلف معنی اپنے بھید کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی معنویت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

◇ دن کو تارے نظر آنا یا دکھانا، دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھنا یا تارے گننا دن اور رات پر ہمارے یہاں بہت سے محاورے ہیں مثلاً ”دن ٹکنا“، ”صبح ہو جانا“،

”دن گننا“ وقت کو اس طرح گزارنا کہ ایک ایک دن پر نظر رہے کہ کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا۔ تھوڑا سا دن رہے یعنی جب دن کا بہت تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا میرا شعر ہے۔

صبح پیری شام ہونے آئی میرے تونہ جیتا اور بہت دن کم رہا
بڑھاپے کی صبح شام ہونے کے قریب آگئی تونہ جیتا اور بہت دن رہا یعنی تجھے
ہوش نہ آیا اور دن بہت کم رہ گیا، وقت ختم ہو گیا، موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اردو میں دن کا استعمال
علامت کے طور پر ہوتا ہے جیسے اچھے دن سکھ کے دن ہوتے ہیں اور برے دن دکھوں سے
بھرے دن ہوتے ہیں۔ ”دنوں کو دھکے دینا“ بھی ایسے محاورات میں سے ہے جس سے مراد
ہے مصیبت کا وقت گزارنا۔ جب آدمی کے پاس وقت ہوگا اور کوئی کام نہ ہوگا مفید کام تو وہ دن
گزارنا دنوں کو دھکے دینے کے مترادف ہوگا۔

برے دنوں کے دھکے ہیں یہ بھی ہمارے محاورات میں سے ہیں۔ ”آنکھوں میں
رات کاٹنا“ انتظار کرنا، جاگتے ہوئے رات گزارنا۔ ایسے عالم میں آسمان کو تکتا رہتا ہے اسی
حالت کو تارے گننا کہتے ہیں۔ تارے تو ان گنت ہوتے ہیں ان کو گنا نہیں جاسکتا لیکن بیکار
وقت میں جب کوئی کام نہیں ہوتا تو آدمی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے جو بے معنی ہوتی ہیں۔

◇ دو دو منہ ہنسنا

عام طور پر یہ محاورہ استعمال نہیں ہوتا لیکن دلچسپ محاورہ ہے اور اس محاورہ کی یاد دلاتا
ہے جس میں ”دو منہ ہونا“ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں اپنی بات بدل
دیتے ہیں۔ ابھی کچھ کہا اور کچھ دیر کے بعد کچھ اور کہ دیا یہ یاد نہیں رہا اور جان کر یاد نہیں رکھا کہ
پہلے کیا کہا تھا اور کیوں کہا تھا۔ ”دو دو منہ ہنسنا“ کسی پر فریب انداز کی طرف تو اشارہ نہیں کرتا
لیکن اس میں ایک نہ ایک حد تک یہ مفہوم موجود رہتا ہے کہ کسی بات پر یہاں ہنس دیے اور کسی
بات پر وہاں، یعنی ان کی ہنسی سنجیدگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی کسی بات پر یہاں تبسم بلب ہو گئے
اور کسی بات پر وہاں۔ چرنجی لال نے اسی مفہوم پر مشتمل ایک شعر بھی پیش کیا ہے۔ جو اس محاورہ
کی طرح خود بھی Rare ہے۔

یہاں ٹھہرے کبھی وہاں ٹھہرے

دو دو منہ ہنس لیے جہاں ٹھہرے

◇ دودھ بڑھانا، دودھ بھر آنا

ہمارے گھر اور آنگن کی زندگی کا عکس یا تو ہمارے علاقائی گیتوں میں ملتا ہے جنہیں لوگ گیت کہتے ہیں یا ہماری سماجی رسمیں اس کی عکاسی کرتی ہیں۔ جب بچہ کو دودھ پلانا شروع کیا جاتا ہے تو اس کو چھٹی کی رسم کہتے ہیں اس میں دودھ دھلائی کی رسم بھی شامل ہے۔ جس پر نندوں کو نیک دیا جاتا ہے۔ ”دودھ بڑھانا“ دودھ چھڑانے کو کہتے ہیں۔ چونکہ چھڑانے کا لفظ اچھا نہیں لگتا اسی لیے ”دودھ بڑھانا“ کہا جاتا ہے۔

دودھ کو ماں کے احسانات میں بڑا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ رسم بھی ہے کہ ماں کے مرنے پر اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے دودھ معاف کرایا جاتا ہے۔ جو بچہ کسی وجہ سے دوسری ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ ان بچوں کے دودھ شریک بھائی ہوتے ہیں جن کی ماں ان کی دودھ پلائی ہوئی ہے۔

اس معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دودھ کا بہت احترام کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہندوؤں میں گائے کو گوں ماما اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے بڑے اس کا دودھ پیتے ہیں۔ مندروں میں ایسی مقدس عورتیں بھی ہوتی تھیں جو مادر برہمنا کہلاتی تھیں یعنی ان کو جگت ماما کہا جاتا تھا۔ مشہور گیت ہے۔

جے جے جے جگدے ماما

اے جگت کی ماں تجھے ہزار بار پر نام اور سلام۔

اس سے ماں، دودھ اور دودھ کے حقوق جو ہماری سماجی نفسیات کا حصہ ہیں اس پر روشنی پڑتی ہے۔

◇ دوکوڑی کا آدمی دوکوڑی کی بات کر دینا، دوکوڑی کی عزت ہو جانا، دوکوڑیوں کے مول بکنا کوڑی پھیرا ہونا وغیرہ

کوڑی سیپ کی ایک قسم ہے اور سمندروں ہی سے آتی ہے۔ بیسویں صدی کے نصف اول تک یہ ہمارے سکوں میں بھی داخل تھی اور چھدام کے بعد کسی شے کا مول کوڑیوں میں ادا کیا جاتا تھا۔ دیہات اور قصبات کے لوگوں کو کوڑی کا تلفظ ”ڑ“ کے بجائے ”ڈ“ سے کرتے ہیں۔ اور جو چیز بہت سستی اور بہت معمولی قیمت کی ہوتی ہے اسے ”کوڑی“ سے نسبت کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ تو اس لائق بھی نہیں کہ اسے ایک کوڑی دے کر خریدا جائے

اس کے لیے دیہات والے کہتے ہیں یہ تو ”کوڑی“ کام کا بھی نہیں یادو کوڑیوں کا آدمی ہے۔ کسی چیز کو شہر والے بھی جب سننا ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کوڑیوں کے مول بولتے ہیں، حویلیاں کوڑیوں کے مول بک گئیں جس کو بہت چالاک ظاہر کرنا چاہتے ہیں یہ طنز کے طور پر کہا جاتا ہے وہ تو دو منٹ میں اچھے سے اچھے آدمی کی کوڑیاں کر لے یعنی کوڑیوں کے مول بیچ دے۔

دو کوڑی کی بات کرنا یا دو کوڑی کی عزت ہو جانا، بے عزتی کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تو دو کوڑی کا آدمی ہے اسی بات کو ہم ٹکے کے ساتھ ملا کر کہتے ہیں۔ جیسے دو ٹکے کا آدمی، اس بات کو پیسے کی نسبت سے بھی کہا جاتا ہے، جیسے تین پیسے کی چھو کری، یا ڈیڑھ پیسے کی گڑیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوڑی سے لیکر پیسے تک قیمت کا تعین کبھی ہوتا تھا اور اسے سماجی اونچ نیچ کے پیمانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اس طرح کے محاورے ہمارے ذہن کو زندگی سے اور زندگی کو زمانے سے جوڑتے ہیں۔ آج کوڑیاں دیکھنے کو نہیں ملتیں، پیسے دھیلے اور چھدام کے صرف نام رہ گئے ہیں لیکن ایک وقت ان سے ہم سماجی درجات کے تعین میں فائدے اٹھاتے تھے۔ اور کسی وجہ سے وہ محاورات سانچے میں ڈھل گئے۔

◇ دونوں گھر آباد ہونا دونوں وقت ملنا، دونوں ہاتھ تالی بجاتی ہے، دونوں ہاتھوں سلام کرنا، دونوں ہاتھ جوڑنا، دو دو ہاتھ اچھلانا

ہاتھ انسانی زندگی میں کارکردگی کی ایک اہم علامت ہے وہیں سے دانے ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی تقسیم بھی عمل میں آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یا یہ تو اس کا دایاں ہاتھ ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑنا یا دو دو ہاتھ ہونا دوسری طرح کے محاورے ہیں جب دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کیا جاتا ہے تو اس کے معنی انتہائی احترام کے ہوتے ہیں اور دست بستہ آداب کہتے ہیں اس کے مقابلہ میں دونوں ہاتھ جوڑ دیے یعنی اپنی طرف سے بے تعلقی بیزاری اور معذرت کا اظہار کیا۔

تالی دونوں ہاتھوں ہی سے بجاتی ہے یعنی ذمہ داری کسی بھی برائی کے لیے دو طرفہ ہوتی ہے۔ غلطی پر کوئی ایک نہیں ہوتا دوسری طرف سے بھی اکثر غلطیاں ہوتی ہیں۔ سماجی جھگڑوں میں اس طرح سے فیصلے زیادہ بہتر اور بے کار ہوتے ہیں جس میں دونوں طرف کا بھلا ہوا محاورے کے اعتبار سے دونوں گھر میں جائیں یہ نہیں کہ دونوں گھر اُجڑ جائیں۔ دونوں وقت ملنا شام کے وقت کے لیے کہا جاتا ہے اردو کا مشہور مصرعہ ہے۔

چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں

مگر یہ ایک طرح کا شاعرانہ اندازِ بیان ہے اور سماجی فکر پر بھی اثر انداز ہوا ہے کہ جب دن رات مل رہے ہوں تو کوئی دوسرے درجہ کی بات نہ کہنی چاہیے یا کرنی چاہیے یہ وقت احتیاط کا تقاضا کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب دن گزر جاتا ہے شام ہو جاتی ہے تو آدمی کو وقت کے گزرنے کا احساس زیادہ شدت سے ہوتا ہے جس کی طرف میر کا یہ شعر اشارہ کرتا ہے۔

صبح پیری شام ہونے آئی میر

تو نہ جیتا اور بہت دن کم رہا

اُردو کا یہ مشہور شعر بھی یاد آ رہا ہے۔

صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے

عمر یونہی تمام ہوتی ہے

جب آدمی کسی بات پر خوشی کا اظہار کرتا اور بے طرح کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا دل دو دو ہاتھ اچھل رہا ہے، یہاں ہاتھ پیمانہ ہے یعنی بہت اچھل رہا ہے۔ ویسے بلیوں اچھلنا بھی کہتے ہیں جو ایک نعرہ آمیز صورت ہے مگر مبالغہ ہماری سوچ اور ذہنی Approach کا حصہ ہے عام گفتگو میں اور محاورات میں بھی جہاں مبالغہ Preserve ہو جاتا ہے۔

◇ دھبا، دھبا لگنا، دھبا آنا

دھبا ہماری سماجی لغت کا نہایت اہم لفظ قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ لفظ بعض مواقع پر داغ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور داغ دھبا کہلاتا ہے۔ اسی سے دھبے کی سماجی نوعیت اور اہمیت کا اظہار ہوتا ہے کہ دھبا کسی چیز پر آتا ہے، لگتا ہے یا لگایا جاتا ہے تو وہ داغ کا حکم رکھتا ہے۔ اور عام طور پر جب دھبا لگنا دھبا آنا بولتے ہیں تو اس سے مراد ”داغ لگنا“ ہی لیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دھبا بڑ گیا، خاندان کو دھبا لگ گیا یعنی خاندان بے عزت ہو گیا۔

◇ دھجی، دھجیاں اڑانا، دھجیاں اڑنا، دھجیاں لگنا، دھجیاں ہونا، دھجی دھجی ہونا

یہ سب محاورے اپنی مختلف صورتوں میں بے حس ہونے یا بے قدر ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ وہ کپڑا کہاں ہے ذرا سی دھجی ہے یا اس کے کپڑے دھجی دھجی ہو گئے یا وہ دھجیاں لگائے پھرتا ہے۔ یا دھجیوں کو بھی وہ تہہ کر کے رکھتا ہے یعنی اسی طرح کے

کپڑے کہیں ریزوں کی طرح تہہ کز کے رکھے جاتے ہیں ان میں تو دھجیاں لگی ہوئی ہیں۔
اس سے ہم سماجی ردِ عمل اور معاشرتی سطح پر جو سوچ بنتی رہتی ہے اور ہمارے کمینٹس (Comments) سے گزرتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کپڑا ہماری سماجی زندگی کی ایک نہایت اہم جز ہے اس کا پہننا، اوڑھنا اور اچھا اور برا ہونا بھی قیمتی اور بے قیمت ہونا بھی دوسروں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اس کا اظہار اس کہاوت سے بھی ہوتا ہے کھائیے من بھاتا، پہنے جگ بھاتا یعنی دوسروں کی نظر بے اختیار لباس کی طرف اٹھتی ہے اور اسی کی حیثیت کے مطابق آدمی کی شخصیت شعور اور ذاتی حیثیت کا تعین کیا جاتا ہے۔

◇ دھرم کرنا، دھرم لگتی کہنا، دھرم سے کہتا ہوں

دھرم ہندو اپنے مذہب کو کہتے ہیں اور اس کو قانونِ قدرت اور دستورِ فطرت سمجھتے ہیں اسی لفظ کا تلفظ بودازم میں دھما ہے۔ اور بود مذہب کی مذہبی کتاب کو دھم پد کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ دھرم کرو، مہاتما گوتم بدھ کے لفظ میں اب چاند گرہن کے موقع پر پنچ قوم کے جو لوگ خیر خیرات مانگنے آتے ہیں وہ ”دھرم کرو“ کہتے ہیں۔ ”دھرم کی کہنا“ اس سے مراد ہے دیانت داری کے ساتھ ایمان کی بات کہنا۔ ”دھرم لگتی کہنا“ بھی ایمان داری کی بات ہے۔ ”دھرم مورت ہے“ کسی بہت بڑے مہاتما یا سادھو سنتھ کو کہا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ محاورے کلچر، عقیدہ، خیال اور کئی دائروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ہندو، مسلمان، دراوڑ، آریہ اور ہند ایرانی کلچر کے اثرات کو موقع بہ موقع جگہ بہ جگہ دیکھا جاسکتا ہے۔ ”دھرم سے کہتا ہوں“ یعنی خدا کو حاضر و ناظر کر کے کہتا ہوں یا قسم کھاتا ہوں۔ دھرم سوامی نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ مگر زیادہ تر مذہب کے بڑے نمائندوں کو دھرم سوامی کہا جاتا ہے۔ دھرم داس، دھرم نارائن، دھرم پال جیسے نام ہندوؤں میں عام ہوتے ہیں۔

◇ دھرے اڑانا

مغربی یو۔ پی میں یہ محاورہ عام ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بری طرح پیش آنا، سخت سزا دینا اور اذیت پہنچانا، ممکن ہے یہ لفظ ڈڑے سے بنا ہو۔ عربوں میں ڈڑے مار کر سزا دی جاتی ہے اور یہاں بھی دھرے اڑانے میں سزا ایزا پہنچانے کا تصور شامل رہتا ہے۔ چرنجی لال نے اس کے مفہوم میں دھجیاں اڑانے کو بھی شامل کیا ہے۔

◇ دہلی کا کتا، دہلیز کا کتا، دہلیز نہ جھانکنا

کتا اگرچہ ایک وفادار جانور ہے لیکن اس کا نام تک ذلت کے ساتھ لیا جاتا ہے، ہم اپنی

سماجی زندگی میں کتے کو بے عزت سمجھتے ہیں اور بے عزتی کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں۔ بلکہ کتا کہنا یا کتا کہہ کر پکارنا ہماری سماجی زبان میں ایک طرح کی گالی ہے۔ کتے بلی کی زندگی گزارنا ہے، بے عزت ہو کر جینا ہے اسی لیے جسے دہلی کا کتا کہتے ہیں اسے مفت خور، بے عزت اور گرا پڑا قرار دیتے ہیں۔ ”کتے بھونکنا“ ویرانی کے لیے آتا ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ ان گلیوں میں کتے روتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب آسمان سے بلائیں اترتی ہیں تو وہ کتوں کو نظر آ جاتی ہیں۔ اور اسی کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اسی لیے کتے بلی کا رونا منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کی تو اہم پرستی ہے اور یہ بھی واقع ہے کہ کتے بعض چیزوں کو سونگھ کر اچھے برے کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ اور اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔

کتے کی دم ہونا، یعنی اس کا اپنا ایک کردار ہے، بُرا کردار جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ کتے کے گلے پٹہ باندھنا، یعنی تابعدار بنانا، کتے کی طرح دم ہلانا یعنی عاجزی اور خوشامد کا اظہار کرنا۔

”گلی کا کتا ہونا“ کسی کام کا نہ ہونا، اسی لیے کہتے ہیں اور دھوبی کے کتے سے اسے تشبیہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ دہلیز نہ جھانکنا، دہلیز پر کھڑا ہونا، اس کے یہ معنی ہیں کہ ادھر کوئی آیا بھی نہیں۔ دروازے پر کھڑا بھی نہیں ہوا۔ مانگنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اصل میں دروازے پر جانا اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کسی سے کچھ مانگنے گیا ہے اس کی طرف ہمارے فارسی اور اردو لٹریچر میں برابر اشارے آتے رہے ہیں۔

◇ دہلی کے لیولے ڈالنا

یہ عجیب و غریب محاورہ ہے ”لیوڑ“ مٹی کی تہوں کو کہتے ہیں اگر کسی آدمی کے بار بار آنے جانے سے ”لیوڑ“ اکھڑ جائیں اور مٹی کی تہیں باقی نہ رہیں تو آنے جانے کی زیادتی کا اندازہ ہوتا ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اُردو کا مشہور مصرعہ ہے۔

قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا

مگر کسی فرض کی ادائیگی یا ضروری کام سے جانا اس حکم میں نہیں آتا۔ اس سے ہم سماجی رویوں کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ وقت کی بھی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے اور آدمی کی بھی خواہ مخواہ اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع کرنا، اچھا نہیں سمجھا جاتا۔

◇ دھند کا پسارا ہونا

”دھند کا پھیلا رہنا“ آنکھوں سے نہ نظر آنا ہے، خواہ وہ آنکھوں کی کمزوری کے باعث ہو یا دھواں گھٹنے کی وجہ سے ہو یا دھند پھیل جانے کی وجہ سے۔ ہم جب نہیں دیکھ سکتے تو دھوکا کھا جاتے ہیں، فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی لیے دھوکہ یا فریب کو یعنی دھند کا پسارا کہتے ہیں۔ دھند کا اسی سلسلے کا ایک بہت معنی خیز لفظ ہے دھند کا چھایا ہوا ہے یعنی صورت حال صاف نہیں ہے۔

◇ دھن دھن کرنا

مبارک باد دینا، بہت مشہور فقرہ ہے کام سنواروں اپنا دھن دھن کریں لوگ کا بگاڑو اپنا پھٹ پھٹ کریں۔ لوگ سماج میں ”دھن“ دولت کو بھی کہتے ہیں اور خوشی کے اظہار کو بھی۔ خواہ مخواہ دھن دھن کرنا زور زور بولنا، بیکار باتیں کرنا ہے۔

”دھن سوار ہونا“ کسی چیز کا بے حد شوق ہونا۔ اور اس کے لیے مارے مارے پھرنا جیسے ہم داستانوں میں دیکھتے ہیں۔ ”دھن کا پکا ہونا“ اپنی بات پراڑے رہنا اور ذرا اسی دیر میں ادھر اور ذرا اسی بات میں ادھر ہونے کا جو عام رویہ ہوتا ہے اس کے خلاف ہونا۔ دھونی زمانا سادھوسنت جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں آگ جلاتے ہیں وہ آگ ان کے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔

جس میں خوشبودار چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں اسے دھونی رمانا کہتے ہیں اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ دھیان گیان کے خیال سے بیٹھ گئے اور دوسری باتوں سے اپنا رشتہ منقطع کیا تو اس کو ”دھونی رمانا“ کہتے ہیں کہ وہ تو وہاں دھونی رما کر بیٹھ گئے یہ ہندو روایت سے وابستہ محاوروں میں ہے۔ اور ہمارے سماج پر ہندو مذہب کے اثرات کا اظہار کرنے والی ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

◇ داہنے اور بائیں ہاتھ سے ایک ساتھ کھانا حرام ہے

بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا حرام ہے۔ ہم لوگ اچھے برے جائز ناجائز مناسب یا مناسب کو مذہبی انداز سے پیش کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ داہنا ہاتھ ہمارے خیال میں عزت و احترام کی ایک علامت ہے اور بہت قدیم زمانے سے اس پر زور دیا جاتا ہے۔ داہنے ہاتھ سے کھا، داہنے ہاتھ سے لکھو یا داہنا ہاتھ ملایا پھر داہنے ہاتھ سے سلام کرو وغیرہ اس کے مقابلہ میں

”بائیں ہاتھ سے کھانا“ ایک طرح کا سوئے ادب یا بدتمیزی خیال کی جاتی ہے اور دونوں ہاتھ ایک ساتھ ملا کر کھانا ایک بہت ہی بے تکی بات ہے اشارہ اسی کی طرف کرنا ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔

اس سے ہماری اپنی معاشرتی فکر کا اندازہ ہوتا ہے اور مذہب پر اس کے اعتماد و اعتقاد کا کہ وہ ہر بات کو حلال و حرام کے دائرے میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ہم بائیں ہاتھ سے آب دست لیتے ہیں اس لیے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اس میں کوئی برائی نہیں لیکن کچھ لوگ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں "Left Hander" یہ ان کی فطری مجبوری ہوتی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارا ایک عام رویہ ہے کہ ہم ایسے معاملات کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر نہیں دیکھتے انھیں تقسیم (Over simplification) کی منزل سے گزارتے ہیں جب کہ فرق و امتیاز کا باقی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

◇ دھنیے کی کھوپڑی میں پانی پلانا

ایک خاص طرح کا محاورہ ہے اور ہمارے مشرقی مزاج کی نمائندگی کرتا ہے۔ دھنیا ایک بہت چھوٹا سا اندر سے کھوکھلا بیج ہوتا ہے۔ وہ اگر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کا ایک ٹکڑا وہ کوئی سا بھی ہو دھنیے کی کھوپڑی کہلاتا ہے۔ اس میں کوئی چیز بھری تو جاسکتی ہے مگر اس کی مقدار کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور اس میں پانی پلانا حد درجہ کی بخیلی بلکہ دوسرے کے ساتھ ایک سطح پر ذلیل سلوک ہے جو ہرگز نہ ہونا چاہیے۔

پیاسے کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ پانی کی مقدار بھی زیادہ ہونی چاہیے اور صاف ستھرے برتن میں ہونا چاہیے اسی لیے جب کسی کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے اور اس میں بخیلی شامل ہوتی ہے تو اسے دھنیے کی کھوپڑی میں پانی پلانا کہتے ہیں۔

◇ دھواں دھار برسنا

ہمارے ہاں پانی دھوئیں کا لفظ عوامی معاشرت میں بڑی اہمیت رکھتا تھا اس لیے کہ دھوئیں کا تعلق آگ سے ہے اور آگ پرستش کا عنصر بھی رہی ہے اور مقدس سمجھی گئی ہے اسی لیے مسلمانوں کے بعض مذہبی کاموں میں بھی دھواں شامل رہتا ہے۔ مثلاً ”لوبان جلانا“ جو تیجے کی رسم میں ہوتا ہے۔ یعنی خوشبو کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے مگر دھوئیں کے ساتھ اسی لیے بھوت پریت کا اثر دور کرنے کی غرض سے دھونی دی جاتی ہے۔ جہاں مویشی باندھے جاتے ہیں وہاں

بھی دھونی دینے کا رواج رہا ہے اور اب بھی ہے۔

گھر سے دھواں اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آگ موجود ہے اور چولہا جل رہا ہے۔ ایک کے گھر سے آگ مانگ کر دوسرے کے گھر میں چولہا جلایا جاتا تھا۔ اس طرح سے ”دھواں گھٹنا“ ”دھواں اٹھنا“ بھی محاورہ بنا۔ اور ”دھوئیں اٹھانا“ بھی یہاں تک کہ جب بارش بہت زور سے پڑتی ہے یا برستی ہے تو اسے دھواں دھار بارش کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے محاوروں کے ذریعہ ایسی معاشرتی نفسیاتی تہذیبی اور اس زندگی کو پیش کرتے ہیں جو ہم موسموں کے تحت گزارتے ہیں۔

◇ دھوپ میں بال سفید کرنا

”بالوں کا سفید ہو جانا“ بہت سے تجربوں سے گزرنا ہے بہت سی معلومات حاصل کرنا ہے اور وقت سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہمارے ملک میں اسی لیے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ کوئی شخص زیادہ عمر کا ہے انگریزی میں بھی اسے سینئر شہری (Senior Citizen) کہتے ہیں یعنی اس کی زیادہ عمر کا احترام کرتے ہیں۔

بالوں کی سفیدی کو عمر سے اور عقل سے اور تجربہ سے نسبت دی جاتی ہے۔ اسی لیے گاؤں کے لوگ بڑے بوڑھوں کو بدمنٹر بڑے سروالا کہا جاتا ہے۔ اور سفید بال Maturity کا نشان سمجھے جاتے ہیں اسی لیے ہمارے یہاں روایتی طور پر لوگ اپنی عمر کو اپنی بڑائی کا نشان بھی خیال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے یعنی ان کی سفیدی سے ہماری عمر ہماری عقل اور ہمارے تجربہ کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب کسی کی عقل کی کمی اور عمر کی زیادتی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم نے یہ بال دھوپ میں سفید کیے ہیں اس سے ہمارے محاوروں کا ہماری زندگی ہماری معاشرت اور ہمارے تہذیبی رشتوں سے وابستگی کا اظہار ہوتا ہے۔

◇ دھوکے کی ٹٹی

پُر فریب صورت، مکاری اور دغا بازی کا طریقہ، ٹٹا، ٹٹی، گھاس پھوس کے پردے کو کہتے ہیں جو گھروں کے سامنے عام طور پر لگایا جاتا تھا۔ ایسے ہی کچے پکے اور گھاس پھوس کے جھونپڑے بھی ہوتے تھے۔ جب ٹٹی کے ذریعہ کسی دھوکے بازی کو چھپایا جاتا تھا۔ یعنی اس کی کوشش کی جاتی تھی تو اسے ”ٹٹی کی اوٹ میں فریب دینا“ کہتے تھے۔ ممکن ہے یہ طریقہ خاص طور سے شکار کرنے کے موقع پر اختیار کیا جاتا ہو اس لیے کہ ذوق نے اپنے ایک شعر میں ٹٹی کی اوٹ (اوٹ) شکار کرنے کی بات کی ہے اور کہا ہے۔

کرتی ہے قصد ٹٹی کی اوجھل شکار کا

(ذوق)

خط نکلنے پر بھی گیسو میں پھنسے مرغ نظر
دھوکے کی ٹٹی تیرے عارض کا سبزہ ہو گیا

(نامعلوم)

◇ ڈھول اڑانا یا خاک اڑانا

”ڈھول“ ہلکی باریک مٹی کو کہتے ہیں جو ہوا کے ساتھ اڑتی رہتی ہے۔ بچے کھیل میں بھی مٹھیاں بھر بھر کر ہوا میں اچھالتے اور خاک اڑاتے رہتے ہیں۔ جب تیز ہوا چلتی ہے تو خاک بے طرح اڑتی ہے اسی سے ہمارے یہاں یہ محاورہ آیا کہ خاک ڈھول کی طرح اڑا دیا۔ یہ عام طور سے ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہا ہے جو دوسروں کی محنت کو برباد کرتے ہیں اور خاندانی اثاثہ کو اپنی بیوقوفیوں سے برباد کر دیتے ہیں اس میں زمین و جا بکیدا بھی ہو سکتی ہے زروزیور بھی ہو سکتا ہے اور عزت و وقار بھی، اسی لیے ہمارے یہاں خاک ڈھول سے مطابق بھی بہت سے محاورات ہیں۔

◇ دہلیز کا کتا، دہلیز نہ جھانکنا

”دہلیز“ گھر کی چوکھٹ کو کہتے ہیں۔ ایک زمانہ میں یہ ہمارے یہاں بڑی اہمیت کی بات ہوتی تھی کہ کوئی آدمی بزرگوں کی چوکھٹ کو آ کر چومے اور اُسے سلام کرے۔ ہندو جاتیوں میں دکان کی چوکھٹ کو آج بھی چوما جاتا ہے اور گھر کی چوکھٹ کو سلام کیا جاتا ہے۔

صوفیوں کی خانقاہوں کے ساتھ یہ رویہ عام مسلمانوں میں بھی موجود ہے جو لوگ اس کی پروا نہیں کرتے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی دہلیز بھی نہیں جھانکتے یعنی کبھی آ کر بھی نہیں پھٹکتے۔ اس کے مقابلہ میں جو آدمی بے غیرتی کے ساتھ کسی کے دروازے پر پڑا رہتا ہے اس کو دہلیز کا کتا کہتے ہیں۔ اب اس لفظ کا استعمال ہمارے یہاں کم ہو گیا ہے۔ گاؤں والے اپنے تلفظ کے مطابق اس کو دہلیج کہتے ہیں۔

◇ دہلیز کے لیولے ڈالنا، یا لے ڈالنا

اسی طرح وہ آدمی جو اپنی غرض کے لیے کسی کے دروازے کے چکر لگا تا رہتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ دہلیز کے لیولے لے ڈالتا ہے۔ ”لیوڑ“ دراصل بدن یا زمین پر الگ سے

جوٹی یا میل کچیل جم جاتا ہے تو اسے ”لیوڑ“ کہتے ہیں اور یہاں ”لیوڑے لینے“ کے معنی اسی کو ہٹا دینے کے ہیں۔

ہمارے جغرافیائی حالات کا اثر ہماری سوچ پر کس طرح مرتب ہوتا ہے اور ہماری جو معاشی اور معاشرتی زندگی ہوتی ہے اس سے ہماری فکر اور ہماری زبان کس طرح کے اثرات قبول کرتی ہے۔

◇ دھوم ڈالنا، دھوم مچانا، دھوم ہونا

دھوم دھام حواشی سے تعلق رکھنے والی لفظیات میں سے ہے اسی لیے ”دھوم مچانا“ خوشی کے ساتھ آوازیں نکالنے کو بھی کہتے ہیں۔ کسی اچھی خبر کی شہرت کو بھی کہ اس کی دھوم مچ گئی سارے شہر میں دھوم مچ رہی ہے، دھوم دھام ہو رہی ہے یعنی خوشیوں کا ماحول ہے۔ باجے تاشے بچ رہے ہیں۔ زمینداروں جاگیرداروں بڑے بڑے ساہوکاروں بادشاہوں اور نوابوں کے یہاں جب خوشی کے جشن منائے جاتے تھے تو عام طور پر سارے شہر یا علاقے میں دھوم دھام کا ماحول ہوتا تھا۔ ان لفظوں سے بنے ہوئے محاورات کے ذریعہ ہم ماضی میں گزاری جانے والی اپنی معاشرتی اور تاریخی زندگی کے کچھ پہلوؤں سے واقف ہوتے ہیں اور آج بھی یہ صورت حال ہوتی ہے تو اس سے لطف لیتے ہیں اور اس کا ذکر اچھا لگتا ہے۔

◇ دھونس دینا، دھونس میں آنا، دھونس کی چلنا

”دھونس“ دیہاتی زبان میں نقارے کو کہتے ہیں اور نقارہ شہرت و اقتدار اور انتظام کی ایک علامت کے اعلان کے بھی ہیں اسی لیے نوبت و نشان بادشاہی حکومت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ نوبت نقارہ ہی کو کہتے ہیں۔

یہاں سے گزر کر دھونس ایک نئے معنی اور نئے پس منظر کے ساتھ ہمارے محاورہ میں استعمال ہوتا ہے اور جب ہم ”دھونس دینا“ کہتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کوئی شخص زبردستی اپنی بات منوانا چاہتا ہے اور اپنی بات کا پریشیر ڈالنا چاہتا ہے۔

دیہات والے بھی دھونس دینے کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ شہر کے عام لوگوں کی زبان پر بھی یہ محاورہ اسی معنی میں آتا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سماج میں اچھے برے لوگوں کا رویہ کیا کیا شکلیں اختیار کرتا ہے تو دھونس دینا، دھونس نہیں لینا یا دھونس میں آجانا بھی سماجی رویوں اور ان کے اثرات کی طرف اشارہ ہے۔

◇ دھینگا دھینگی کرنا

دھینگا مستی کرنے کو بھی کہتے ہیں اور یہ اسی طرح کا ایک عمل ہے جیسے دھول دھپا کرنا جو عام لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا ذرا سی بات پر لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم ایک بار پھر اس طرف توجہ دینے پر مجبور ہوتے ہیں کہ محاورات دراصل ہمارے سماج کے رویوں کا مطالعہ ہے کیونکہ وہ عام زبان میں ہے اور عوامی بولی ٹھولی کا حصہ ہے اس لیے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے سماجی رویوں کے کون کون سے پہلو ایسے ہیں جو ہمارے محاورے جن پر روشنی ڈالتے ہیں اور "Comment" کرتے ہیں۔۔۔

◇ دیدنہ شنید

دونوں لفظ فارسی کے ہیں۔ دیدن کے معنی دیکھنا اور شنیدن کے معنی سننا۔ عام طور پر اس زمانہ میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا آدمی تمام تر بھروسہ اپنی معلومات کے لیے دیکھنے پر کرتا تھا یا سننے پر اسی لیے لوگ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ نہ کہیں دیکھانہ سنا لکھنے پڑھنے کا ذکر ہی نہیں آتا۔ اس سے ہم اپنے گزرے ہوئے زمانہ کی تہذیبی فضا کو جان سکتے ہیں اور یہ بھی کہ فارسی کے اثرات ہماری زبان پر اس طرح مرتب ہوئے ہیں کہ ہم نے فارسی محاوروں کا ترجمہ کیا ہے۔ دید و شنید فارسی محاورہ ہی ہے دیکھانہ سنا اس کا ترجمہ ہے جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ فارسی اثرات کو ہم نے اپنی زبان اپنے بیان اور اپنے فکری رویوں میں اسی طرح ایک زمانہ میں جذب کیا ہے جیسے آج کل انگریزی خیالات اور لفظیات کو جذب کرتے ہیں۔

◇ دیدہ دلیر، دید دلیری، دیدہ دھوئی، دیدہ ریزی، دیدہ ہوائی ہونا، دیدے کا پانی ہونا، دیدے کی صفائی دیدے نکالنا

دیدہ دیکھے ہوئے کو کہتے ہیں لیکن اُردو میں دیدہ آنکھوں کے معنی میں آتا ہے اور آنکھوں کا ہمارے خیالات ہمارے سوالات اور چہرے کے تاثرات سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ آدمی میں جب ایک طرح کی بے حیائی آ جاتی ہے اور وہ اپنی کسی بری بات پر شرماتا بھی نہیں تو اسے دیدہ دلیری کہتے ہیں اور ایسا آدمی دیدہ دلیر کہلاتا ہے۔ عورتوں میں ایک اور محاورہ بھی رائج ہے "دیدہ دھوئی" یعنی اس نے اپنی آنکھوں کی شرم و حیا، غیرت اور پاسداری بالکل ختم کر دی اسی کو آنکھوں کا پانی ڈھل جانا بھی کہتے ہیں۔

ہوائی دیدہ یا دیدہ ہوائی عورتوں کا محاورہ ہے اور اس کے معنی غیر سنجیدہ طرز نگاہ ہے کہ

ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا لیکن سوچ سمجھ سے کوئی واسطہ نہ رکھا۔ اسی لیے ایسے لڑکے اور لڑکیوں کو جو اپنی ذمہ داریوں سے دور رہنا چاہتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اس کو دیدہ ہوائی کہتے ہیں۔

”دیدہ ریزی“ فارسی ترکیب ہے اور اس کے معنی ہیں بہت دیکھ بھال کر یا کسی تحریر کو پڑھنے اور سمجھنے میں محنت شاقہ برداشت کرنا جو کم ہی لوگ کر پاتے ہیں۔ دیدے کی صفائی اسی معنی میں آتا ہے جس معنی میں دیدہ دھوئی آیا ہے۔ ”دیدے نکالنا“ آنکھیں دکھانے کو کہتے ہیں اور جو بہت گھٹیا آدمی ہوتا ہے اسے ندیدہ کہتے ہیں یعنی اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔

◇ دیواریں چاشنا، دیوار کھینچنا، دیوار ڈھانا، دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، دیوار قہقہہ ہونا، دیوار اٹھانا، دیوار اٹھنا، دیوار کوٹھے چڑھنا

دیوار سے مطابق بہت سی روایتیں ہمارے مذہبی لٹریچر میں بھی آئی ہیں تاریخ میں بھی۔ سچ یہ ہے کہ دیوار ہماری معاشرتی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ چینیوں نے منگولوں کے حملے روکنے کے لیے ایک بہت لمبی دیوار بنائی تھی جو پندرہ سو کوس تک جاتی تھی۔ اس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور تعمیری لحاظ سے دنیا کے سات عجائبات میں گنا جاتا ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج قوم کے لوگ کسی قدیم ملک میں گھس کر تباہی مچانا چاہتے تھے روایت کچھ اس طرح ہے کہ ان کے اور اس ملک کے درمیان سیسہ کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی جس سے وہ گزر کر اندر نہ جاسکیں اور وہ ملک ان کی تباہی سے محفوظ رہے۔

یاجوج ماجوج اس دیوار کو صبح سے شام تک چاٹتے ہیں جس سے وہ تپلی ہو جاتی ہے اور وہ یہ خیال کر کے کہ ہم کل اسے ضرور ختم کر دیں گے، یہ کہہ وہ چلے جاتے ہیں۔ رات کو پھر دیوار اپنی جگہ پر اسی طرح بھاری بھرم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دیوار کا اور تصور ہے جو الف لیلہ میں آیا ہے اور اسے دیوار قہقہہ کہتے ہیں کہ جو اس کے اوپر چڑھ کر دوسری سمت دیکھتا ہے وہ بے طرح ہنستا ہے اور ہنستے ہنستے گر کر مر جاتا ہے اور یہ نہیں بتلا سکتا کہ ادھر ہے کیا۔

دیوار کا تصور حصار سے بھی وابستہ ہے اور اسے دیوار شہر کہتے ہیں۔ گھریلو سطح پر دیوار کے اپنے ایک معنی ہیں وہ دیوار پردہ ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ گویا گھر کا تصور قائم ہوتا ہے۔ ”کوٹھے دیوار چڑھنا“ عورتوں کا محاورہ ہے اور اس ماحول کی طرف اشارہ کرتا ہے جب کہ گھر کی دیوار سے باہر جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی اور کوٹھے دیوار چڑھنے کو اس لیے منع کیا

جاتا تھا کہ کوٹھے دیوار میں اس طرح ملی ہوتی تھیں کہ یہاں سے وہاں اور وہاں آنا جانا کوڈ مشکل بات نہیں ہوتی تھی، مگر اسے عام طور سے پردہ دار عورتوں کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔

دیواریں پردہ کا بھی کام دیتی ہیں اور رازداریوں کا بھی۔ احتیاط اتنی بڑھتی جاتی تھی کہ بات کرنے کے وقت بہت آہستہ اس لیے بولا جاتا تھا کہ کوئی پاس پڑوس کا آدمی نہ سن لے۔ اسی لے کہا جاتا تھا کہ ”دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں“، ”کوٹھے دیوار جھانکنا“ بھی محاورہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر آدمی جھانکتا پھرے۔ یہ اچھا نہیں لگتا۔ کنواری لڑکیوں کے لیے تو یہ اور بھی برا سمجھا جاتا تھا اسی لیے جب کسی لڑکی کی تعریف کی جاتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ کسی نے اس لڑکی کو کوٹھے دیوار نہ دیکھا۔

دیوار اٹھنا یا دیوار اٹھانا گھر کی تعمیری ضرورت کے لیے بھی ہوتا ہے اور دیواریں کھڑی کرنا گھر کی تعمیری ضرورت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ”دیوار کھڑی کرنا“ مشکلات اور مصیبتیں پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ میرے سامنے مشکلات کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں ہیں۔

ر د ی ف _____ ڈ

◇ ڈاڑھی کا ایک ایک بال کرنا

ہمارے یہاں مذاہب نے اپنی اپنی جو وضع قطع رکھنا چاہی اور اپنے ماننے والے طبقات میں اس کو رائج کیا لباس کی وضع قطع کے علاوہ ڈاڑھی کو بھی ایک سماجی حیثیت حاصل ہے۔ ڈاڑھی عزت و وقار اور بڑی حد تک تقدس کی علامت ہے۔ اسی لیے ”ڈاڑھی پکڑنا“ اور ”ڈاڑھی میں ہاتھ ڈالنا“ بے عزتی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اور کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں تیری ڈاڑھی کے ایک ایک بال کر دوں گا اس سے ہم اپنے ماحول کی تہذیبی قدروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ڈاڑھی نوچ لینے کے بھی یہی معنی ہیں اور ”بال بال کر دینے“ کے ہیں، یعنی بے عزتی کرنا ہے۔

◇ ڈال کا پکا، ڈال کا ٹوٹا

ہمارے ہاں آم ایک مشہور پھل ہے۔ قدیم زمانہ سے سنسکرت اور ہندی لٹریچر میں اس کا ذکر آتا رہتا ہے اور تعریفوں کے ساتھ آتا ہے، ہمارے ہاں آموں کے باغ کے علاوہ

ایک سطح پر آموں کے جنگل ہوتے تھے جب آموں کے باغ لگائے جانے لگے تو وہ آم ملنے لگے جو ڈال پر پک کر تیار ہو اور جس کو ڈال سے توڑ کر کھایا جاسکے اس لیے کہ تازگی اسی پھل میں ہوتی ہے۔ ایسے پھل بھی ہوتے ہیں جنہیں پال میں دبا کر یا کوئی دوا چھڑک کر پکایا جائے۔ آم تو عام طور سے پال میں دبائے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں۔ ایک ڈال کے پکے ہوئے آم کی یا کسی بھی پھل کی لذت اور لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ”ڈال کا پکا“ کہتے ہیں۔ ویسے آم مٹکے کا بھی ہوتا ہے اور اس کو محاورے میں ”ٹیکے کا آم“ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ پکتا ہے تو شاخ کو چھوڑ کر زمین پر گر جاتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں وہ پکا پھل جسے ڈال سے توڑا جاتا ہے وہ زیادہ قابلِ تعریف اور خوش مزہ سمجھا جاتا ہے اسی لیے ڈال کا ٹوٹا کہتے ہیں اور اسی نسبت سے آدمیوں کے کردار اور ان کی قدر و منزلت کا ذکر بھی ہوتا ہے اور پھلوں کا اطلاق آدمیوں کی شخصیتوں پر کیا جاتا ہے۔

◇ ڈنکے کی چوٹ کہنا

ڈنکا ہمارے دیہاتی قصباتی اور شہری سماج میں ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ کہنا، ڈنکا بچنا جیسے محاورے ہمارے یہاں ایک خاص معنی رکھتے ہیں۔ ہم کسی بات کا اعلان کروانے کے لیے منادی کروادیتے تھے تاکہ سب کو خبر ہو جائے اس کو ڈھنڈھورا بھی کہتے تھے۔ ”ڈنکا پیٹنا“ بھی اسی سے نکلا ہے اور ڈنکا پیٹنا بھی۔ دونوں شہرت دینے اور شہرت پانے کا عمل ہے مگر برائی کے معنی ہیں۔ جس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اس کی شہرت ہوتی ہے اسے ”ڈنکا بچنا“ کہتے ہیں مگر وہ صرف برے معنی میں نہیں آتا۔ ان کی شہرت کا ڈنکا بچ رہا ہے ایسے ہی موقعوں پر بولا جاتا ہے۔

دہلی میں ملکہ زینت محل جب محل سے باہر آتی تھیں تو ان کے ساتھ ڈھول بچتا ہوتا تھا یا دوسرے باجے تاشے بچتے تھے اسی لیے ان کو ڈنکا بیگم کہا جاتا تھا۔ آج شہرت پانے اور شہرت دینے کے ذریعہ میڈیا کی وجہ سے دوسرے ہو گئے تو اب ڈنکے کا لفظ محاورہ میں رہ گیا مگر معاشرہ اس سے دور ہوتا گیا ”ڈھول پیٹنا“ بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ”ڈھول بچنا“ بھی۔ یہ ہمارے تمدن کی ایسی یادگاروں میں سے ہے جن کو ہم بھولتے جا رہے ہیں مگر ہمارے محاوروں کے ذریعہ گویا یہ حالات اور یہ ماحول "Preserve" ہو گیا ہے۔

◇ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا (بہت ہوتا ہے)۔ ڈوب مرنا

ڈوبنا ہمارے ایسے الفاظ میں سے ہے جو سماجی حقائق میں سے روشنی ڈالتے ہیں دیہات قصبات کے لوگ ڈوبے ڈھیری کہتے ہیں جس کے معنی ہیں اس کا قصہ ختم ہو گیا۔ جب ہاتھ ادھار کی رقم واپس نہیں آتی تو اسے رقم ڈوب جانا کہتے ہیں۔ نقصان کی صورت میں بھی رقم ڈوبنے کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح ”گھر ڈوب گیا“ تباہی کے معنی میں آتا ہے یا پھر بہ جانے کے معنی میں آتا ہے۔ اُردو کا ایک مصرعہ ہے۔

ایسا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب چلا میخانہ بھی

”ڈوبتے کو تنکے کا سہارا“ ایسے ہی موقعوں پر بولا جاتا ہے جب شخصی وجود خطرہ میں پڑ گیا ہو اور سہارا ملنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ دوسروں کے غیر مخلصانہ رویوں کی وجہ سے آدمی کسی پر اعتماد بھی نہ کر سکتا ہو، ایسے برے وقت میں کوئی کمزور سے کمزور سہارا بھی آدمی کو بڑی بات نظر آتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈوبنے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ بلکہ واقعتاً وہ سہارا کچھ نہیں ہوتا ایک نفسیاتی عمل ہوتا ہے اور بس۔

◇ ڈھاک کے تین پات، ڈھائی دن کی بادشاہت، ڈھائی گھڑی کی آنا

ڈھاک ہمارے اپنے علاقہ کے معروف درختوں میں ہے جس کے جنگل کے جنگل کھڑے رہتے تھے اور سیٹھوں کے پھول ڈھاک ہی کے پھول ہوتے ہیں۔ اس کا اپنا خاص رنگ ہوتا ہے، یہ دواؤں میں کام آتے ہیں۔ ڈھاک کے پتے سودا سلف کے کام آتے تھے۔ گوشت اسی میں رکھ کر دیتے تھے اور پھول اور ہاروغیرہ انھی پتوں میں رکھ کر دیے جاتے تھے لیکن ڈھاک نے ہمیں ایک عجیب محاورہ دیا اور وہ ڈھاک کے تین پات رہ گئے۔ اس لیے کہ ڈھاک کے تین ہی پات ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرہ میں کچھ ایسا ہے کہ اکثر کوششیں ناکام ہوتی ہیں اور کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا ایسے ہی موقع پر ڈھاک کے تین پات کہتے ہیں۔

◇ ڈھائی چلو ہو پینا یا پلانا، ڈیڑھ اینٹ کی مسجد چننا

چلو ہاتھ کے پیمانے کو کہتے ہیں اب اس کا ذکر بھی اور دور بھی ختم ہوا۔ ورنہ دیہات و قصبات میں بعض محاورات میں چلو کا لفظ بہت آتا تھا۔ اور کہتے تھے کہ ڈیڑھ چلو پانی میں ڈوب مرو۔

ڈیڑھ اور ڈھائی بھی محاوراتی کلمات میں آتے ہیں۔ جیسے ”ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانا“ ڈھائی گھڑی کی بنا، تجھے بن جائے ڈھائی ڈھائی گھڑی کی۔ یہ عورتیں کو سننے کے طور پر محاورہ استعمال کرتی تھیں۔

”ڈھائی دن کو جھونپڑا“ دہلی کے خاص محاوروں میں ہے اس اعتبار سے ”ڈھائی چلو پوپینا یا“ پلانا اس طرح کا محاورہ ہے جس میں ایک خاص انداز سے معاشرتی فکر اور پیمانہ کا ظہار کیا جاتا ہے۔

مطلب ڈھائی گھڑی یا ڈھائی دن نہیں ہوتا ایک خاص مدت ہوتی ہے جس کی ناپ کا پیمانہ ڈھائی کو مقرر کیا جاتا ہے۔ ڈھائی دن کی بادشاہت اسی ذیل میں آتا ہے۔

◇ ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے

چھاؤں ہمارے یہاں سایہ کو کہتے ہیں اور سایہ سر پرستی محبت اور عارضی حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا یا سایہ دیوار بھی میسر نہ آیا۔ ”سایہ میں پڑا رہنا“ نکلے پن کو کہتے ہیں۔ اپنا مارتا ہے تو چھاؤں میں بٹھاتا ہے ہاتھوں چھاؤں کرتا ہے۔

اسی چھاؤں کو ہم اپنے دن رات کے تجربہ کی روشنی میں ”چلتی پھرتی چھاؤں“ بھی کہتے ہیں کہ ”ابھی چھاؤں ہے تو ابھی دھوپ ہے“ اور جہاں جہاں دھوپ آتی ہے وہاں وہاں چھاؤں تو ہوتی ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پینترے بدلتے رہتے ہیں اچھے دن بھی ہمیشہ نہیں رہتے اور برے دن بھی گزر جاتے ہیں، ظاہر کرنے کے لیے چلتی پھرتی دھوپ چھاؤں کہا جاتا ہے۔

◇ ڈھونگ رچانا، ڈینگ مارنا

ڈھونگ خواہ مخواہ کی بات کو کہتے ہیں اور جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتا یا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس کو ”ڈھونگ رچانا“ کہتے ہیں۔ کہیں کہیں یہ محاورہ ڈھونگ باندھنے کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے اور ڈینگ مارنا اس کی ایک اور شکل ہے یعنی جھوٹی سچی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ یہ وہی ہے جو ہوا باندھنا کے معنی کے طور پر آتا ہے غالب کا مصرعہ ہے۔

ہم بھی مضمون کی ہوا باندھتے ہیں

◇ ڈھیل دینا، ڈھیلی ڈور چھوڑنا یا کرنا، (ڈور ڈھیلی کرنا)

نظر انداز کرنا ہے، اسی لیے محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈھیل دے

رکھی ہے۔ ”ڈھیل دینا“ دراصل پتنگ بازوں کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا بلکہ اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اسی لیے ڈور ڈھیلی کرنا اور ڈھیلی چھوڑنا غیر ضروری آزادی دینے کو کہتے ہیں جس میں نرمی برتنے کا مفہوم شامل ہے۔ اس سے ہمارے تہذیبی رویوں کو بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ہم انتظام میں ایک گونہ سختی اور باقاعدگی کو ضروری سمجھتے تھے۔ جوش نے تو ایک موقع پر یہ بھی کہا ہے۔

کھر درے ہاتھوں میں رہی ہے حکومت کی لگام

یعنی حکومت کے لیے سختی لازمی ہے اور انتظام میں ذرا سی بھی ڈھیل دینا اس میں خلل پڑنے کا باعث ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زندگی کو پل صراط کا سفر کرنا قرار دیا جاتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پگڈنڈی ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور دھار سے زیادہ باریک ہے اور ذرا سی توجہ اگر راستہ سے ہٹ جاتی ہے اور پیروں میں لغزش آ جاتی ہے تو آدمی ایسے گہرے کھڈ میں گر جاتا ہے کہ وہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔

ر د ل ف ز

”ز“ کے محاورے کل چھ ہیں لیکن بہت معمولی طور پر شامل کیے گئے ہیں اس لیے ان کا مطالعہ باقاعدہ طور پر یہاں پیش نہیں کیا گیا۔ اس سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ تمام حرفوں سے بننے والے الفاظ ایک ہی سی نوعیت نہیں رکھتے اور اسی سے ان کی تعداد میں بھی فرق آتا ہے اور ان کے استعمال میں بھی۔

ر د ل ف ز

◇ رات تھوڑی ہے سانگ بہت ہے

سانگ ہمارے یہاں دیہاتی ڈرامہ بھی ہے جو ایک طرح سے سوانگ ڈرامہ ہوتا ہے یعنی گیتوں بھرا تماشہ، اس کے علاوہ ”سانگ بھرنا“ بھی محاورہ ہے۔ لباس وضع قطع تبدیل کرنا، نمود و نمائش کے لیے جب ایسا کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا سانگ بھرا ہے یا وہ بہت سانگ بھرنے کا عادی ہے یعنی جھوٹی سچی باتیں کرتا ہے اس کو سانگ کرنا اور بھرنے بولتے ہیں اور اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ ابھی تو بہت سا سانگ باقی ہے اور یہ بھی کہ رات تھوڑی ہے اور سانگ بہت ہیں۔ چونکہ پچھلی صدی عیسوی تک ہمارے یہاں سانگ ڈرامہ کا رواج بہت تھا اور کبھی کبھی

تو صبح ہو جاتی تھی اور ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا اسی طرف اس محاورہ میں اشارہ کیا گیا ہے اور مراد یہ لی گئی ہے کہ وقت تھوڑا ہے کام بہت ہے۔

◇ راجا اندر کا اکھاڑا

راجا اندر دراصل موسم کا راجا ہے۔ موسم کے ساتھ طرح طرح کے کام گیت سنگیت اور کھیل تماشے ہوتے ہیں، تماشہ کرنے والی منڈلیاں ہوتی تھیں، وہ اکھاڑے کہلاتے تھے ہم اکھاڑا صرف کشتی ہی کے اکھاڑے کو سمجھتے ہیں اس سے ایک طرح کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ راجا اندر کا اکھاڑا پر یوں کے غول پر مشتمل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے راجہ اندر کے اکھاڑے کی پریاں اور راجا اندر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بہت سی حسینائیں جمع ہوں اسی لیے مذاق کے طور پر یا طنزیہ انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ راجا اندر بنے رہتے ہیں۔ یہ محاورہ ہو یا مذکورہ محاورہ، دونوں سانگ و سنگیت سے متعلق ہیں دونوں کی ایک سماجی حیثیت ہے۔

◇ راستہ یا راستہ بتانا یا دیکھنا راستہ پر آنا، راستہ یا راستہ ناپنا، راہ لگانا، راہ پیدا کرنا وغیرہ

راستہ ہمارے لیے زندگی میں کوئی بھی کام کرنے کی غرض سے ایک ضروری وسیلہ ہوتا ہے، چاہے وہ چلنے کا راستہ ہو، چاہے کام کرنے کا سلیقہ طریقہ، اس کو جاننا بھی پڑتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا بھی ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد بھی درکار ہوتی ہے جو ہمیں راستہ بتادیں، طریقہ سکھلا دیں، وقت پر مناسب مشورہ دے دیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی راستہ بتلائے اس لیے کہ اگر راستہ غلط ہو گیا تو منزل بھی غلط ہو جائے گی اور مقصد پورا نہ ہوگا۔

یہیں آدمی دوسروں کی اچھائیوں سے بھی واقف ہوتا ہے اور برائیوں سے بھی کہ لوگ کچھ بتلانا نہیں چاہتے اور خود غرض لوگ غلط راستہ بتاتے ہیں، یعنی مکاریوں سے بھرا کوئی مشورہ دیتے ہیں۔ راستہ بتانا یا راستہ دکھانا، صلاح و مشورہ دینا، خلوص کی بات ہوتی ہے مگر اسی میں ساری بدخلوصیاں، انتقام کا جذبہ یا مکاری بھی شامل ہوتی ہے، آدمی کبھی ٹالتا ہے، کبھی بہانے بازیاں کرتا ہے، کبھی بہت دلچسپ اور پرفریب صورت حال کو سامنے لاتا ہے تاکہ جس کو غلط راستہ پر ڈالنا مقصد ہے وہ اپنی سوجھ بوجھ سے کام نہ لے سکے۔

راستہ سے متعلق جو محاورے ہیں اور جن کو اوپر درج کیا گیا ہے وہ اسی دھوپ چھاں جیسی صورت حال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ راستہ نکالنا، راستہ نکل آنا، راستہ سے بھٹکے جانا،

راستہ بھول جانا یا بھلا دینا سب اسی سلسلہ کے محاورے ہیں اور اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے محاوروں کا ہماری سماجی صورتِ حال سے کیا رشتہ ہے اور وقت و حالات اور ماحول کا ہماری سماجی صورتِ حال سے اور ماحول کیا رشتہ ہے اور وقت و حالات اور ماحول کے ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں راستہ کو راہ بھی کہتے ہیں اور یہ محاورے راہ سے بھی وابستہ ہیں۔

◇ رام رام کرنا (رام رام چپنا)، رام نام کی لوٹ، رام ڈہائی، رام کی کہانی، رام کی مایا، رام لیلیا، رام کی پچھیا وغیرہ

رام کی مذہبی اور تہذیبی شخصیت ہمارے معاشرے میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ہندو معاشرے کی ایک سائیکی میں داخل ہے۔ گاؤں کے اور آدمیوں کے نام رام کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ راون رام کے مقابلہ میں ایک دوسرا کردار ہے جس کو برائیوں کا ایک علامتی کردار خیال کیا جاتا ہے۔ راون کی سیتا، راون کی نگری یا راون کی لٹکا اسی نسبت سے محاوروں میں داخل ہوتی ہے۔

”رام کو یاد کرنا“ نیکیوں کے سرچشمے کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے جیسے رام رام کرو، رام بھلی کرے گا، رام نام کی لوٹ، مفت کا مال ہے بڑی چیز ہے تم جتنی بھی چاہو یہ دولت تمہاری بن سکتی ہے۔

مصیبت کے وقت میں رام کی دہائی بھی دی جاتی ہے اور مصیبتوں بھری کہانی کو رام کہانی کہا جاتا ہے۔ رام کتھا بھی رام کہانی ہی ہے مگر اس کا مفہوم کچھ دوسرا ہے۔ رام کے نام پر آئیو والے محاورے اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری زبان اور محاوروں کے سرچشمے کہاں کہاں ہیں اور کن سماجی محرکات کے ذریعہ محاوروں سے متعلق مفہوم و معنی کے سلسلہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب رام کی مایا ہے اسی معنیاتی سلسلہ کی طرف اشارہ کرنے والے محاورہ ہے۔

◇ رستم یا افلاطون کا سالا

بعض کردار عوام کے دلوں میں اتر جاتے ہیں ذہنوں پر چھا جاتے ہیں۔ ان میں ایک افلاطون کا کردار بھی ہے جو یونان کا تقریباً ڈھائی ہزار برس پہلے ایک فلسفی گزرا ہے جو ارسطو کا اُستاد تھا۔ اس کا فلسفہ ہمارے یہاں علمِ حکمت اور دینی مسائل میں بھی رہنمائی کرتا رہا ہے ہمارے عوام کے دلوں میں یہ فلسفیانہ مسائل تو کیا اترتے وہ افلاطون کو ایک بہت بڑی چیز سمجھتے

ہیں اور دوسروں کے لیے اُسے بطور برائی استعمال کرتے ہیں۔ وہ افلاطون ہو رہا ہے، خود کو افلاطون کا سالہ سمجھتا ہے یا افلاطون بنا کر پھرتا ہے۔ افلاطون کو ان نفسیاتی رویوں سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہماری زبان ہمارے ذہن اور ہمارے زمانے کے عام لوگوں کے پاس یہی تصور ہے۔ ورنہ عام لوگ افلاطون کو کیا جانیں۔

رستم قدیم ایران کا ایک پہلوان تھا بہت بڑا بہادر جس کی حیثیت اب ایک اساطیری کردار کی سی ہو گئی ہے اور بہادری میں اس کا نام بطور مثال آتا ہے۔ جسے ہمارے یہاں بڑا پہلوان اور طاقتور سمجھتے ہیں اس کو رستم زمان خیال کرتے ہیں۔ گاماں پہلوان کا خطاب رستم ہند تھا، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ افلاطون کی طرح رستم کا حوالہ بھی عوام کی زبان پر طنز کے طور پر آتا ہے کہ وہ بڑے رستم زمان بنے پھرتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو رستم کا سالہ سمجھتے ہیں۔ انواہ عوام میں پڑی ہوئی بات کو آسانی سے رد بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ تو ہمارے محاورہ کا حصہ بن جاتی ہے۔ محاورہ میں آئی ہوئی بات اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ ہماری سانگی میں اتر گئی، ہے، نفسیات کا جز بن گئی، تاریخ نہیں ہے افسانہ ہے لیکن سماجی سچائی کا حصہ ہے۔

◇ رس مارے رسائن ہو

رس کا لفظ ہندی میں بہت با معنی لفظ ہے اس کے معنی لطف و لذت کے بھی ہیں، جذبہ و احساس کے بھی، مشروبات (پینے) کی چیز میں اور مسوعات میں بھی۔ یعنی جو ہم سنتے ہیں جیسے کانوں میں رس گھولنا، رسیلی آواز، رس بھرا لہجہ۔ ایسا پھل جس کا عرق میٹھا اور خوش ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی رسال، رسیلا اور رس بھرا کہلاتا ہے۔ رس بھری ہمارے یہاں ایک پھل بھی ہے۔

ہندی میں مختلف جذبوں کو ”رس“ کہتے ہیں جیسے ہانس سے رس، وی رس، نشرنگار رس یہاں اس محاورے میں رس کو ”رساں“ کہا گیا ہے۔ رسائن کے معنی ہیں، دوا، علاج کی غرض سے کھلائی پلائی جانے والی اشیا۔ اس محاورے کے معنی ہوئے کہ اگر وہ رس کا چھینٹا مار دے، اچھی بات کہہ دے تو جی خوش ہو جائے اور ایسا محسوس ہو جیسے کسی دکھ درد کی دوا مل گئی یہ خالص ہندی محاورہ ہے اردو میں مستعمل نہیں مگر بہت اچھا ہے۔

◇ رسی جل گئی پر بل نہیں جلا، یاری جل گئی پر بل نہیں نکلا (گیا)

ایک اہم سماجی محاورہ ہے۔ رسی ایسے میٹرل سے بنائی جاتی ہے جو گل بھی جاتا ہے

اور جل بھی جاتا ہے۔ لوہے کی رسیوں کا تصور پہلے زمانہ میں نہیں تھا وہ اب کی بات ہے۔ ایسی صورت میں اگر رسی جل بھی جاتی تھی تو اس کے بل راکھ میں بھی نظر آتے تھے۔ اس مشاہدہ سے یہ محاورہ اخذ کیا گیا کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ اور اس کا اطلاق ایسے موقعوں پر ہوتا ہے جب آدمی دولت مند نہیں رہتا یا بااقتدار نہیں رہتا مگر اس کے نازنخرے یا ادب و آداب کو پسند کرنے کا طریقہ وہی رہتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے، طور طریقے وہی رہے جو نوابی کے زمانہ کے تھے یا افسری کے زمانہ کے تھے۔

◇ رفو چکر ہونا

لفظی اعتبار سے غیر معمولی محاورہ ہے کہ رفو اور شے ہے، چکر کچھ اور۔ رفو کا چکر سے کوئی تعلق نہیں، جب کہ ان دونوں سے جو محاورہ بنا ہے اس کے معنی غائب ہو جانے کے ہیں اور عام طور سے استعمال ہوتا ہے جہاں کسی آدمی سے متعلق کوئی کام کیا جاتا ہے اور وہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے۔ اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے تو اسے رفو چکر ہونا کہتے ہیں، یعنی کسی ذمہ داری سے بچنا اور غیر ذمہ داری کے ساتھ نکل جانا۔

◇ رکابی مذہب ہونا

”رکابی“ کھانے کی پلیٹ کو کہتے ہیں اور پلیٹ میں کھانا کھانا بڑی بات سمجھا جاتا تھا۔ عام طور پر غریب آدمیوں میں یہ دستور تھا کہ ایک ہی برتن میں سب کھاتے تھے یا پھر روٹی پر رکھ کر کھاتے تھے۔ اب جن لوگوں کے یہاں رکابی میں رکھ کر کھانے کا رواج ہوتا تھا اور اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے ان سے لوگ قریب آتے تھے اور ان کی خوشامدیں طرح طرح سے کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگ خوشامدی نہ کہلا کر ”رکابیہ مذہب“ کہلاتے تھے۔ یعنی ان کا مقصد خوشامد ہے اور اس خوشامد کے طور پر یہ ان کے مذہب کی بھی تعریف کرنے لگیں گے۔

اس صورت حال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سماج میں لوگ مذہب کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں سمجھتے تھے بلکہ جیسا موقع ہوتا تھا اس کے مطابق مذہب اختیار کر لیتے تھے۔

اُردو میں ایک دوسری کہاوت ہے جو اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہے ”جہاں دیکھا تو ابرات وہیں گزاری ساری رات“ یعنی جہاں اپنا کام بننا دیکھا وہیں کے ہو رہے اور انہی کی سی بات کرنی شروع کر دی۔

◇ رگ پٹھے سے واقف ہونا، رگ وریشہ میں پڑنا

یہ محاورہ حکیموں یا پہلوانوں کا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ رگ پٹھوں سے واقف ہونا انہی کے پیشے کا تقاضہ ہے۔ لیکن ہماری سماجی زندگی میں بھی یہ محاورہ داخل ہے اور اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں، خوب جانتا ہوں۔ آدمی اپنے آپ کو طرح طرح کے نقابوں میں چھپانا چاہتا ہے اسی کا جواب سماج کے دوسرے افراد کی طرف سے یہ آتا ہے کہ وہ ہم سے نہیں چھپ سکتے۔ داغ کا مصرع ہے۔

وہ ہم سے بھی چھپیں گے وہ کہاں کے ایسے ہیں

اور اسی لیے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو ان کے رگ وریشے سے یارگ پٹھوں سے واقف ہیں، یعنی ایک ایک بھید جانتے ہیں۔

اگر دیکھا جائے تو شخصی، جماعتی یا خاندانی راز چھپائے جاتے ہیں۔ مصلحتیں اسی میں ہوتی ہیں، مگر عزیزوں رشتے داروں ملنے جلنے والوں یہاں تک کہ پاس پڑوس والوں کی یہ خوشی اور خواہش رہتی ہے کہ وہ ایک ایک بات کو جانیں۔ یہ ہمارا معاشرتی انداز نظر ہے ایک حد تک اور خاص خاص موقعوں پر یہ ضروری بھی ہو سکتا ہے لیکن معاشرہ میں اس رویہ کی عمومیت اچھی بات نہیں ہوتی۔

◇ رنگ چڑھنا، رنگ جمانا یا جمانا، رنگ دیکھنا رنگ پھیکا پڑنا، وغیرہ

رنگ ہمارا ایک تہذیبی لفظ ہے۔ مختلف تہذیبی رویوں کے ساتھ رنگ وابستہ بھی ہوتے ہیں۔ رنگوں کا احساس اور اس کا الگ الگ ہونا فطرت کی دین ہے۔ جنگلوں کا رنگ، پھولوں پھلوں کا رنگ، پتھروں اور پانیوں کا رنگ، ہمیں قدرت کی رنگارنگی کا احساس دلاتا ہے۔ ”رنگ بکھرنا“، رنگ پھیلنا، رنگ اڑنا ”رنگ پھیکا پڑنا“ جیسے محاورے رنگ ہی سے وابستہ ہیں۔ بعض محاورے ہماری معاشرتی زندگی اور اس کے ذہنی رویوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔

”رنگ جمانا“ ایسا ہی ایک محاورہ ہے کہ دوسروں میں اپنی کوشش خواہش اور عمل سے اپنے بارے میں ایک احساس پیدا کرنا۔ ”رنگ جمانا“ بھی اسی صورت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ”رنگ پھیکا پڑنا“ بھی اور یہ بھی کہ ہم نے یہ رنگ بھی دیکھے ہیں یعنی ان کے یا کسی کے بارے میں ہماری نظر میں یہ سب باتیں بھی ہیں اُردو کا مشہور مصرعہ ہے رنگ کے بدل جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے

اس کا پہلا مصرعہ ہے۔

زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا

یعنی زمانہ میں کیا کیا انقلاب ہوتے ہیں اور زندگی میں کیا کیا رنگ دیکھنے پڑتے

ہیں، کن کن حالات سے گزرنا ہوتا ہے۔

◇ رنگ رلیاں منانا، رنگیں مزاج ہونا

ہم رنگیں طبیعت بھی کہتے ہیں، رنگین مزاج بھی اور اس سے مراد شوقین مزاج لیتے

ہیں۔ زندگی گزارنے کے کچھ مختلف طریقے ہیں۔ سنجیدہ مزاج لوگوں کے کچھ اور طریقے ہوتے

ہیں۔ شوقین مزاج لوگوں کے کچھ اور وسائل کا فرق اس میں بہت کچھ دخل رکھتا ہے۔ مال دار

لوگ یا جاگیردار اور زمین دار خاندانوں کے افراد اکثر عیش اور مزے اڑاتے ہوئے دیکھے جاتے

ہیں، اسی کو ”رنگ رلیاں منانا“ کہتے ہیں۔ اب اس میں جاگیریں جائدادیں تباہ ہو جاتی ہیں

خاندان مفلس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے اور اس پر غیر سنجیدہ افراد اور امیر زادے کوئی

توجہ نہیں دیتے کہ کل کو کیا ہوگا۔

اس سے ہم اپنے معاشرتی رویوں کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ زندگیاں کیسے گزاری جاتی

ہیں اور ان سے اچھے برے نتیجے کیا نکلتے ہیں۔

◇ روح بھٹکنا، روح تھرا نا یا کانپنا، روح نکالنا، روح نکلنا وغیرہ

روح، ہمارے جسم میں وہ جوہر یا قوت ہے جو بھیدوں بھری ہے، وہ کیا ہے اور کیا

نہیں ہے یہ کوئی نہیں جانتا، مگر اسی کے سہارے ہم زندہ رہتے ہیں اور اسی کے تقاضا ہمیں اپنی

مادی ضرورتوں سے اوپر اٹھاتے ہیں۔ ہماری ایک انسانی اور روحانی اخلاقی اور مذہبی سوچ بنتی

ہے جس سے نسبت کے ساتھ ہم اسے روحانی طریقہ فکر کہتے ہیں۔

ہمارا خوف، دہشت، تکلیف اور راحت سب روح کے ساتھ ہے۔ روح بدن سے

نکل گئی تو نہ کچھ تکلیف ہے نہ راحت ہے، نہ زندگی ہے نہ قیام ہے، نہ بقا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا

ہے کہ ہمارا بدن یا جسم ناشور ہے (فنا ہونی والا ہے) اور باقی رہنے والی روح ہے جو نہ کٹ سکتی

ہے نہ گل سکتی ہے۔ اسی سے ہمارے بہت سے محاورے بنے ہیں۔

روح کے بھٹکنے کے معنی ہیں کہ انسان کا ذہن بھٹک رہا ہے اس کو سکون نہیں مل رہا۔

اس سے ایک خیال یہ بھی پیدا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح بھٹکتی ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت یا دوزخ یا اعراف میں چلی جاتی ہے۔ تصورات ہیں جو اعتقادات میں بدل گئے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ روح کا ہم سے تعلق ہمارے بدن اور ہماری زندگی کے معاملات سے اس کا رشتہ انسانی نفسیات کا اور اس سے آگے بڑھ کر سماجیات کا ایک گہرا رشتہ ہے جس کی طرف مذکورہ محاورات اشارہ کرتے ہیں۔ ”روح تھرانا“ انتہائی خوفزدگی ہے، سراسیمگی اور پریشانی کا عالم ہے۔

◇ روغنِ قاز ملنا

”روغنِ قاز ملنا“ ایک عجیب و غریب محاورہ ہے۔ قاز جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک آبی پرندہ ہے۔ ایک خاص موسم میں اڑ کر ادھر آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کا روغن ایک فرضی بات معلوم ہوتی ہے خاص طور پر اس لیے کہ روغنِ قاز ملنا ایک محاورہ بن گیا ہے اور اس کے معنی ہیں جھوٹ سچ بول کر یا خوشامد کر کے دوسروں کو بیوقوف بنانا، اور یہی صورت حال ہمارے سماجی رویوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

◇ رونگٹے یا روئیں کھڑے ہونا، رونگ رونگ میں بسنا، رونمائی دینا، روتی صورت یا شکل رومال پر رومال بھگوننا

بعض محاورے سماجی زندگی سے اتنا تعلق نہیں رکھتے جتنا ان کا رشتہ ہمارے شاعرانہ طرز فکر سے ہوتا ہے۔ ”رونگٹے کھڑے ہونا“ سنسنی خیز ہونے کی ایک صورت ہوتی ہے جو ایسی باتوں کو سن کر جو انتہائی دکھ درد والی ہوتی ہیں ہم جذباتی طور پر محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ان کے مظالم کی کہانیاں سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یاروم روم میں سنایا، مرارونکنا رونکنا میرا احسان مند ہے یا اس طرح کے محاورے شاعرانہ حیثیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اور تشبیہ و استعارہ کی مبالغہ آمیز صورت کو پیش کرتے ہیں جیسے میری آنکھیں نمک کی ڈلیاں بنی رہیں یا آگ کھائے گا انگارے اگلے گا۔ یہ ایک طرح کی شاعری ہے، عمل ہے۔ اور اس معنی میں محاورہ معاشرت کے اس تہذیبی پہلو سے رشتہ رکھتا ہے جس کا تعلق ہمارے شعر و شعور سے ہے۔ رونمائی دینا رسم ہے۔ دلہن کو منہ دکھائی دی جاتی ہے اور دولہا کو سلامی۔ اس طرح کے محاورے اور بھی ہیں جس کا تعلق بڑی حد تک ہماری سوچ سے ہے، طرز اظہار سے ہے۔ تشبیہوں استعاروں سے ہے سماج کے کسی رویہ پر روشنی ڈالنے سے نسبتاً کم ہے جو ہمارے لیے قابل گرفت یا لائق اعتراض

ہوتا ہے۔ روتی صورت یا مشکل بھی ایسے ہی محاوروں میں ہے ”رومال پر رومال“ بھگونا یعنی بہت رونا ہے یہ ایک شاعرانہ انداز بیان بھی ہے۔ اور ایک صورت حال کی طرف اشارہ بھی ہے۔

◇ ریت بلونا، ریت کی دیوار کھڑی کرنا

”ریت“ ایک طرح کی شاعری ہے اس لیے کہ ریت جمتی نہیں ہے۔ بکھرتی رہتی ہے۔ ریت کی دیوار کھڑی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے مراد ایک بے تکی اور بے بنیاد بات کو اٹھانا اور اس پر زور دینا، ریت کی دیوار کھڑی کرنا ہے۔

”ریت پانی نہیں ہوتا“ پانی کو بھی بلونے سے کوئی فائدہ نہیں کہ جتنا چاہے پانی کو بلونے کا عمل کرو نتیجہ کچھ نہیں۔ دیوتاؤں نے سات سمندروں کو بلو کر بھلے ہی امرت نکالا ہو آدمی تو نہیں نکال سکتا، چہ جائیکہ ریت کو بلویا جائے۔ سوائے دھول اٹھنے یا دھول اڑنے کے کوئی نتیجہ نہیں ہوگا اسی بے نتیجہ بات کی طرف اس محاورے میں اشارہ کیا گیا ہے۔

سماج کا رویہ یہاں بھی پیش نظر رہا ہے کہ لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کے کچھ معنی بھی ہیں یا نہیں۔

اگر ہم محاورات پر نظر ڈالیں اور ان کے معنی کو زندگی کے مسائل و معاملات سے جوڑ کر دیکھیں تو ہم بہت کچھ نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ ریت کے ساتھ اور بھی محاورے ہیں جیسے ”ریت مٹی ہونا“، ”ریت کی طرح بکھرنا“، ”ریت کو مٹی میں تھامنا“ اب یہ ظاہر ہے کہ زندگی کے تجربہ (تجربات) ہیں روزمرہ کے مشاہدہ (مشاہدات) ہیں کہ انسان کے نیک اعمال بھی اچھے کام بھی گاہ بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں اس میں تقدیر کو بھی دخل ہو سکتا ہے اور تدبیر کو بھی سوچ بوجھ کو بھی، نہ سمجھی کو بھی۔ جسے بے تدبیری کہنا چاہیے۔

◇ ریوڑی کے پھیر میں آجانا

ریوڑی تل اور شکر سے بنی ہوئی ایک مٹھائی ہے۔ اس کے لیے شکر کا قوام تیار کرنا اور پھر اسے ایک خاص ترکیب اور عمل کے ذریعہ اس مرحلہ تک لانا جہاں اس سے ریوڑیاں بن جائیں، ایک محنت طلب اور دشوار مرحلہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے شکر کے قوام سے ریوڑیاں بنتی دیکھی ہیں وہ اس بات کے معنی سمجھ سکتے ہیں کہ ”ریوڑی کے پھیر میں پڑنا“ کس طرح کے پیچیدہ عمل سے گزرنا ہے۔ جس کو سب سمجھ بھی نہیں سکتے۔ عام طور پر دشوار عمل کو اس محاورے سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ تو آج کل ریوڑی کے پھیر میں پڑا ہوا ہے۔

◆ ریشم کے لچھے

ریشم کے لچھے ایک خاص طرح کا شاعرانہ انداز ہے۔ ریشم خوبصورت پُرکشش، نرم اور گداز شے ہے۔ خوبصورت بالوں کو بھی ریشم کے لچھے کہتے ہیں اور اسی طرح سے خوبصورت باتوں کو بھی اگر ہم اس سچائی کو سامنے رکھیں تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ محاورے ہمارا شعور بھی ہیں اور ان کا تعلق شعریت سے بھی ہے کہ محاوروں میں تشبیہ، استعارہ اور کنایہ جو کام کرتے ہیں ان کا تعلق گاہ گاہ ہماری شعری حیثیت سے ہوتا ہے۔

رولیف _____ ز

◆ زار زار، رونا زار و قطار رونا زار و نزار

یہ بھی ایک طرح کی شاعری ہے یا شاعرانہ اندازِ نظر ہے کہ بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہیں تو اسے زار و قطار رونا کہا جائے۔ زارِ بدن کے معنی فارسی میں رونے کے ہیں، اسی سے زار زار اور قطار کو شامل کرتے ہوئے زار و قطار رونا کہا گیا ہے۔ جسے گریہ بے اختیار بھی کہتے ہیں، یعنی جب رونے پر کوئی قابو نہ ہو اور عالم بے اختیاری میں آنسو بہ رہے ہوں اور مسلسل رونے کا عالم ہو۔ زار و نزار اس کے مقابلہ میں بہت کمزور آدمی کو کہتے ہیں جب اس میں تاب و توان نہ رہے وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ سکے کہ ان کی حالت تو بہت ہی زار ہے وہ زار و نزار ہو رہے ہیں یا زار و نزار نظر آتے ہیں۔

◆ زبان بدلنا پلٹنا، زبان بگڑنا، زبان بند کرنا، زبان بند ہونا، زبان بندی کرنا،

زبان پر چڑھنا، زبان پکڑنا، زبان تڑاق پڑاق چلنا، زبان چلنا، زبان درازی کرنا،

زبان چلائے کی روٹی کھانا، زبان داب کے کچھ کہنا، زبان داں ہونا، زبان دینا،

زبان روکنا، زبان سمجھنا، زبان نکالنا، زبان دینا، زبان روکنا، زبان سمجھنا، زبان

نکالنا، زبان سنبھالنا، زبان کو لے گئی، زبان کے چٹخارے لینا، زبان کے نیچے زبان

ہے، زبان میں کانٹے پڑنا، زبانی جمع خرچ کرنا، زبانی منہ بات ہونا، زبان

گھسنا، زبان گدھی سے کھینچ لینا، وغیرہ وغیرہ

زبان قوتِ گویائی کی علامت ہے۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں اور جتنا کچھ کہتے ہیں اس کا

ہمارے ذہن، ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ دوست و دشمن تو اپنی جگہ پر ہوتے ہیں لیکن تعلقات میں، ہمواری اور ناہمواری میں بہت کچھ زبان کے استعمال کو دخل ہوتا ہے کہ کون سا فقرہ کہا جائے کس طرح کہا جائے اور کس موقع پر کہا جائے۔

لوگ زبان کے استعمال میں عام طور پر پھوہڑ (بد سلیقہ) ہوتے ہیں اور الفاظ کے چناؤ میں احتیاط نہیں برتتے، جو منہ میں آجاتا ہے کہہ جاتے ہیں۔ زبان روکنے اور زبان کے اچھے برے استعمال پر نظر داری کا رویہ ان کے ہاں ہوتا ہی نہیں یہی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اچھے دل برے ہو جاتے ہیں دلوں میں گرہ پڑ جاتی ہے، یہ زبان کے صحیح اور غلط استعمال سے ہوتا ہے۔

زبان کے استعمال میں لب و لہجہ کو بھی دخل ہوتا ہے اور شیریں بیان آدمی محفل میں باتیں کرتا ہو زیادہ اچھا لگتا ہے اور اپنی میٹھی زبان کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے۔ خوش لہجہ، خوش گفتار ہونا خوش سلیقہ ہونا بھی ہے۔

اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کی زبان اور لہجہ میں بے طرح کھر دار پن ہوتا ہے، ایسے لوگ اکھڑ کہلاتے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ زبان کا اکھڑ پن، ذہنی ناگواری، دلی طور پر ناخوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر ان محاوروں پر غور کیا جائے جو زبان اور طرز بیان سے متعلق ہے تو ہماری سماجی زندگی کی بہت سی نارسائیوں کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب یہ جداگانہ بات ہے کہ ہم غور و فکر کے عادی نہیں ہیں۔ زبان کے استعمال اور اس کے اچھے برے نتائج کی طرف ان محاوروں میں اشارے موجود ہیں یہ گویا ہمارے اپنے تبصرے ہیں جو ذہنی تجزیوں اور معاشرتی تجربوں کی آئینہ داری کرتے ہیں۔ ہم ان سے بھی کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ یہ بہر حال ہمارے سماجی رویہ کی بات ہے لیکن ہم نے اس کا احساس کیا اور محاورات میں اپنے محسوسات کو محفوظ کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے اور اس سے زبان کے تہذیبیاتی (تہذیبی) مطالعہ کے بعض نہایت اہم پہلو میسر آ گئے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان ٹوٹی نہیں یعنی یہ دوسری زبان کے الفاظ یا آوازیں صحیح طور پر اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ برابر بولے جاتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان تالو سے نہیں لگتی۔ بعض اپنے آس پاس کے لوگوں سے بہت خطرے میں رہتے ہیں ان کو بتیس دانتوں کے بیچ میں رہنے والی زبان سے تشبیہ دیتے ہیں کچھ لوگ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں۔

میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں
کاش پوچھو مدعا کیا ہے
(غالب)

بعض لوگوں کو اپنی زبان دانی پر فخر ہوتا ہے اور وہ داغ کی طرح یہ کہتے نظر آتے ہیں۔
اُردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ

سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے
غرض جو لوگ اپنے سامنے کسی کو بولنے نہیں دیتے وہ زبان آور کہلاتے ہیں۔ بعض
لوگوں کی زبان میں بہت تلخی اور کڑواہٹ ہوتی ہے وہ کڑوی زبان والے کہلاتے ہیں۔ اسی
طرح زبان کے بارے میں بہت سے محاورات کا لمبا سلسلہ ہے، جس میں کسی نہ کسی لحاظ سے
زبان کا اپنا اسلوب، اظہار، طریقہ گفتگو اور زبان پر قدرت کے پہلو سامنے آتے ہیں اور ان
پر تبصرہ دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے اور ایسے ہی فقرہ زبان کے بارے میں ہمارے یہاں
بہت ملتے ہیں، یہ شاعری میں تو زیادہ کھیل ہی زبان کے حسن استعمال کا ہوتا ہے اور لطف زبان
پر دور دیا جاتا ہے اُردو کا شعر ہے۔

بیانِ حرمتِ صہبا صحیح مگر اے شیخ

تری زبان سے اس کا مزہ نہیں جاتا

بہت سے شعروں کو ہم زبان کی خوبصورتی کے اعتبار سے زبان کا شعر کہتے

ہیں اور اس طرح بیان کی داد دیتے ہیں زبان و بیان کی بات تو ہماری زبان پر آتی رہتی ہے۔

گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر

یہ ہماری زبان ہے پیارے

(میر)

◇ زبانی جمع خرچ کرنا

ہماری زبان میں جو سماجی حیثیت رکھنے والے محاورے ہیں ان میں زبانی جمع خرچ

اس معنی میں بے حد اہم ہیں کہ جمع اور خرچ صرف یہی کھاتہ کی چیز نہیں۔ ہم دلوں میں بھی حساب

رکھتے ہیں، حساب دوستاں درِ دل اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ

کوئی کہیں سمجھ لے اور کوئی کہیں اور یعنی ایک دوسرے کے عمل کو پیش نظر رکھو اور کسی نے ہمارے

ساتھ نیکی اور خوش معاملگی برتی ہے تو ہم کو بھی برتی چاہیے۔

ہماری ایک سماجی کمزوری یہ ہے کہ ہم دوسروں کی نیکیوں کا حساب نہیں رکھتے اگر یہ بھی ذہن میں رکھیں اور دل سے بھلانہ دیں تو معاشرہ میں نیکیاں بڑھتی رہیں۔ ہم اسی کو بھلا دیتے ہیں۔ نتیجہ میں اچھا سلوک اور اچھا معاملہ کم سے کم ہو جاتا ہے اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بعض لوگ کچھ کرنے کے عادی نہیں ہوتے بس کہنے سننے کی حد تک ہی ان کا معاملہ رہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں تو بس زبانی جمع خرچ ہے، وہ محض کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں مگر عمل کبھی نہیں کرتے۔

◇ زچ کرنا، زچ ہو جانا

یہ ہماری سماجی برائی ہے جس میں شخصی مزاج بھی حصہ لیتا ہے، کہ ہم کبھی کبھی غیر ضروری طور پر دوسروں کے پیچھے پڑتے ہیں یا پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ دوسرا ہماری وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، بلکہ اپنے ارادے اپنی خواہش اور خوشی کے زیر اثر ”زچ کرنا“ کہتے ہیں۔ اس رویہ کو آدمی پہلے ناگواری کے ساتھ لیتا ہے اور پھر ناقابل برداشت قرار دیتا ہے اور ٹھکرادیتا ہے۔ واقع یہ ہے کہ پریشان کرنے کے علاوہ اس کا کوئی مقصد ہوتا بھی نہیں۔

◇ زخم لگنا، زخم لگانا، زخم پر نمک چھڑکنا، زخم ہرا ہونا، زخم تازہ ہونا، زخم کھانا، زخموں کو کریدنا، زخموں پر خاک ڈالنا، زخم پہنچانا، یا پہنچنا، زخم اٹھانا وغیرہ

زخم سے متعلق بہت سے محاورے ہیں جن کا رشتہ ہمارے جسمانی وجود سے بھی ہے اور ذہنی وجود سے بھی۔ زخم لگتا بھی ہے، گہرا بھی ہوتا ہے، بھرتا بھی ہے، لہور ونا اور خشک ہونا بھی زخموں سے وابستہ ہے۔ ان تجربوں کو انسان نے یا ہمارے معاشرے میں اپنی نفسیات اور سماجی عمل سے وابستہ کیا اس کے معنی اور معنویت میں نئی گہرائی اور گیرائی (وسعت) پیدا ہو گئی۔

دوسروں کا عمل ہمارے لیے اور ہمارا عمل دوسروں کے لیے تکلیفوں کا باعث بنتا ہے۔ ہماری اپنی غلطیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ زخم لگانا یا زخم لگانا، زخم پہنچانا، زخم اٹھانا، زخموں کو پالنا اور زخموں کا ہرا ہونا ہماری نفسیات اور دوسروں کے عمل اور رد عمل کا حصہ بنتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اسے ریکارڈ کیا اس پر "Comment" کیے۔ اب یہ سماجی برائی ہے کہ اس سے بچنے اور بچانے کی کوشش نہیں کی اور اس کے باوجود نہیں کی کہ قانون فلسفہ اخلاقیات مذہب اور روایت ہمیں روشنی دکھلا رہے تھے اور تجربہ دور تک اور دیر تک

انسان کے معاشرے کو ان نشیب و فراز یا موڑ در موڑ راستوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ نتائج سامنے تھے لیکن ان سے کوئی سبق لینے کے بجائے ان کی طرف سے غفلت کو زیادہ پسندیدہ عمل قرار دیا گیا، وہی ہوا اور وہی ہو رہا ہے۔

◇ زمین آسمان کے قلابے ملانا، زمین آسمان کا فرق ہونا، زمین پر پاؤں رکھنا، زمین کو پکڑنا، زمین دیکھنا، زمین سخت آسماں دور ہے، زمین یا دھرتی پھٹ جائے۔ اور میں سما جاؤں، زمین کا پاؤں کے نیچے سے سرک جانا، زمین کا پیوند ہو جانا، زمین میں گڑ جانا، زمین ناپنا

زمین غالباً زندہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ کھیتی کرتا ہے تو زمین چاہیے، راستہ چلتا بھی ہے تو زمین ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ مکان بھی زمین پر بنتے ہیں، کارخانے بھی، مسافر خانہ بھی، غرضیکہ انسان کی ہزار ضرورتیں زمین سے ہی وابستہ ہیں۔ مرنے کے بعد بہت سی قومیں زمین ہی میں گاڑھتی ہیں۔ زمین سے متعلق بہت سے محاورات ہیں ان میں زمین آسمان ایک کر دینا بھی ہے یعنی بہت ہنگامہ برپا کرنا یا حد بھر کوشش کرنا۔ زمین آسمان کے قلابے ملانا، ایسی باتوں کو کہتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور ایسا آدمی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ معاشرے میں جھوٹا فریبی اور دغا باز سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بات پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ زمین آسمان میں بہت فاصلہ ہے اسی لیے زمین آسمان کو قلابے ملانا، جھوٹی باتیں کرنا ہوتا ہے کہ آدمی ان فاصلوں کو نظر میں نہیں رکھتا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ ”زمین پر پاؤں نہ رکھنا“ یہ تو خیر ممکن ہی نہیں لیکن جو لوگ بڑے نازخروے سے بات کرتے ہیں ان کے لیے طنز کے طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ تو زمین پر پاؤں نہیں رکھتے۔

اب اس سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ ان کے راستہ میں تو فرش فروش بچھے ہوتے ہیں اور ان کا پاؤں زمین سے نہیں لگتا یا نہیں پڑتا۔ اب بھی شادی بیاہ کے موقع پر سرخ رنگ کا قالین (Red Carpet) بچھاتے ہیں۔ زیادہ ناز و نزاکت والے انسان کو بھی بطور طنز کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں تو فرشِ محمل پر بھی چھل جاتے ہیں یہ فرش زمین پر کیوں پاؤں رکھنے لگے۔

جب انسان کے لیے اس کا ماحول بہت تکلیف دہ اور مایوس کن ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں زمین اس کے لیے سخت ہو گئی اور آسمان دور، یعنی نہ اسے زمین پر جگہ ملتی ہے اور نہ آسمان

کے نیچے پناہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمین آسمان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ زمین پکڑی نہیں جاسکتی اور زمین دیکھنا کسی آدمی کو نیچا دکھانا ہے اور غالباً یہ پہلوانوں کے فن سے آیا ہے۔ کشتی کے فن میں کسی کو زمین پر گرا دینا یا زمین پکڑوا دینا بھی بڑی کامیابی کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے زمین پر ماتھا ٹیکنے، اظہارِ عاجزی ہے۔ اسی سے فرشی سلام کا تصور ابھرتا ہے اور ماتھا ٹیکنے کا بھی۔

زمین ہمیشہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اور اسی طرح بے حد مصیبت اور پریشانی کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی یعنی اس کا کوئی موقع نہ رہا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا رہے اور اپنی کوشش پر اعتماد کر سکے۔ ”زمین کا پیوند ہو جانا“ مر جانا اور ”زمین میں دفن ہو جانا“ مرنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے، جو اظہار کا ایک شاعرانہ سلیقہ ہے۔ پیوندیوں بھی ہمارے معاشرے اور سماجی زندگی کا ایک خاص عمل تھا اور اکثر غریبوں کے کپڑوں میں پیوند لگے رہتے تھے اور عورتیں کہا کرتی تھیں بی بی پیوند تو ہماری اوقات ہے۔

”زمین ناپنا“ ادھر ادھر پھرنا جس کا کوئی مقصد نہ ہو اسی پر طنز سے کہا جاتا تھا کہ وہ تو زمین ناپتا پھرتا ہے یا جاؤ زمین ناپو، یعنی کچھ بھی کرو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ ”زمین میں گڑ جانا“ حد بھر شرمندہ ہونا اور یہ محسوس کرنا کہ وہ اب منہ دکھلانے کے لائق نہیں ہے اسے تو زمین میں گڑ جانا چاہیے یا اسی حالت میں آدمی کی یہ خواہش کرنا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتا۔

ہماری سماجی حیات محاوروں میں جو معنی پیدا کرتی ہیں اور ان کی ہمارے معاشرتی زندگی میں جو معنویت ہوتی ہے محاوروں کے مطالعہ سے انھی امور کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے محاورے ان سماجی حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

◇ زنانہ کرنا، مردانہ ہونا

ہماری معاشرتی زندگی کے ایک خاص حصہ اور کچھ خاص طبقوں کی نمائندگی کرنے والے محاورے ہیں مسلمانوں اور ایک حد تک ہندوؤں سکھوں اور خاص طور پر راجپوتوں عورتوں کا انتظام الگ کیا جاتا تھا جو مردوں سے الگ ہوتا تھا ایسا اب بھی کیا جاتا ہے مگر پابندی کم ہو گئی ہے۔ اسی کو ”زنانہ کرنا“ کہتے ہیں۔

”زن“ کے معنی فارسی میں عورت کے ہیں اسی سے ہمارے ہاں زنانہ لباس، زنانہ

ورہ اور زنانہ زیورات جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں ”مردانہ“ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور محض مردانہ کہہ کر مکان کا وہ حصہ مراد لیا جاتا ہے جہاں مردوں کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا زیادہ ہو اسی کو مردانہ کہتے ہیں۔

پنجابی زبان میں ”زنانی“ عورت کو بھی کہتے ہیں اور زنجہ بیجڑوں کو کہا جاتا ہے۔ ناخی وہ عورت جس میں بیجڑہ پن ہو یہ لفظ دلی اور لکھنؤ میں رائج رہا ہے۔

زنجیر کرنا یا پکڑنا، زنجیر ہلانا، زنجیر کھڑکانا

”زنجیر“ سے متعلق بہت سے محاورے ہیں، ”پیروں میں زنجیر ڈال دی“ یعنی کر لیا۔ اس کو ”بیڑی ڈالنا“ بھی کہتے ہیں، بیڑی پہنانا بھی۔ ”زنجیر کرنا“ فارسی محاورے ترجمہ ہے۔ جہاں ”زنجیر کردن“ کہا جاتا ہے میر کا شعر ہے۔

بہار آئی دیوانے کی خبر لو

اگر زنجیر کرنا ہے تو کر لو

زنجیر ہلانا یا زنجیر کھڑکانا دروازے کی کنڈی بجانا ہے۔ زنجیر ہلانے سے مراد انصاف کے لیے فریاد کرنا بھی ہے۔

ایک چکر ہے مرے پاؤں میں زنجیر نہیں

یعنی قید کی حالت میں بھی برابر گھوما کرتا ہوں، یہ جنون کا عالم ہوتا ہے اور شاعروں نے اسی معنی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جنون، شدید جذبہ کے عالم میں ذہن پر طاری ہوتا ہے اور دل و دماغ قابو میں نہیں رہتے جانوروں میں بھی یہ کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔

◇ زندگی سے تنگ آنا یا زندگی تلخ ہونا

ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے۔ زندگی جو عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، آدمی اس سے بھی تنگ ہو جاتا ہے اور معاشرے کے رویہ کو اس میں اکثر دخل ہوتا ہے پھر شدید بیماری ہوتی ہے جس میں آدمی کوئی علاج نہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری زندگی تو اجیرن ہو گئی ہے۔

◇ زوال کا وقت

سورج کے ڈوبنے سے پہلے کا وقت زوال کا وقت کہلاتا ہے، جب سایہ ٹھہرنے لگتے ہیں، دھند لکا چھا جانے کا ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں جب گراوٹ کا زمانہ

آتا ہے اور وہ اپنے کاموں میں کچھڑ جاتی ہیں تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے اور یہی اس محاورے کی سماج سے اور قوموں کی تاریخ سے ہم رشتگی ہے۔

◇ زور پڑنا، زور چلنا، زور دینا، زور پکڑنا، زور مارنا، زور بخشنا وغیرہ

زور، قوت کو کہتے ہیں اسی سے زوردار لفظ بنا ہے۔ زور داری بھی اُردو میں زور کے ساتھ بہت سے محاورے بنتے ہیں۔ اس میں ”زور و شور ہونا“ بھی ہے۔ آج کل اس بات کا بہت زور شور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام زیادہ تر اس کی طرف متوجہ ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل کانگریس کا زور ہے یا پھر فلاں پارٹی کا زور ہے۔ ”زور دینا“ کسی بات پر اصرار کرنا زور چلنا، قابو پانے کو کہا جاتا ہے جیسا اس مصرعہ میں کہا گیا ہے۔

ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے گریباں پر

”زور پکڑنا“ جیسے بارش نے زور پکڑا اور سماجی طور پر یہ کہتے ہیں کہ مخالفت نے زور پکڑا۔ دشمنی نے زور پکڑا، اُس نے بہت زور مارا یعنی اپنی بات یا اپنے معاملہ پر زور دیا۔ زور داری سے کہا یا زور داری دکھائی اس کی بات تو زور دار ہے۔ یہ سب ہمارے سماجی فقرہ ہیں جو معاشرتی عمل اور رد عمل کو پیش کرتے ہیں، اس میں ”زور بڑھنا“ اور ”زور ٹوٹنا“ بھی شامل ہے۔ ”زور بخشنا“ کسی کو طاقت دینا ہے، جیسے نثار نامی شاعر کا یہ مصرعہ ہے۔

حیدر کرار نے وہ زور بخشنا ہے نثار

”زور دکھانا“ اپنے زیادہ طاقتور ہونے کو اپنی بات چیت یا عمل کو پیش کرنا ہے۔ وہ خواہ مخواہ اپنا زور دکھاتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ سب محاورے سماجی نفسیات کو پیش کرتے ہیں۔

◇ زہرا گلنا، زہر کھانا، زہر پینا، زہر پلانا، زہر چڑھنا، زہر اب ہونا، زہر کا سا گھونٹ پینا، زہر میں بجھا ہوا۔

”زہر“ ہلاکت پیدا کرنیوالی یا ہلاکت دینے والی شے کو کہتے ہیں اور سماجی زندگی میں تلخیاں پیدا کرنیوالی یا نفسیات کو بگاڑنے والی کسی بھی بات کو زہر سے تشبیہ یا نسبت دیتے ہیں۔ جو بات یا جو شے آدمی بادلِ نحواستہ کرتا ہے اس کو ”زہر مار کرنا“ کہتے ہیں۔ زبردستی کسی سے کوئی بات منوانا یا کسی بات پر صبر کرنا ”زہر جیسے گھونٹ پینا“ کہا جاتا ہے۔ زہر دے کر مار تو سکتے ہی ہیں مگر ناگواری کے عالم میں اگر کوئی چیز کھائی جاتی یا پی جاتی ہے اسے بھی ”زہر مارنا“ کہتے ہیں۔ زہر کا مزہ چکھنا یا زہر چکھنا بھی اسی طرح کا محاورہ ہے۔ ”زہر ہونا“ بھی اور ”زہر لگنا“ بھی

کہ اس کی بات مجھے زہر لگتی ہے۔ جب کوئی کسی پر بہت رشک یا حسد کرتا ہے تو اس کو ”زہر کھانا“ کہتے ہیں۔ میرے دشمن اس بات پر زہر کھاتے ہیں۔ ”زہر اب ہونا“ پانی میں زہر ملنا ہے یا کسی بھی پینے کی شے کا زہرناک یا حد بھر تلخ ہو جانا ہے، جیسے چائے کا گھونٹ بھی مجھے زہر اب ہو گیا یا یہ شراب نہ ہوئی زہر اب ہوا۔ ایسی شربت کو بھی میں تو زہر اب سمجھتا ہوں۔

”زہر میں بجھا ہوا ہونا“ بھی زہر جیسی کیفیت کو اپنے ساتھ رکھنا جیسے زہر میں بجھے ہوئے نشتر، زہر میں بجھے ہوئے تیور، زہر میں بجھے ہوئے تیر۔ جب کسی ہتھیار کو اس غرض سے زہر میں بجھایا جاتا ہے کہ اس کا زخم پھر اچھا نہ ہو تو وہ جنگ کا نہایت اذیت ناک طریقہ ہوتا ہے۔ انسانی نفسیات کے اعتبار سے بول بات میں بھی زہر ملا ہوتا ہے اور زہریلے بول کہتے ہیں۔ اس معنی میں زہر ایک سماجی استعارہ بھی ہے اور ہماری گفتگو کے لیے غیر معمولی طور پر ایک علامتی کردار ادا کرتا ہے۔

◆ زیب تن کرنا، زیب دینا اپنے کو

لباس پہننے کا ایک مقصد زیب دینا اور زیب تن کرنا بھی ہوتا ہے، ویسے زیب دینا ایک محاورہ ہے اور ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں۔

زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے

اور جب بات غیر موزوں اور نامناسب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی، اور اچھا لگنے والی شے کو دیدہ زیب کہتے ہیں۔ تن زیب ایک کپڑے کا نام بھی ہے اور ایسے لباس کو بھی تن زیب کہتے ہیں جو جسم پر اچھا لگتا ہے۔ اور جس آدمی کے بدن پر لباس کھبتا ہے وہ زیب تن کہلاتا ہے۔

زیبائش سجاوٹ کے لیے آتا ہے اور ایک ایسے زیور کو جو پیروں میں پہنا جاتا ہے اور پیروں کو سجاوٹ بخشتا ہے اس کو پازیب کہتے ہیں۔

رَدِیْفِ س

سات پردوں، یا سات تالوں میں چھپا کر رکھنا، سات دھار ہو کر نکلنا
سات کا عدد ہماری تہذیبی زندگی اور تاریخی حوالوں میں خاص اہمیت رکھتا ہے اس
سبب مذہبی حوالہ بھی شامل ہیں۔ ہم سات آسمان کہتے ہیں سات بہشتیں کہتے ہیں۔ سات

سمندر کہتے ہیں، قوس قزح (دھنک) کے سات رنگ کہتے ہیں، سات ستارے کہتے ہیں، یہ سب گویا ہماری سماجی فکر کا حصہ ہیں اس کو اگر ہم محاورات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا مزید احساس ہوتا ہے کہ سماجی زندگی سے سات کا عدد کس طرح جڑا ہوا ہے۔ کوئی چیز تالوں میں بند کی جاتی ہے تو ایک سے زیادہ تالے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن محاورے کے طور پر سات تالوں میں بند کرنا کہتے ہیں اور اس طرح پردوں کے ساتھ سات پردے کہتے ہیں، مقصد تاکید اور زیادہ سے زیادہ توجہ کی طرف ذہن کو منتقل کرانا ہوتا ہے اور اس سے سماجی فکر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

جب کوئی بات ہماری نفسیات کا جز بن جاتی ہے تو وہ ہمارے لسانی حوالوں میں آتی رہتی ہے اور اس کے محاوروں میں شامل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ ہماری نفسیات میں گہرا دخل رکھتی ہے۔ اصل میں لٹریچر کا مطالعہ سماجی نقطہ نظر سے ایک معاشرتی ڈکشنری کے طور پر نہیں ہوتا ورنہ محاورہ صرف زبان کا اچھا قدیم رویہ نہیں ہے جو فرسودہ ہو چکا ہو۔ یہ صحیح ہے کہ ہم شہری زبان میں اب محاورے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ قصبائی اور طبقاتی زبان میں ضرور محاورے کی اہمیت ہے، لیکن محاورہ سماج کو سمجھنے کے لیے اور مختلف سطح پر محاورے کا استعمال اس کے رواج اور سماج سے اس کے رشتہ کے بارے میں جتنی معلومات ہمیں محاوروں سے ہو سکتی ہے وہ شاید لٹریچر کے کسی دوسرے لسانی پہلو اور ادبی رویہ سے نہیں ہو سکتی۔

”سات دھار ہو کر نکلنا“ یہ ایک اہم بات ہے اور اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم بہت سے امور کو سات کے دائرے میں لالا کر رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ زیادہ تر چشمے ایک دھارے میں پھوٹتے ہیں یا ایک سے زیادہ دھاروں میں، مگر سات دھارے ہمارے روایتی انداز فکر کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ دھاروں کے ساتھ سات کا عدد ضروری نہیں ہے۔ لیکن تہذیبی نقطہ نظر سے سات دھاروں کا تصور بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

◇ ساز باز کرنا

ساز کا لفظ فارسی ہے۔ ساز کسی بھی آلہ موسیقی کو کہہ سکتے ہیں۔ ”باز“ کے معنی ہیں کھولنا یا دوبارہ حاصل ہونا، جیسے باز یافت، اسی معنی میں دوبارہ پا جانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ ”ساز“ کسی لفظ کے ساتھ ملا کر اسم فاعل بھی بناتے ہیں، جیسے گھڑی ساز، سمن ساز، تاریخ ساز۔ یہ فارسی زبان کے اُردو پر اثرات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی طرح ”باز“ کا لفظ بھی جب کسی لفظ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو اسم فاعل بن جاتا ہے جیسے ”پٹہ باز“، بلے باز یہاں تک کہ

تکڑم باز۔ اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ ان دو لفظوں کو ملا کر ایک نئے معنی نکالے گئے یعنی سازش، کہ اس نے اس معاملہ میں دوست یا دشمن کے ساتھ ساز باز کر لی۔ اس اعتبار سے یہ ہماری سماجی زندگی سے گہرا رشتہ رکھنے والا ایک محاورہ بن جاتا ہے۔

لفظوں کا معاملہ عجیب ہے۔ یہ طرح طرح کے معنی دیتے ہیں، بعض معنی ذہن کو علمی بڑائی اور ادبی خوبصورتی کی طرف لے جاتے ہیں اور بعض سماج کی ذہنی اور عملی بد صورتیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے اور یہی زبان کا سماجی استعمال ہے۔ "Connotation of the Words" یعنی الفاظ کے باہمی رشتے اور معنوی سلسلے محاورات کو اور عام زبان کے ساتھ ان کے رشتوں کو سمجھنے میں یہ صورت حال بہت مدد دیتی ہے۔ اور اس سے کسی زبان کے سماجی کردار کو اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔

◇ ساکھ جانی رہنا یا ساکھ بننا

”ساکھ“ ہماری زبان کے اہم سماجی الفاظ میں سے ہے اور اس کے معنی ہیں اعتبار، اعتبار سیاسی بھی ہوتا ہے اور سماجی بھی، علمی بھی ہوتا اور کاروباری بھی۔ ہم تحریروں سے زیادہ زبان پر اعتبار کو ضروری خیال کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، اسی کو ”ساکھ بننا“ کہتے ہیں، ”ساکھ باقی رہنا“ کہتے ہیں اور اگر یہ اعتبار ختم ہو جائے چاہے ایک فرد پر سے ختم ہو، چاہے ایک جماعت پر سے یا دکان اور ادارے سے، بہر حال ”ساکھ باقی“ رہنا بڑی بات ہے اور سماجی نقطہ نظر سے اس محاورے کو سماجی رشتوں کے ساتھ جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو اس کے معنی غیر معمولی طور پر اہم ہو جاتے ہیں۔ ساکھ جانی رہنے کو بھی اسی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے۔

◇ سانپ سونگھ جانا، سانپ کا کاٹا رسی سے ڈرتا ہے، چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے، سانپ مرے نہ لاٹھی ٹوٹے، سانپ کی طرح پھن مار کر رہ جانا، سانپ نکل گیا لکیر کو پیٹا کرو

”سانپ“ جس کی بہت سی قسمیں اور نسلیں ہیں ہماری زندگی کا کئی اعتبار سے ایک اہم حوالہ ہے۔ وہ جانداروں میں سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے اور اس کے کاٹے کا مشکل ہی سے علاج ہوتا ہے۔ سانپ گل کنڈے کھا کر اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے اور دم کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے یہ گویا ابتدا کو انتہا سے ملانا ہے۔ وہ بغیر پیروں کے دوڑ سکتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب صفت ہے وہ اپنے سہارے پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کچھ خوبیاں ہیں

جو سانپ کے کردار میں شامل ہیں مثلاً کالا سانپ بین پر رقص کرتا ہے اور اس کی آواز پر کھنچا چلا آتا ہے سانپ کی آنکھوں میں غیر معمولی کشش ہوتی ہے۔

سانپ سے متعلق بہت سے محاورے ہیں جو سماج کی روش و کشش کو ظاہر کرتے ہیں اور اس آئینہ میں ہم انسان کے کردار کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس وقت اس کا عمل اور رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اور اس کا ہمارے فکر و خیال سے سماجی طور پر کیا رشتہ بنتا ہے۔ مثلاً سانپ سونگھ جانا، مثلاً جب آدمی کسی بات کو سن کر چپ ہو جاتا ہے اور لا جواب ہونے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے تو اسے سانپ سونگھنا کہتے ہیں۔ جب کوئی موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ”سانپ نکل جانا“ کہتے ہیں۔ شاہ نصیر کا استادانہ شعر ہے۔

خیالِ زلفِ بتاں میں نصیر پیٹا کر

گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر

”لکیر پیٹنا“ یوں بھی وقت گذر جانے پر کسی کام کو کرنا ہے، جو بے سود ہوتا ہے اور اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہوتا۔ ”سانپ مرے نہ لاٹھی ٹوٹے“ ایک بہت اہم بات ہے کہ دشمن کو آپ نقصان پہنچائیں مگر خود نقصان میں نہ پڑیں۔ اگر خود ہی نقصان میں پڑ گئے اور سانپ مارنے میں لاٹھی ٹوٹ گئی تو گویا خود ہی خطرے میں پڑ گئے اور نقصان اٹھا گئے۔

سانپ خاص طور پر کالا سانپ کاٹتا نہیں ہے، صرف پھن مار کر رہ جاتا ہے۔ جہاں اس کے سامنے کوئی چیز آئی اور اس نے پھن مارا جب کہ کاٹنے کے لیے پلٹنا ضروری ہے۔ سانپ کے دانت سیدھے نہیں ہوتے وہ پلٹ کر ڈنک مارتا ہے۔ اگر پلٹ نہیں سکتا تو ڈنک بھی نہیں مار سکتا اور جب وہ پھن پھیلانے ہوتا ہے تو پلٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے کاٹ نہیں سکتا اور یہیں سے یہ محاورہ پیدا ہوا کہ وہ سانپ کی طرح پھن مارتا ہے۔

◇ سانس نہ نکالنا

سانس لینا زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سانس بھی احتیاط سے لیتا ہے بلکہ نہیں لیتا۔ میر کا شعر اس سلسلہ کے بہترین اشعار میں سے ہے۔

لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام

آفاق کی اس کار گہہ شیشہ گری کا

”سانس روکنا“ صوفیوں کا عمل بھی ہے جس کو وہ دم سادھنا بھی کہتے ہیں۔ سانس نہ لے یہ بڑی دھمکی ہوتی ہے۔ جس کے لیے غالب نے شعر کہا تھا۔

دھمکی میں مر گیا جو نہ بابا نبرد تھا

عشق نبرد پیشہ طلب گار مرد تھا

یعنی جس میں ہمت نہیں ہوتی حوصلہ نہیں ہوتا وہ دھمکی میں مر جاتا ہے۔ بلکہ دوسروں کی غضبناک نگاہوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اور اس کا سانس رک جاتا ہے، اور کہتے بھی ہیں کہ دیکھو سانس مت نکالو۔

◇ سایہ پڑ جانا

ہم سایہ کو بہت پراسرار اور بھیدوں بھرا سمجھتے ہیں۔ پر چھائیوں کو اسی زمرے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس کی پر چھائی پڑ گئی۔ ”سایہ ہو جانا“ جن بھوتوں کا اثر ہو جانا ہے۔ گلزار نسیم کا مصرعہ ہے۔

سایہ ہو تو دوڑ دھوپ کیجئے

◇ سایہ سر سے اٹھنا

یعنی اگر اوپر کے پرایا کا سایہ پڑ گیا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے یہاں تو اہم پرستی کہ ذیل میں جو باتیں آتی ہیں ان میں ”سایہ پڑنا“ بھی ہے۔ نظر لگنے سے سایہ پڑنے تک تو اہم پرستانہ خیالات کا ایک سلسلہ ہے جس میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اور طرح طرح سے یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں اور سماج کے مطالعہ میں مدد دیتی ہیں۔ ”سایہ سر سے اٹھنا“ یتیم ہو جانا، بزرگوں کی سرپرستی مہربانی اور عنایت کا۔

◇ سب چیز کی لہر بہر ہے

اصل میں ہمارے معاشرے میں دولت کی بہت کمی تھی۔ غریب طبقہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ گھڑے پر پیالہ بھی نہیں۔ کئی محاورے اس صورت حال کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے میں نے روٹی پہ روٹی رکھ کے کھائی، جس کا یہ مطلب ہے کہ بعض خاندانوں میں اتنی غربت ہوتی تھی کہ ایک ایک روٹی مشکل سے میسر آتی تھی اور روٹی پر روٹی رکھ کر کھانا تو معاشرتی طور پر خوش حال ہونا تھا۔ ”سو کھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھانا“ بھی ہماری معاشرتی زندگی کا ایک حصہ رہا ہے۔ روٹی کا ذکر اب تک آتا ہے۔ سالن بھی مشکل سے میسر آتا تھا۔ گھی، پیسے چڑی ہوئی روٹی کسی کسی کے حصہ میں آتی ہوگی۔

دیہات کی ایک مثل ہے ”جاڑا لگے یا پالا لگتے دم کھچڑی، فنڈوے کی روٹی گھی چپڑی“ یعنی دم کی ہوئی کھچڑی اور فنڈوے کی روٹی کے لیے ترستے تھے۔ اور جن لوگوں کو گیہوں کی روٹی میسر نہیں آتی تھی وہ چنے جوار، باجرہ اور فنڈوے کی روٹی کھاتے تھے۔ اور یہ آئیڈیل تھا کہ اگر وہ گھی چپڑی روٹی ہو تو کیا کہنا۔ لوگ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے تھے، سیاں (سویاں) ہوں پر کھیلا (اکیلا) ہو۔ اب بھی کہتے ہیں کہ ان کے حالات تو بہت اچھے ہیں۔ پیسے میں پیسہ اور چیز میں چیز ہے یعنی پیسہ بھی پاس ہے اور ضرورت کی چیزیں بھی پہلے زمانہ میں نہ پیسہ ہوتا تھا نہ ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں۔

◇ سبکی ہونا

”سبک“ ہلکے کو کہتے ہیں۔ ”جیسے سبک ناک نقشہ والی“ لیکن معاشرہ میں سبکی ہونے کے معنی ایک سطح پر بے عزت ہونے کے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی سبکی ہوئی۔ سبکنا بچوں کے رونے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جسے ”سبک سبک کر رونا“ کہتے ہیں۔

◇ ستارہ چمکنا، ستارہ گردش میں ہونا، ستارہ پیشانی

ستارہ آسمان کے ان ستاروں کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں سیارہ گھومنے والے ستارے کو کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ستاروں سے قسمت کو وابستہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے قسمت کا ستارہ کہتے ہیں اور یہ بھی کہ اس کی قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں یہ کہ اس کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے۔ خوش قسمت آدمی کی پیشانی کو بھی ستارہ پیشانی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایک معاشرتی تصور یہ بھی ہے کہ جو کچھ قسمت میں لکھا ہے وہ ہماری پیشانی میں منقش ہے۔ اسی لیے قسمت کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ستارہ جبیں کے معنی بھی یہی ہیں کہ اس کی قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے۔ ہم لڑکیوں کا نام مہ جبیں رکھتے ہیں یعنی چاند جیسی پیشانی والی۔

◇ ستر بہترا

عمر کا حساب اکثر ہمارے یہاں سماجیاتی فقروں میں لیا جاتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جیسے ستر بہتر یا ساٹھا پاٹھا جیسا کہ میر حسن نے لکھا ہے۔

برس پندرہ یا کہ چودہ کا سن
جوانی کی راتیں مرادوں کے دن

یا محاورے کے طور پر کہتے ہیں ”انیس بیس کا فرق“ چھٹے چھماس میں بھی عدد شامل ہے۔ چھٹی کے دودھ میں بھی اور چلا چھٹی میں بھی شامل شمار موجود ہیں۔

◇ ستم توڑنا، ستم ٹوٹنا

سماج کے ظالمانہ رویہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اسی لیے ستم کرنے کو ”ستم توڑنا“ کہا جاتا ہے۔ اس سے سماج کے محسوسات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح اعمال کو دیکھتا۔ اور اپنے محاورے کے اعتبار سے اس پر تبصرہ کرتا ہے۔

◇ سٹی گم ہو جانا

حیرت یا خوف کی وجہ سے آدمی کا گم سم رہ جانا، بول نہ سکنا، محاورہ میں سٹی گم ہونا کہا جاتا ہے۔ محاورہ زبان میں جو تبدیلیاں کرتا ہے اور زبان کے استعمال کے سلسلہ میں جوئے پہلو محاورے کے باعث پیدا ہوتے ہیں وہ سماجی لسانیات کے سلسلہ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور زبان کے سمجھنے کے معاملہ میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ ”چپ سا دھنا“ اسی ذیل میں آتا ہے۔

◇ سخت وست کہنا

ہمارا سماجی رویہ گفتگو میں اکثر سامنے آتا ہے۔ محبت کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، نفرت کی زبان کچھ اور۔ اسی طرح طنز کی زبان اور تعریف کی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ ناراضگی میں سخت وست کہا جاتا ہے اور خوشی میں اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس سے لب و لہجہ بھی بدلتا ہے، الفاظ میں بھی تبدیلی آتی ہے اور معنوی سطح میں بھی اس پر غور نہیں کیا جاتا ورنہ سماج کے بہت سے ذہنی رویہ زبان کے استعمال میں خود کو واضح کر دیتے ہیں۔ ”سخت وست کہنا“ بھی اسی سلسلہ گفتگو کا ایک خاص انداز ہے جس میں برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ڈرانا دھمکانا اس ذیل میں آتا ہے جو غصہ کے عالم میں ہوتا ہے مگر ناراضگی کی ایک دوسری سطح ہے۔

◇ سر آنکھوں چڑھنا، سر آنکھوں میں ہونا، سر آنکھوں سے آنا، سر آنکھوں پر رکھنا

”سر“ ہمارے معاشرے میں احترام کی چیز ہے۔ اسی لیے سر جھکانا، سر جھکنا، سر چھپانا ایسے کچھ محاورات ہیں جو ”سر“ سے تعلق رکھتے ہیں۔

سر کے ساتھ آنکھیں ہماری معاشرتی زندگی کی اعضائی علامتوں میں بڑی علامت

◇ سر سے کفن باندھنا

”سر سے کفن باندھنا“ تہذیبی محاورات میں سے ہے اور اپنی معنویت کے لحاظ سے غیر معمولی ہے۔ بعض آدمیوں میں یا قوموں میں جان دینے کا جذبہ بہت شدت سے ہوتا ہے وہی یہ کہتے بھی ہیں کہ میں سر سے کفن باندھے رہتا ہوں یعنی ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ غالب نے کہا ہے۔

آج واں سر سے کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں
عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا
غالباً یہ دستور بھی رہا ہے کہ جو لوگ جہاد میں حصہ لیتے تھے وہ اپنے سر سے کفن
باندھتے رہتے تھے تا کہ شہید ہونے کے بعد کسی کو اس کے کفن دفن کی فکر نہ ہو۔

◇ سر گر بیان میں ڈالنا، سر در گر بیان ہونا

یہ اردو فارسی دونوں زبانوں میں بطور محاورہ آتا ہے یعنی سر جھکا کر سنجیدگی سے کسی بات کو لینا اور اپنی نارسائی یا غلطی کا اعتراف کرنا۔ سماج کے رویوں کا ہم محاورات میں جو مطالعہ کرتے ہیں اس کا اندازہ اس محاورے پر غور کرنے سے ہوتا ہے کہ ہم با اعتبار فرد یا با اعتبار جماعت دوسروں کے لیے یا پھر خود اپنے لیے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ”سر گر بیان میں ڈالنا“ اسی روش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

◇ سر نیچا ہونا

یعنی جو آدمی بہت تکبر کرتا ہے اور جس کی گردن گھمنڈ اور غرور کے ساتھ تنی رہتی ہے اس کو کبھی ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے۔ اسی کے لیے ہمارے یہاں محاورہ ہے غرور کا سر نیچا یعنی جو بہت گھمنڈ کرتا ہے وہی بہت بے عزت بھی ہوتا ہے۔

◇ سرال کا کتا

کتا ایک جانور ہے جو آدمی کا وفادار ہے اور اس کی قبائلی زندگی سے لے کر مہذب شہری زندگی تک ایک وفادار پالتو جانور کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہا ہے۔ اس پر بھی مشرقی اقوام نے اس کو کوئی عزت نہیں دی اور اس کا ذکر ہمیشہ ذلت کے ساتھ آیا۔ اس محاورے میں بھی ایسے کسی آدمی کی سماجی حیثیت کو برائی سے یاد کیا گیا ہے جو جوانی (داماد) کی حیثیت سے سرال میں جا کر پڑ جائے یا بھائی ہو کر اپنی بیوہ کے یہاں جا کر رہنے لگے۔ اسی کے لیے یہ کہاوت ہے کہ بہن کے گھر بھائی کتا اور ساس کے گھر جوانی کتا۔

◇ سنجالا لینا

قوموں کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سنجالا لیا یعنی زوال کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ سدھر گئیں یعنی ان کے حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ ”بیمار کا سنجالا لینا“ وقتی طور پر ہی سہی صحت کا بہتر ہو جانا ہے۔ ذوق کا شعر ہے اور اس محاورے کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔

بیمارِ محبت نے لیا تیرے سنجالا
لیکن وہ سنجالے سے سنجل جائے تو اچھا

اس میں ”سنجلنا سنجالنا“ اور ”سنجالا لینا“ تینوں چاروں آگئے۔ ۱۹۲۰ء کے قریب ترکی کو مرد بیمار کہا جاتا تھا۔ ”سنجالا لیتا ہے“ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے محاورے کس طرح ہماری زندگی ہماری تاریخ اور ہماری سماجی زبان کو پیش کرتے ہیں اور ایک حوالہ کا کام دیتے ہیں۔

◇ سو جان سے عاشق ہونا، سو جان سے صدقے جانا یا نثار ہونا یا نچھاور ہونا

ہمارے یہاں صدقے قربان ہونا محاورہ ہے۔ صدقہ ایک مذہبی اصطلاح بھی ہے جس کے ساتھ صدقہ دینا آتا ہے یا صدقے کرنا آتا ہے، یعنی کسی کی جان کی حفاظت یا مال کی حفاظت کے خیال سے خیرات کرنا۔ ہم اس عمل کو طرح طرح سے دھراتے ہیں مثلاً جب ڈونیاں گاتی تھیں تو ان کو وار پھیر کر کے روپے پیسے دیے جاتے تھے۔ وار پھیر اس شخص کے لیے ہوتی تھی جس کی جان کا صدقہ دینا منظور ہوتا تھا۔ یہی صورت اس وقت ہوتی تھی جب بھنگنیں بدھاوا پیش کرتی تھیں یعنی مبارک باد کے لیے گانا اور ناچنا کسی کے ہاتھ سے فقیر کو پیسے دلوانا بھی صدقہ دینے یا صدقہ کرنے کے مفہوم میں شامل ہوتا تھا۔

”قربان کرنا“ بھی اسی معنی میں آتا تھا۔ دہلی میں اب بھی دستور ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام پر جانور قربان کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں دودھ دریاں میں بہانا یا تالابوں اور پوکھروں کے کناروں پر جانور ذبح کرنے کو صدقہ کے مفہوم میں شامل کرتے تھے۔ اب بھی راجستھان میں ایسا ہوتا ہے۔ بنگال میں ”بھینا“ قربان کیا جاتا ہے اس کو ”بلی چڑھانا“ کہتے ہیں۔

عربوں میں جس اونٹنی کو ایسے کسی مقصد کے لیے نخر کیا جاتا تھا خاص طریقے سے کاٹنا تو بلیہ کہتے تھے۔ انسان کی اپنی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ قدیم قوموں میں اس کا دستور رہا ہے

یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی قربان کیے جاتے تھے۔ غلاموں اور باندیوں کے ساتھ تو یہ سلوک عام تھا اور ان کی بوٹیاں کر کے چیلوں کوؤں کو کھلائی جاتی تھیں۔

ہمارے یہاں جس سے محبت کی جاتی ہے اس پر اپنے آپ کو صدقہ و قربان کیا جاتا تھا اور محاورے کے استعمال کے وقت سو جان سے صدقہ و قربان ہونے کی بات کی جاتی ہے۔

◇ سورج کو چراغ دکھانا

سورج ہماری دنیا کی سب سے روشن تابناک اور حرکت و حرارت سے بھری ایک قدرتی سچائی ہے، نورانی وجود ہے اسی لیے اس کی پوجا کی جاتی ہے اور قدیم قوموں کے زمانے سے اب تک ہوتی رہی ہے۔ چراغ اس کے مقابلے میں انسان کی اپنی ایجاد ہے جس کا سورج سے کوئی مقابلہ نہیں۔

سماجی طور پر جب کسی ادنیٰ بات یا ادنیٰ دلیل کو کسی بڑی بات یا بڑی دلیل کے مقابلہ میں سامنے لایا جاتا ہے تو اس عمل کو سورج کو چراغ دکھانا کہا جاتا ہے۔ گلزار نسیم میں ایک موقع پر یہی محاورہ آتا ہے۔

ان کے آگے فروغ پانا
سورج کو چراغ ہے دکھانا

◇ سولی پر چڑھانا، سولی دینا

موت کی سزاؤں میں ایک سے ایک اذیت ناک سزا موجود ہے، ان میں پھانسی دینا، گردن اڑانا اور اندھے کنویں میں پھینک دینا۔ نیز ہاتھی کے پیروں سے کچلوا دینا اور دیوار میں زندہ چنوا دینا بھی ہے۔ ”سولی دینا“ رومیوں کی طرف سے دی جانے والی سزا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشرقی رومی سلطنت کی طرف سے سولی پر چڑھانے کی سزا دی گئی تھی۔ اس سزا میں سولی یا صلیب پر آدمی کو لٹا کر اس کے ہاتھ پیروں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھیں۔ اس کے سر سے کانٹے دار زنجیر باندھ دی جاتی تھی۔ اور اس طرح سے وہ آدمی سولی پر لٹکایا جاتا تھا جس کو موت کی سزا دینی ہوتی تھی۔

اُردو میں حضرت عیسیٰ کے اس المناک انجام کے ساتھ وابستہ خیال ہی سولی دینے کے محاورے کو بامعنی بناتا ہے، یعنی اذیت ناک سزا دینا، سخت نقصان پہنچانا۔ ہم محاوروں کی تاریخ پر بھی اگر غور کریں تو بہت سے محاورے یہ بتلاتے ہیں کہ وہ کب رائج ہوئے، کیوں رائج

ہوئے۔ مغربی قوموں کو جو بیشتر عیسائی تھیں ہندوستان آنے کے بعد اس محاورے کے مروج ہونے کا زیادہ امکان ہے اور مرقع ہونا رواج پانے کو کہتے ہیں۔

◇ سونے کا نوالہ کھانا، سونے میں لدی پھندی ہونا

”سونا“ ہمارے ہاں کی اور پوری دنیا کی سب سے قیمتی دھات ہے اسی لیے سونے کو بے حد پسند کیا جاتا ہے اور عورتیں سونے کا زیور پہن کر بہت خوش ہوتی ہیں اور اس پر دوسرے رشک کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سونے میں لدی پھندی رہتی ہیں یا یہ محاورہ کہ سونے کا نوالہ کھلائے دیکھے قہر کی نظر۔ اس موقع پر سنی شیر پر کی نظر بھی کہتے ہیں۔

◇ سونے کی چڑیا ہاتھ میں آنا یا ہاتھ لگ جانا سونے کی ڈلی ہاتھ آنا

”سونے کی چڑیا“ بہت قیمتی شے کو کہا جاتا ہے اور اگر وہ قیمتی شے یا خاندان یا زمین کسی کو مل جائے تو کہتے ہیں کہ سونے کی چڑیا ہاتھ لگ گئی اور اس سے پھر ایک مرتبہ یہ سوچا جاسکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سونے کی کیا اہمیت ہے۔ دولت کی دیوی یعنی لکشمی کی پوجا تو کی جاتی ہے۔ دولت کو بھی پوجا جاتا ہے اور خاص طور پر سونے کو یا روپیہ پیسے کو ایک محاورہ اور بھی ہے اب تک استعمال میں آتا رہا ہے۔

سونے کے سہرے بیاہ (شادی) ہو جس کے معنی ہیں کہ شادی تمہارے لیے خوشیوں کا باعث ہو اور جو ڈکھن گھر میں آئے وہ سونا جھونا لیکر آئے (یہاں جھونا کوئی دھات نہیں ہے بلکہ سونے کا قافیہ ہے جس کے اپنے الگ سے کوئی معنی نہیں ایسے کسی بھی لفظ کو تابع مہمل کہتے ہیں۔)

سونے کی ڈلی ہاتھ آنا، ”سونے کی کٹوری لیے بیٹھنا“ جس آدمی کو کوئی ہنر ہاتھ آتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تو سونے کی ڈلی ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ ”سونا اچھالتے جانا“ بھی ایک محاورہ ہے یعنی وہاں چور چکارا اٹھائی گیرے یا ڈکیتی کرنے والے بالکل نہیں ہیں چاہے کوئی سونا اچھالتے جائے۔ یعنی کسی کی دولت یا مال کو کوئی خطرہ نہیں وہ پوری طرح حفظ و امان میں ہے۔

”سنہرنے“ حروف میں لکھنا یا ”سونے کے حروف میں لکھنا“ بھی سونے کی اہمیت یا قدر و قیمت کو ظاہر کرنے والا محاورہ ہے۔ جس سے مراد کوئی ایسا اہم قول ہے بات ہے یا حکیمانہ نکتہ ہے جس کو سونے کے حروف میں لکھا جانا چاہیے۔ سونے کا ملمع ہونا یا کیا جانا کم قیمت دھات پر سونے کا ملمع کیا جاتا ہے یعنی اوپر سے وہ بالکل سونے کی چیز معلوم ہوتی ہے جبکہ وہ دراصل

سونے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے۔ جب کسی کو خوش حالی کی دعا دینی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم سونے کی کٹوری میں پانی پیو سونے کے برتنوں میں کھانا کھاؤ۔

◆ سہاگ رات

سہاگ یعنی شوہر کا ساتھ عورت کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے اسی لیے دعا دی جاتی ہے کہ سہاگ رہے، تر اسائیں جیوے، تیرے سروالے کو اللہ رکھے۔ سسرال میں گذاری جانے والی پہلی رات اس کے لیے سہاگ رات کہلاتی ہے اور اس پر ڈولھا ڈلھن کو اور دونوں طرف کے سمندھانوں کو مبارک باد دی جاتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سماجی رشتوں کا قیام اسی رشتہ سے وابستہ ہوتا ہے جس کی خوبصورت یاد اور نشانی سہاگ رات سے وابستہ ہوتی ہے۔

”سہاگ اترنا“ اس کے مقابلہ میں بہت بد قسمتی اور نحوست کی بات ہوتی ہے، بعض قومیں سر کے بال اتر دیتی ہیں۔ رنگیں کپڑے، چوڑیاں اور زیورات تو عام طور پر سہاگ سے محروم ہونے کے بعد عورتیں اتر دیتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر جو ایک سہاگن کے لیے جو سہاگ سے محروم ہوگئی ہو بہت ہی المناک بات ہوتی ہے یہی ”سہاگ اترنا“ بھی ہے۔

ہمارے یہاں عورتوں کو ایک دعا یہ بھی دی جاتی ہے جو ہمارے سماج کا آئیڈیل ہے کہ تم بوڑھی سہاگن ہو یعنی بڑھاپے تک سہاگ قائم رہے۔ سہاگ سے محروم قدیم قوموں میں اتنی بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ بیوہ ہو جانے والی عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا سستی کی رسم کے مطابق زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ مصر میں بادشاہوں کی موت کے بعد اس سے وابستہ بیویاں اور باندیاں زہر پلا کر ماری جاتی تھیں۔

◆ سپی جیسا منہ نکلنا یا نکل آنا

کمزور ہو جانے کو کہتے ہیں۔ جب آدمی کے چہرے پر ذرا بھی گوشت دکھائی نہ دے صرف کھال اور ہڈیاں رہ جائیں تو اس حالت کو سپی جیسا منہ نکل آنا کہتے ہیں۔ اس سے ہم اپنے سماج کی شاعرانہ روش کو سمجھ سکتے ہیں۔ شاعر تو تشبیہیں اور استعارے پیدا کرتے ہی ہیں عام آدمی بھی اپنی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تشبیہات کا سہارا لیتا ہے۔ سپی سے ڈبلے پتلے منہ کو تشبیہ دینا اسی فکری عمل کا نتیجہ ہے جس سے کسی معاشرے تہذیبی مزاج کو سمجھا جاسکتا ہے۔

◇ بیچ چڑھنا، شب زفاف

دراصل شادی شدہ ہونے کو کہتے ہیں۔ شادی کے معنی ہیں عورت و مرد کے آپسی طور پر جنسی روابط جس کے لیے ایک شادی ہو جانے والے جوڑے کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور خلوت میں اظہارِ تعلق کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی لیے ان کی جائے ملاقات کو بیچ چڑھنا کہتے ہیں، یہ تعلق زندگی کا سب سے اہم رشتہ ہے کہ سارے واسطے اسی ایک تعلق کے مرکزی دائرے کے گرد گھومتے ہیں۔ اگر بیچ کا یہ رشتہ درمیان میں نہ ہو تو باقی رشتے بھی جو خون سے تعلق رکھتے ہیں اور نسل سے وابستہ ہیں باقی نہ رہیں اور قائم ہی نہ ہوں، شب زفاف بھی جسے دلی والے تخت کی رات کہتے ہیں اسی ضمن میں آتا ہے۔ مزید ملاحظہ ہو سہاگ رات۔

بعض الفاظ محاورے اور لفظی ترکیبیں اہل علم سے تعلق رکھتی ہیں۔ بعض اہل ادب سے اور بہت سے لفظ طبقہ عوام سے۔

◇ سیدھیاں چڑھنا

اس اعتبار سے ایک اہم محاورہ ہے کہ سیدھ اور سیدھی قدیم ہندو تہذیب کا ایک مقدس مرحلہ ہے یعنی گیان حاصل ہونا۔ جب کہ یہاں بالکل اس کے خلاف بات کہی گئی ہے اور اس سے سماج کے اس رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ سچائیاں اور اچھائیاں کس طرح اپنے معنی بدل دیتی ہیں اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں۔

سیدھانا یا سدھانا ہماری زبان میں تربیت کرنے کے معنی میں آتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سدھایا ہوا آدمی ہے یا بندہ۔ ہندو کلچر میں سادھنا دھیان گیان کی ایک صورت ہے اسی لیے ایک خاص طبقہ کے لوگ سادھو کو کہتے ہیں، جو ہندو کلچر میں ایک بہت اہم روحانی تربیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر سیدھا کرنا ایک ٹیڑھی میڑھی چیز کو یا بڑے کردار کو درست کرنے کے لیے آتا ہے اور سیدھی کا مفہوم اس سے غائب ہوتا ہے۔

◇ سیدھی انگلیوں گھی نکالنا یا سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا ہے

محاورے کے ساتھ زندگی کا جو تجربہ شریک رہتا ہے محاورے میں اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے لیکن اس کے ایک مرادی معنی بھی اس میں لازمی طور پر شریک رہتے ہیں، اس کے بغیر محاورہ بنتا ہی نہیں، یہاں بھی وہی صورت ہے کہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کے لوگ ہیں یا ایسی عادتوں والا ایک شخص ہے کہ اس سے سیدھے سادھے طریقے پر کام

نہیں لیا جاسکتا، کوئی نہ کوئی تگڑم بازی یا مکاری اپنے عمل میں شامل کر کے کام نکالا جاسکتا ہے۔ اس سے ہم سماجی مطالعہ میں مدد لے سکتے ہیں کہ معاشرے کی صورت اور اس کا طریقہ رسائی کیا بنتا ہے؟ کیوں بنتا ہے اور اس کا اظہار کس طریقہ پر ہوتا ہے۔

دودھ نکالنا بغیر انگلیوں کو موڑے ہوئے ممکن نہیں ہوتا اور اگر سیدھی انگلیوں دودھ نہیں نکل سکتا تو گھی کیسے نکل آئے گا۔ وہ تو ایک پیچیدہ عمل ہے، دودھ نکالو پھر گرم کرو اس کے بعد اس کو بلونے کے لیے خاص طرح کے برتن اور رہی کا استعمال کرو۔ پھر کچا گھی نکلے گا اور اس میں سے گرم کر کے چھاچھ الگ کی جائے گی، تب گھی نکلے گا، تو سیدھی انگلیوں کہاں نکلا۔ دودھ نکالنے سے لے کر گھی نکالنے تک بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کام کو کرنے یا اس مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے کئی مشکل ترکیبیں اختیار کرنی ہوں گی، سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا۔

◇ سیر کو سوا سیر موجود ہے

آدمی مکاری، فریب یا زبردستی سے اپنا کام نکالنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، فریب کرنے یا فریب کی صلاحیت موجود ہے۔ ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ اس ہوش میں نہ رہو سیر کو سوا سیر موجود ہے، یعنی اگر تم بڑے ہو تو تم سے زیادہ اور بڑے موجود ہیں۔

برائی کو برائی سے ختم کرنے کا عمل بھی سماج کا ایک ایسا عمل ہے جس کے حوالہ سامنے آتے رہتے ہیں اور اس پہلو کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

◇ سیلا کر کے کھانا

”سیلا“ کے معنی ہیں بھیگا ہوا کے ہیں اسی لیے نم خوردہ شے کو سیلا کرنا یا ہونا کہتے ہیں۔ غریب معاشرے میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھائے جاتے تھے اور نمک کی ڈلی ساتھ رکھی جاتی تھی۔ ”سیلے کر کے کھانا“ غالباً اسی ضرورت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کو ٹھنڈا کر کے کھانا بھی کہا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ بے صبرے پن کا اظہار نہ کرو گرم گرم کھانے سے منہ جلتا ہے۔ معدے کو نقصان پہنچتا ہے، یہ تو ایک طبعی بات ہوئی لیکن تہذیب و شائستگی اور کھانے کے آداب کا لحاظ رکھنا یہ بھی ہے کہ گرم گرم کھانے پر ایک دم سے ہاتھ نہ ڈالا جائے اور ضرورت کے مطابق ٹھنڈا کر کے کھایا جائے۔ سماجی حیثیت سے کسی بھی کام

کو سلیقہ سے اور مناسب وقت دیکھ کر انجام دینا زیادہ بہتر بات ہوتی ہے اور جلد بازی کو شیطان کا کام خیال کیا جاتا ہے۔

◇ سینہ اُبھار کر چلنا

یہ سماجی رویہ ہے اور اس کے ذیل میں انسان کی اخلاقی روئیں آتی ہیں۔ سر جھکا کر چلنا شرافت اور تابع داری کی علامت اور بڑائی کی شناخت کا خیال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بازار میں سر اٹھا کر اور سینہ تان کر چلتا ہے، یہی معنی سینہ اُبھار کر چلنے کے بھی ہیں جس سے انسان کی ذہنی اور نفسیاتی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ سینہ کے اُبھار صنفی علامتیں ہیں جو عنقوانِ شباب میں ظاہر ہوتے ہیں اسی لیے انھیں آثارِ شباب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے ہماری معاشرتی زندگی کے اشارات کو سمجھا جاسکتا ہے کہ کس بات کو ہم کس طرح ظاہر کرتے ہیں، اب یہ الگ بات ہے کہ مہذب طبقہ کا سلیقہ اظہار کچھ اور ہوتا ہے۔ درمیانی طبقہ کا کچھ اور اور نچلے طبقے کا کچھ اور، اسی کے مطابق الفاظ کا چناؤ عمل میں آتا ہے۔ الفاظ آزاد نہیں ہوتے بلکہ ذہنی حالتوں کے تابع ہوتے ہیں اور ذہنی حالتیں سماجیات کی پابند ہوتی ہیں۔

◇ سینہ بہ سینہ

سینہ سے یہاں مراد دل ہے اور اُردو شاعری میں جب سینہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد دل ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جذبات و احساسات کا مرکز سینہ نہیں دل ہوتا ہے۔ کسی بات کا اس اعتبار سے ذکر کہ وہ ابھی سینہ بہ سینہ ہے، اس معنی میں ہوتا ہے کہ اس کا حال کچھ خاص لوگوں ہی کو معلوم ہے سب کو نہیں۔ ابھی تک ہے یہ راز سینہ بہ سینہ ہے۔

◇ سینہ سپر ہونا

”سینہ سپر“ کے معنی ہیں مقابلہ کے لیے تیار ہونا یا مقابلہ کرنا۔ سپر ڈھال کو کہتے ہیں تیغ یعنی تلوار کے ساتھ ڈھال کا ہونا ضروری تھا کہ تلوار کا وارڈ ڈھال پر ہی روکا جاتا تھا اور جب آدمی غیر معمولی طور پر اپنی بہادری کو ظاہر کرتا تھا تو وہ خود یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا شخص یہ کہتا تھا کہ وہ ہمیشہ سینہ سپر رہے ہیں۔ اس سے ایک زمانہ کی تہذیبی فضا کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی معاشرتی کا ذہن اور اس کے ساتھ زبان اظہار حقیقت کے کیا معنی رہے ہیں۔

◇ سینہ زوری کرنا

”زور“ زبردستی کرنے کو کہتے ہیں یہ بھی ہمارا ایک سماجی رویہ ہے کہ ہم خواہ مخواہ اور بیشتر غیر ضروری طور پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اسی کو سینہ زوری کہا جاتا ہے۔

◇ سینے سے لگانا

اظہارِ محبت کرنا، اپنوں کی طرح پیش آنا اور اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ انسان ملتا ہے، باتیں کرتا ہے معاملہ کرتا ہے مگر ہر ایک کو اپنے سینہ سے نہیں لگاتا، دل سے قریب نہیں کرتا، سینہ سے لگانے کے مفہوم میں دل سے قریب کرنا اور دل میں جگہ دینا شامل ہے۔

رُویف___ش

◇ شاخ در شاخ ہونا

کئی پہلو نکلنا یا نکالنا۔ شاخ در اصل کوئی معاملہ مسئلہ یا مقدمہ بھی ہوتا ہے۔ درخت کی ڈالی یا شاخ تو اپنی جگہ ہوتی ہی ہے اور شاخ کا یہ انداز قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ شاخ میں سے شاخ نکلتی رہتی ہے اور ایک پہلو کے مقابلہ میں یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو سامنے آتا رہتا ہے۔ ہمارے سماجی معاملات ہوں یا گھریلو مسائل، کاروبار سے متعلق کوئی بات ہو یا اس کا تعلق انتظامی امور سے ہو، شاخ در شاخ ہوتے رہتے ہیں۔ بات میں سے بات اور نکتہ میں سے نکتہ ہماری عام گفتگو میں بھی نکلتا رہتا ہے۔

◇ شاخ زعفران

زعفران ایک خوشبودار شے ہوتی ہے جس کا اپنا پودا بھی ہوتا ہے اور کشمیر میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ زعفران کا کھیت دیکھ کر ہنسی آتی ہے اسی لیے جو آدمی خوش مزاج ہوتا ہے اور ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرتا رہتا ہے اسے شاخ زعفران کہا جاتا ہے۔

◇ شاخسانہ نکالنا یا نکلنا

کسی بات کے ایسے پہلو یا نتیجے نکلنا جو پہلے سے نظر میں نہ ہوں، شاخسانے نکلنا یا نکالنا کہا جاتا ہے اور ہماری معاشرتی زندگی میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں کو اس کا شوق ہوتا ہے کہ وہ نئے نئے نتیجے نکالتے رہتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو لطف آتا ہے۔ آخر بات کا بٹنگلڑ بنانا بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک سماجی ہو سماجی رویہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ”شاخسانے نکالنا“ ہمارے معاشرے کا خاص انداز ہے۔

◇ شادی مرگ ہونا

اتنی خوشی ہونا کہ آدمی کی حرکت قلب بند ہو جائے کہ اس پر موت طاری ہو جائے۔

انسان ایک جذباتی جاندار ہے وہ ایک وقت میں اتنا ناراض ہوتا ہے کہ دوسرے کا خون کر جاتا ہے یہاں تک کہ خون کو پی لیتا ہے، جگر چبا لیتا ہے۔ آدمی کی بوٹیاں چیل کوے کو کھلا دیتا ہے۔ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، عشق کرتا ہے تو جنگل جنگل صحرا صحرا بھٹکتا ہے بقولِ فراق۔

پھرتے تھے دشت دشت دیوانے کدھر گئے

وہ عاشقی کے ہائے زمانے کدھر گئے

انسان کی جذباتیت کا ایک پہلو جو محاورہ بن گیا وہ یہ بھی ہے کہ اپنی غیر معمولی حیثیت کے زیر اثر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس لمحہ پر مرثتا ہے اس محاورے میں ایک طرح سے انسان کے جذبات اور حسیات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو اس کے معاشرتی روشنوں پر اثر انداز ہونیوالی سچائی ہے۔

◊ شامت آنا، شامت سر پر کھیلنا، یا شامت اعمال ہونا

ہر عمل اپنا نتیجہ رکھتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہوگا تو نتیجے بھی اچھے ہوں گے، اگر عمل خراب ہوگا تو نتائج بھی بُرے نکلیں گے یہ ہماری سماجی مذہبی اور تہذیبی سوچ ہے۔ اسی لیے بُرے عمل کے نتیجے کو شامت آنا کہتے ہیں اور اُردو میں شامت کے معنی ہی بُرے نتیجے کے ہیں۔ کسی مصیبت کے پھنسنے کو شامت آنا کہتے ہیں، غالب کا شعر ہے۔

گدا سمجھ کے وہ چپ تھا مری جو شامت آئی

اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے

◊ شاہ عباس کا علم ٹوٹنا

تعمیر داری اور مجالسِ محرم کا ایک نہایت اہم مرحلہ علم نکالنا ہوتا ہے۔ یہ محرم کی سات تاریخ کی رسم ہے، اس تاریخ کو محرم کے علم اٹھائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک خاص علم وہ ہوتا ہے جس میں اوپر کی طرف ایک چھوٹی سی مشک لٹکی ہوتی ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا علم ہوتا ہے۔ مشک اس بات کی علامت ہے کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا علم ہے جو سقہ حرم کہلاتے تھے اور کربلا میں جب اہل بیت پر پانی بند کیا گیا تھا تو وہی دریائے فرات سے پانی مشک بھر کر لائے تھے اور دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا علم خاص طور پر احترام کا مستحق قرار دیا جاتا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی درگاہ واقع لکھنؤ پر علم چڑھانا شیعوں کے یہاں ایک مذہبی رسم بھی ہے، جو منت

کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے مگر ان کی ماں دوسری تھیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے وفادار اور اہل بیت کے نہایت ہی فداکار تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے علم کے ساتھ ٹوٹنے کا محاورہ بھی آتا ہے جو ایک بددعا ہے اور بدترین سزا خیال کی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جھوٹے پر خدا کی مار پڑے۔

◇ شرع میں رخنہ ڈالنا، شرع پر چلنا

شرع سے مراد ہے شریعت اسلامی، دستور اور قانون اور مذہبی قانون۔ اسی لیے اس کا احترام بہت کیا جاتا ہے اور ذرا سی بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اسے مولویوں کی نظر میں بدعت کہا جاتا ہے اور مذہب پسند طبقہ اسے شرع میں رخنہ ڈالنا کہتا ہے۔ ”رخنے ڈالنا“ خود بھی محاورہ ہے اور اس کے معنی ہیں الرچیس پیدا کرنا، روکاوٹیس کھڑی کرنا، اس سے ہمارے معاشرتی طبقہ کے ذہنی رویوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کن باتوں پر زور دیتے ہیں اور کن رویوں کو کس طرح سمجھتے ہیں اور پھر کن الفاظ میں اس کا ذکر کرتے ہیں الفاظ کا چناؤ ذہنی رویوں کا پتہ دیتا ہے۔

محاورے میں الفاظ کی جو نشست ہوتی ہے اسے بدلا نہیں جاتا، وہ روزمرہ کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ جس کا تربیتی ڈھانچہ توڑنے کے اہل زبان اجازت نہیں دیتے وہ ہمیشہ جوں کا توں رہتا ہے۔ یہ محاورے کی ادبی اور سماجی اعتبار سے ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ ”شرع پر چلنا“ ایک دوسری صورت ہے یعنی قانون شریعت کی پابندی کرنا جس کو ہم اپنے سماجی رویوں میں بڑی اہمیت دیتے ہیں۔

◇ شرم سے پانی پانی ہونا

ہمارے ہاں جن محاوروں کی خاص تہذیبی اہمیت ہے ان میں اظہارِ ندامت کرنے سے متعلق محاورے بھی ہیں۔ اس سے معاشرے کے عمل و ردِ عمل کا پتہ چلتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے اور اس سے سوسائٹی کے مزاج کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہماری زبان میں شکر یہ سے متعلق محاورے کیا ہوتے ہیں۔ شکر یہ کا لفظ بھی قصبات اور دیہات کی سطح پر موجود نہیں ہے۔ ہندی میں بیشک ”ابھاری ہونا“ کہتے ہیں، مگر دیہات و قصبات کی سطح پر اس لفظ کی پہنچ بھی نہیں ہے اس کے مقابلہ میں اظہارِ شرمندگی کے لیے ایک بہت پرکشش اور بامعنی محاورہ آتا ہے اور وہ ہے شرم سے پانی پانی ہونا۔

◇ شوشہ اٹھانا، شوشہ نکالنا

یہ تحریر و نگارش کی ایک اصطلاح ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں حرف کی شکل کو ایک ایسی صورت دینا جو املا کے اعتبار سے زیادہ واضح اور زیادہ صحیح ہو اور رسم الخط میں فن کتابت کی بہت سی نزاکتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس میں شوشہ لگانا اور شوشہ دینا بھی شامل ہے۔ اس سے اردو میں جو محاورہ بنا ہے اس کی سماجی اہمیت بہت ہے۔ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات میں اعتراض کرتے ہیں اور نئے پہلو نکالتے ہیں اسی کو ”شوشہ نکالنا“ بھی کہا جاتا ہے۔ ”شوشہ نکالنا“ بات چیت سے تعلق رکھتا ہے اور ”شوشہ لگانا“ تحریر سے، مطلب اعتراض کرنا اور کمزوریاں دکھانا ہوتا ہے۔ تحریر یا تقریر کی اصطلاح یا تصحیح پیش نظر نہیں ہوتی، جس سے ہمارے معاشرتی رویوں کا اظہار ہوتا ہے۔

◇ شکار ہونا، شکار کرنا

شکار انسان کا قدیم پیشہ ہے، اسی کے سہارے اس نے ہزار ہا برس پہاڑوں اور جنگلوں میں گزارے ہیں وہ جانوروں کا شکار کرتا تھا اور انھی سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ان کے پروں سے اپنے بدن کو سجاتا تھا، ان کی ہڈیوں سے اپنے لیے زیور اور ہتھیار تیار کرتا تھا اور ان کی کھال پہنتا تھا۔

انسان کی قدیم تاریخ اس کے شکار کی تاریخ ہے اور اس کے تمدن میں جانور طرح طرح سے شریک تھے۔ اب سے کچھ دنوں پہلے تک بھی شکار کا شوق بہت تھا۔ شکار پارٹیاں نکلتی تھیں، نشانہ باز ساتھ ہوتے تھے اور شکار تقسیم کیا جاتا تھا اور تحفہً بھیجا جاتا تھا۔ تاریخ میں بادشاہوں کے شکار کا ذکر آتا تھا اور اس میں کیا کچھ اہتمام ہوتا تھا۔ اس کا بھی ہماری سماجی زندگی میں شکار جن جن اعتبارات سے حوالہ بتا رہا ہے اسی کا اثر زبان اور محاورات پر بھی مرتب ہوتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ”شکار کرنا“ اور ”شکار ہو جانا“ ایک خاص محاورہ بن گیا جس کے معنی ہیں، فریب دینا اور فریب میں آ جانا۔ بہر حال یہ بھی ہماری سماجی زندگی ہے کہ ہم طرح طرح سے فریب دیتے ہیں اور فریب میں آ بھی جاتے ہیں۔

◇ شکل بگاڑنا، شکل بنانا، شکل سے بیزار ہونا

شکل یعنی صورت ہماری تہذیبی اور معاشرتی زندگی کا ایک اہم حوالہ ہے۔ اسی لیے کہ آدمی اپنی شکل و صورت سے پہچانا جاتا ہے اور ہم دوسروں سے متعلق اپنے جس عمل و رد عمل کا

اظہار کرتے ہیں اس میں صورت شامل رہتی ہے۔ فنِ تصویر اور فنِ شاعری میں صورت کی اہمیت بنیادی ہے اور وہ ان فنون کی جس میں بُت تراشی بھی شامل ہے ایک اساسی علامت ہے۔

حیدرآباد والے صورت کے ساتھ اُجاڑ کا لفظ لاتے ہیں ”اُجاڑ صورت“ کہتے ہیں یہ وہی منحوس صورت ہے جس کے لیے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ اس کی شکل پر نحوست برستی ہے۔ غالب کا ایک مشہور شعر ہے۔

چاہتے ہیں خوب زویوں کو اسد
کی صورت تو دیکھا چاہیے

منہ دیکھنا، منہ دکھانا، منہ دکھائی، جیسی رسمیں اور محاورے بھی ہمارے ہاں بھی طنز و مزاح کے طور پر بھی صورتِ شکل کا حوالہ اکثر آتا ہے اور اس معنی میں شکل سے متعلق محاورے یا محاوراتی اندازِ بیان ہماری زبان اور شاعری کے نہایت اہم حوالوں میں سے ہے۔

◊ شکم پرور، شکم سیر، شکم پوری

پیٹ سے متعلق مختلف محاورات میں آنے والے الفاظ ہیں، جس میں بنیادی علامت شکم ہے۔ پیٹ بھرنا ہر جاندار کا ضروری ہے کہ اسی پر اس کی زندگی کا مدار ہے۔ پیٹ کا تعلق تخلیق سے بھی ہے اور ہم حمل سے لیکر بچے کی پرورش تک بدن کی جن علامتوں کو سامنے رکھتے ہیں ان میں پیٹ بہت اہم ذہنی حوالوں کا درجہ رکھتا ہے۔ ”پیٹ سے ہونا“، ”پیٹ رہنا“ جیسے محاورے، شکم ناگزیر طور پر شریک رہتا ہے اسی لیے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ شکم سیر ہو کر کھایا یا شکم سیر ہوا۔ شکم پوری کا مفہوم اس سے تھوڑا مختلف ہے یعنی صرف پیٹ بھرنا اچھی طرح یا بُری طرح اچھی چیزوں سے یا بُری چیزوں سے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کھاتے ہیں اور خود غرضانہ انداز سے دوسروں سے چھین کر یا ان کا حق مار کر کھاتے ہیں، ایسے لوگ ”شکم پرور“ کہلاتے ہیں اور زندگی بھر شکم پروری کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان محاورات پر غور کریں اور ان کے معنی اور معنویت کو اپنی سماجی زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی محاورے ہمیں کس طرح سوچنے سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں یا اس کی دعوت دیتے ہیں۔

◊ شگون کرنا، شگون ہونا

”شگون“ ہمارے ہندوستانی معاشرے کا ایک اہم سماجی رویہ ہے۔ ہم ہر بات سے شگون لینے کے عادی ہیں۔ کووا بولا، بلی سامنے آگئی، صبح صبح ہی ایسے شخص کی شکل دیکھی

جو ہمارے معاشرے میں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اُردو کا ایک شعر ہے جو شگون لینے کی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

جس جگہ بیٹھے ہیں بادید غم اٹھیں ہیں

آج کس شخص کا منہ دیکھ کے ہم اٹھیں ہیں

اس طرح سے شگون لینا یا شگون ہونا خوشی غم کسی کام کرنے کے ارادے سے گہرا تعلق

رکھتا ہے۔ ہم استخارہ کرتے ہیں، فال نکالتے ہیں، یہاں تک کہ دیوانِ حافظ سے فال نکالتے

ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایشیائی مزاج شگون لینے اور شگون دیکھنے سے کیا رشتہ رکھتا ہے۔

ہندوؤں میں شہ گھڑی شادی کرنے سے پہلے دیکھی جاتی ہے۔ مغل حکومت کے

زمانہ میں بھی اس طرح کا رواج موجود تھا یہاں تک کہ جشنِ نور روز منانے کے سلسلے میں وہ

نجومیوں سے پوچھتے تھے اور لباس کا رنگ طے کرتے تھے۔

اُڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی

غالب کا یہ مصرعہ اُردو کے اسی رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

شگوفہ چھوڑنا، شگوفہ کھلنا



”شگوفہ“ کلی کو کہتے ہیں۔ کلی کی پھول کے مقابلہ میں الگ اپنی پرکشش صورت

اور ایک دل آویز سیرت ہوتی ہے، جس کی اپنی خوبیوں کو اہل فن اور اصحابِ فکر کی نگاہوں نے

سراہا ہے۔

شاعروں نے طرح طرح سے اس کی خاموشی، دل کشی اور پراسراریت کو اپنے

شاعرانہ انداز کے ساتھ پیش کیا ہے۔ سنسکرت اور پراکرتوں میں اس کا ذکر کنول کے ادھلے یا بن

کھلے پھولوں کی تصویر کشی کے ساتھ آیا ہے۔

فارسی میں خاص طور پر گلاب کی کلی کے ساتھ اُردو میں گلاب کے علاوہ چنبیلی کے

مختلف رنگ رکھنے والے پھولوں کی کلیوں اور ان کے چٹکنے کے ساتھ اس کے حسین عکس پیش کیے

گئے ہیں۔ یہ بھی ہماری تہذیب کا ایک علامتی پہلو ہے۔

اُردو میں شگوفہ کے ساتھ ایک دلچسپ محاورہ بھی ہے یعنی ”شگوفہ چھوڑنا“ یعنی ایسی

دلچسپ بات کہنا کہ جو محفل کو پرمسرت بنا دے اور اس میں کوئی ایسا پہلو بھی ہو جو دلچسپ جھوٹ

کا درجہ رکھتا ہو۔ اس سے ہم اپنی معاشرتی زندگی میں محفل نشینی کے انداز و ادا کو بھی سمجھ سکتے ہیں

اور گفتگو کے اس معاشرتی اُسلوب کو بھی جس میں شگوفہ چھوڑنا آتا ہے۔ ہم سب دلچسپ گفتگو نہیں کر پاتے، لیکن دلچسپ گفتگو سے لطف لیتے ہیں جو ہمارے تہذیبی رویوں میں سے ہے۔

◇ شہد سا میٹھا، شہد لگا کر چاٹو، شہد لگا کے الگ ہو جانا

شہد ہماری مشرقی تہذیب میں ایک عجیب و غریب شے ہے کہ وہ پھولوں کا اپنا ایک ایسا جز ہے جس کو بے حد قیمتی کہا جاسکتا ہے۔ یہ دوا ہے بلکہ ایک سطح پر امرت ہے۔ یہ زہر کا تریاق ہے اور اصلی شہد میں جس شے کو بھی رکھا جائے گا وہ عام حالت میں صدیوں تک گلنے سڑنے اور خراب ہونے سے محفوظ رہے گی۔

ہماری سماجی زندگی میں شہد تہذیبی رویوں میں داخل ہے اس میں مہذب رویے آتے ہیں اور بعض ایسے رویے بھی جو لائق تحسین نہیں ہوتے مثلاً کسی آدمی کے پاس کوئی شہادت نامہ ہے مگر اس سے فائدہ کوئی نہیں ایسے موقع پر بطور طنز و مزاح یہ کہتے ہیں کہ اب اسے شہد لگاؤ اور چاٹو، یعنی اس تلخی کو برداشت کرو کہ تمہارے ساتھ یہ دھوکا ہوا ہے۔ اُننگی کو شہد میں بھگولینا بھی اسی معنی میں آتا ہے۔

◇ شیخ چلی

مسلمانوں کے اپنے معاشرے کا محاورہ ہے اور اس کے معنی ہیں ایک خاص طرح کا سماجی کردار۔ ملا نصیر الدین کے نام سے بھی اسی طرح کا ایک کردار ترکوں میں موجود ہے اور وہیں سے یہ مسلمان کلچر میں آیا ہے۔ اس طرح کا کردار بوجھ بھگول کی صورت میں بھی موجود ہے کہ وہ حد درجہ ذہین ہے اور بیوقوف ہے۔ ہماری داستانوں میں بھی اس طرح کے کردار آ گئے ہیں۔ فسانہ آزاد میں فوجی کا کردار اسی طرح کا کردار ہے، شیخ چلی جس کا مثالی نمونہ ہے۔

◇ شیخی بگھارنا، شیخی کر کر کر ہونا، شیخی مارنا، شیخی میں آنا

”شیخ“ عرب میں سردار قبیلہ کو کہتے تھے یا پھر بہت معزز آدمی کو۔ ہندوستان میں شیخ کا تصور شعبہ کے سربراہ سے متعلق ہے، جیسے شیخ الادب، شیخ الا منطق، شیخ الحدیث، شیخ الجامع۔ کسی کالج یا یونیورسٹی کے صدرِ اعلیٰ کو بھی کہتے ہیں علاوہ بریں شیخ الہند شیخ، السلام اور شیخ العرب بھی کہا جاتا ہے یہ بھی خطابات ہیں۔

ہندوستان میں شیخ، سید، مغل اور پٹھان چار اُونچی ذاتیں ہیں جو سماجی زندگی میں بھی اپنے اثرات رکھتی ہیں اور ان سے کچھ سماجی رویہ وابستہ ہو گئے ہیں مثلاً شیخ کے ساتھ لوگوں نے

شخی بگھارنا، شخی کا اظہار کرنا، شخی مارنا، شخی میں آنا جیسے محاورے بھی اپنے معاشرتی تجربوں اور خیالوں کی روشنی میں پیدا کر دیے ہیں اور ہمارے سماجی رویہ اس کے دائرہ میں آتے ہیں مثلاً وہ اپنے خاندان کے بارے میں بہت شخی مارتا ہے، بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے یا اپنے معاملہ میں بہت شخی بگھارتا ہے۔ بات وہی ہے کہ شخی جتنا ہمارا ایک سماجی رویہ ہے اس طرح کے فقرہ اس کے خلاف ایک ردِ عمل ہے۔

◇ شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں

”شیر“ پھاڑ کھانے والا جانور ہے جو بہادر بھی ہے اور بے انتہا سفاک بھی۔ بکری، بھیڑ، ہرن جیسے جانور اس کی خوراک ہیں وہ جب بھی ان کو دیکھتا ہے ان پر حملہ کر کے ان کو اٹھالے جاتا ہے اور ان کا خون پی لیتا ہے۔ جتنا گوشت خود کھانا چاہتا ہے، کھا لیتا ہے، باقی دوسرے جانوروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت بھی ممکن نہیں کہ شیر اور بکری ایک ساتھ رہیں اور ایک گھاٹ پانی پیئیں۔ یہی خیال کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کا رعب و داب اور اس کے انتظام کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ظالم کسی کمزور اور مظلوم کو نہ ستا سکے۔

یہ آئیڈیل ہے جو صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں رچا بسا چلا آ رہا ہے اور اسی سے یہ محاورہ بنا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں۔

◇ شیش محل کا کتا

شیش محل امرا کے محلات میں ہوتا بھی تھا کہ کسی خاص حصے میں چھوٹے بڑے شیشے لگا کر آرائش کی جاتی تھی اور یہ بہت پسند کی جانے والی چیز تھی۔

شیش محل میں ایک ہی شے یا شخص ہزار شکلوں میں نظر آتا تھا یہ بھی لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ مگر کتے کی مصیبت یہ ہے کہ وہ محلے میں کسی غیر کتے کو نہیں دیکھ سکتے، بے طرح اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی حدوں سے باہر نکال کر دم لیتے ہیں۔ اب شیش محل میں ایک کتے کو اپنے چاروں طرف کتے ہی کتے نظر آتے ہیں وہ ان کو بھگانا چاہتا ہے تو وہ سارے اسے بھگاتے ہیں۔ ایک طلسم بندی میں بندھ جاتا ہے یہیں سے ایک دلچسپ محاورہ بن گیا ”شیش محل کا کتا“ ہونا وہ ایک شاعرانہ محاورہ ہے اور داستانوں کی فضا کو پیش کرتا ہے۔

◇ شیشے میں اتارنا

”شیشہ“ آئینہ کو بھی کہتے ہیں اور شراب کے اس برتن کو بھی جس سے شراب جام

میں انڈیلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شیشے کا ایک طلسمی تصور بھی ہے کہ پریوں کو شیشے میں قید کیا جاتا ہے۔ اسی سے محاورہ پیدا ہوا ہے اگر کسی آدمی سے معاملہ کرنا مشکل ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طرح اس مشکل پر قابو پایا جاتا ہے تو اسے ”شیشے میں اُتارنا“ کہتے ہیں۔ داستانوں میں پریوں کے کردار آتے ہیں۔ پریاں کسی کے قابو میں نہیں آتیں مگر کسی نہ کسی ترکیب اور طریقہ سے انھیں بھی قابو میں کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ”شیشے میں پری کو اُتار لیا“ یعنی اسے قابو میں کر لیا جو قابو میں نہیں آتا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ طلسماتی کہانیوں کا ہمارے ذہن زبان اور ادب میں جو اثر ہے اسے ہم اپنے محاورات میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔

زبان کے آگے بڑھنے میں سماج کے ذہنی ارتقا کا دخل ہوتا ہے۔ ذہن پہلے کچھ باتیں سوچتا ہے ان پر عمل درآمد ہوتا ہے اور وہیں سے پھر اس سوچ یا اس عمل کے لیے الفاظ تراشے جاتے ہیں اور وہ محاورات کے سانچے میں کچھ ڈھلتے ہیں اور ایک طرح سے "Preserve" ہو جاتے ہیں۔

◇ شیطان اٹھانا، شیطانی لشکر، شیطان سر پر اٹھانا، شیطان کا کان میں پھونک دینا، شیطان کی آنت، شیطان کی حالہ، شیطان کی ڈور، شیطان کے کان بہرے، شیطان ہونا، شیطان ہو جانا

شیطان برائی کا ایک علامتی نشان ہے جو قوموں کی نفسیات میں شریک رہا ہے۔ خیر اور شر، بھلائی اور برائی معاشرہ میں مختلف اعتبارات سے موجود رہی ہے اسی کا ایک نتیجہ شیطان کا تصور بھی ہے کہ وہ برائیوں کا مجسمہ ہے اور بد اعمالی کا دیوتا۔ خیر کا خداوند یزدان پاک ہے اور برائی کا سرچشمہ شیطان کی ذات ہے۔

اب آدمی جو بھی برائی کرے گا اس کی ذمہ داری شیطان پر ڈال دی جائے گی اور کسی نہ کسی رشتے کو شیطان ہی کو سامنے رکھا جائے گا۔ اگر کوئی بے طرح غصہ کرتا ہے تو یہ کہیں گے کہ شیطان اس کے سر پر سوار ہے، اس کے سر چڑھا ہے۔ اگر کوئی آدمی برا ہوگا تو کہیں گے کہ وہ تو شیطان ہیں، اگر کسی سے کوئی برائی وجود میں آتی ہے تو کہتے ہیں کہ شیطان موجود ہے، اس نے کروائی ہے یہ برائی اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس برائی کا ذمہ دار آدمی ہے تو کہتے ہیں کہ آدمی کا شیطان آدمی ہے یعنی برائی کی ہر نسبت شیطان کی طرف جاتی ہے کہ انسان کی یہ ایک فطرت اور مزاج ہے کہ وہ ذمہ دار خود ہوتا ہے لیکن اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ کسی دوسرے کے

سر ڈالتا ہے۔ یہ ہمارا سماجی رویہ آئے دن ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ اس نے فلسفیانہ طور پر شیطان کے وجود پر جنم دیا اور شیطان سے نسبت کے ساتھ بہت سی برائیوں کو پیش کیا جس کی نسبت اسے اپنے سے کرنی چاہیے تھی، وہ دوسروں سے کر دی۔ مذہبوں نے بھی اپنے طور پر اس تصور کو ایسی سوچ اور "Approch" میں داخل کر لیا۔

◆ شین قاف

اردو زبان اپنے لب و لہجہ اور مختلف لفظوں کے تلفظ کے اعتبار سے ایک ایسی زبان ہے جس کو مختلف لوگ بولتے اور الگ الگ بولیوں والے اپنی سماجی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایسے حروف موجود ہیں جس کا تلفظ ہمارے عام لوگ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جیسے ث، ذ، ص، ض، ظ، ع، غ اور ف۔

اس لیے کہ یہ حروف ہماری دیسی زبانوں میں موجود ہی نہیں اس پر بھی "شین" کو چھوٹے "س" سے بدل دینا اور قاف کو چھوٹے کاف سے اور نشی کو منسی کہنا اور قلم کو کلم کہنا بہت برا لگتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص بولتے وقت شین قاف کی درستگی کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس کی تعریف کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا شین قاف درست ہے۔ یہ زبان لفظیات اور تلفظ سے متعلق ہمارا ایک تہذیبی معیار ہے مگر اردو سوسائٹی کا ہر زبان والے کا نہیں، کہ وہ شین قاف کی درستگی پر زور دیتے ہیں اور اسی لیے شین قاف درست ہونا ایک محاورہ ہے۔

رویف ___ ص

◆ صاحب سلامت

سلام ہمارے تہذیبی رویوں اور رسموں کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہم بڑوں کو بھی سلام کرتے ہیں، برابر والوں کو بھی اور اپنے سے چھوٹوں کو بھی، بادشاہوں کو سلام بہت سادہ طریقہ پر نہیں کیا جاتا۔ وہاں سنات بار زمین بوس ہو کر کورنیش بجالاتے ہیں جسے درباری سلام کہہ سکتے ہیں۔ مجرا ارباب نشاط کا سلام ہوتا ہے۔

ہم سلام مجرا ایک ساتھ بھی کہتے ہیں اور اسے محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آداب امرا کا سلام ہے اور تسلیمات اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ السلام علیکم گویا برابری کا سلام ہے۔ چھوٹا طبقہ باقاعدہ سلام نہیں کر سکتا وہ صاحب سلامت کہتا ہے ہمارے معاشرے

میں جو اونچ نیچ ہے۔ اس کا اثر سلام پر بھی مرتب ہوتا ہے۔

صاحب کا لفظ مالک کے معنی میں آتا ہے ہم اس کو احترام کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ سکھوں میں صاحب کے وہی معنی ہیں جو ہمارے ہاں شریف کے ہیں۔ اسی لیے وہ گرو دار صاحب کہتے ہیں۔ عام طور پر صاحب انگریزوں کو صاحب کہتے رہے ہیں اس سے پہلے بیگمات اور شہزادیوں کے لیے بھی صاحب کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ غالب کے زمانے میں گھر کی خواتین کو بھی صاحب لوگ کہا کرتے تھے اب یہ ایک طرح کا محاورہ ہے۔

◇ صاحب نسبت ہونا

صوفیانہ اصطلاح ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس شخص کو فلاں صوفی خانوادے سے نسبت ہے اس کو وہاں سے روحانی فیض پہنچا ہے۔ اسی لیے فارسی میں یہ مصرعہ کہا گیا جو بہت شہرت رکھتا ہے۔

گرچہ خو ردیم نسبتے است بزرگ

اگرچہ ہم چھوٹے ہیں لیکن ہماری نسبت بڑی ہے اس معنی میں صاحب نسبت ہونا ایک سطح پر محاورہ بھی ہے۔

◇ صاف اڑانا، صاف انکار کرنا، صاف جواب دینا، صاف نکل جانا

ہماری سماجی عادتوں کمزوریوں یا برائیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جس بات کو سننا یا جاننا نہیں چاہتے اس کی ان دیکھی کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں یا ہمارے علم میں ہے نہیں اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر ہوتا ہے۔ ہم دانستہ انجان بنتے ہیں اس سے ہم اپنے سماجی رویوں کے مطالعہ میں مدد لے سکتے ہیں۔ ”صاف نکل جانا“ بھی اسی مفہوم سے قریب تر اس مفہوم کو ظاہر کرتا ہے یعنی ذمہ داریوں سے بچ نکلنا اور یہی ہمارا معاشرتی مزاج بھی ہے۔

◇ صبح خیز، صبح خیزے، صبح خیز ہونا

صبح کو اٹھنے والا صبح خیز کہلاتا ہے۔ یہ عبادت کی غرض سے ہوتا ہے اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صبح کی عبادت میں زیادہ لطف اور روحانی کیف ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو لفظی ترکیب اتنی نیکیوں کی طرف اشارہ کر رہی تھی اسی سے صبح کے ابتدائی حصے میں چوہری چکاری کر نیوالے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قافلوں کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ قافلے عرب میں رات کے وقت سفر کرتے تھے اور صبح کے قریب یہ سو جاتے تھے۔ اسی وقت اس طرح کے

چوری چکاری کر نیوالے مصروف عمل ہوتے تھے اسے ہمارے ادیبوں نے بھی استعمال کیا ہے۔
فسانہ عجائب میں ایک سے زیادہ مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ صبح خیز دراصل صبح
خیزے ہی ہے اور اپنے خاص مفہوم کے ساتھ ہے۔

◇ صبح شام کرنا

اُردو کے بعض ایسے محاورات ہیں جو بہت سی پریشانیوں، ذہنی تکلیفوں اور کرب
واضطراب کے عالم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں ان میں صبح و شام ہونا بھی ہے یہ ایسے مریض کے
لیے کہا جاتا ہے جس کی زندگی توقعات ختم ہو چکی ہوں اور یہ کہنا مشکل ہو کہ اب یہ صبح سے شام یا
شام سے صبح کرے گا یا نہیں۔ ایسے ہی موقعوں پر کہتے ہیں کہ اس کی تو صبح شام ہو رہی ہے یا
بڑھاپے کے بعد جب زندگی کے خاتمہ کا وقت آتا ہے تو میر کے الفاظ میں اس طرح کہا جاتا ہے۔

صبح پیری شام ہونے آئی میر

تونا چیتا اور بہت دن کم رہا

غالب نے صبح کرنا شام کا اسی اضطراب اور بے چینی کے عالم کی طرف اشارہ کرتے

ہوئے کہا ہے۔

کاو کاو سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ

صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا

◇ صبر پڑنا، صبر لینا، صبر کا پھل میٹھا، صبر بڑی چیز ہے

صبر عربی لفظ ہے مگر ہماری زبان میں کچھ اس طرح داخل ہے کہ وہ اس کے بنیادی

الفاظ میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اسے ہم اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کرنا، صبر سے کھانا،

بے صبر ہونا یا صبر و شکر کرنا ہماری اخلاقیاتی فکر کا ایک جز بنا ہوا نظر آتا ہے۔

معاشرے میں چاہے وہ گھریلو معاشرہ ہے یا سرکار و دربار بازار سے تعلق رکھتا ہو۔

معاملات کی اونچ نیچ اور دیانت کے ساتھ بددیانتی ہمارے معاشرے کا ایک مزاج اور ہمارے

معاملات کا ایک جز بن گیا ہے۔ اس پر ہم لڑتے جھگڑتے ہیں من موٹا و پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ

صورت مستقل طور پر رہے تو زندگی میں ذرا بھی تواضع باقی نہ رہے اسی لیے صبر کرنے کی بات کی

جاتی ہے صبر سے کام لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ صبر بڑی چیز ہے یا صبر کا پھل

میٹھا ہوتا ہے یا اللہ کو صبر بہت پسند ہے یہ سب باتیں ہماری نفسیاتی تسکین کے لیے ہوتی ہیں

اور جو آدمی بے صبرے پن کا اظہار کرتا ہے۔ اس پر ہم کسی نہ کسی طرح معترض ہوتے ہیں۔ قرآن نے خود بھی ایک موقع پر کہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

◇ صحبت اٹھانا، صحبت داری، صحبت گرم ہونا، صحبت نہ رہنا

صحبت اچھے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کو کہتے ہیں۔ اس میں بڑے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور برابر والے بھی، پڑھے لکھے بھی اور غیر پڑھے لکھے بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی۔ انسان صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا اپنے گھر کے ماحول سے بھی سیکھتا ہے اور اس سے زیادہ اچھے لوگوں کی صحبت اٹھاتا ہے۔ تب سیکھتا ہے۔ اسی لیے کچھ زمانے پہلے تک ایسے لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے جو اچھے لوگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے ہوتے تھے اور اسی صورت حال کی طرف صحبت کے متعلق ہماری زبان کے محاورے اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس معنی میں محاورہ ہماری سوچ اور تہذیبی صورت حال کا ایک (Miniature) چھوٹا سا مرقع ہے جو ایک وسیع تر پس منظر کی طرف ہمارے ذہن کو مائل کرتا ہے۔

◇ صحنک سے اٹھ جانا، غائب ہو جانا، بے تعلق قرار دیا جانا

ہماری دیہاتی زبان میں صحنک ایک برتن ہے جو عام برتنوں سے بڑا ہوتا ہے، ویسے ہماری زبان میں صحن آنگن کو کہتے ہیں گھر کے ساتھ وہ انگنائی کے معنی میں آتا ہے اور کسی بڑی عمارت کے ساتھ کھلے ہوئے حصے کے معنی میں جیسے جامع مسجد کا صحن کہا جائے یعنی صحن (Courtyard) اُردو کا مشہور مصرعہ ہے۔

اری اٹھ جاؤں گی میں صحنک سے

اس کے معنی ہیں کہ میں تو کہیں کی نہ رہوں گی۔

◇ صلِ علیٰ کہنا

بعض محاورے خاص مسلمان کلچر سے رشتہ رکھتے ہیں ان میں صلِ علیٰ کہنا بھی ہے یعنی ان پر ہزار سلام۔ اسی لیے مسلم معاشرے میں صلِ علیٰ محمد ﷺ کہا جاتا ہے، یعنی ہزار درود و سلام۔ اسی لیے جب کسی کی تہہ دل سے تحسین کی جاتی ہے اور اسے بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسے صلِ اللہ کہا جاتا ہے۔ غالب کا شعر ہے۔

دیکھے لاتی ہے اس شوخ کی نخوت کیا رنگ

اس کی ہر بات پہ ہم صلِ اللہ کہتے ہیں

”نام خدا“ کہنے کے معنی بھی یہی ہیں اور ایک خاص کلچر کے اظہار سے تعلق رکھتے ہیں۔

صلواتیں سنانا

◇

”صلوات سنانا“ برا بھلا کہنے کے معنی میں آتا ہے جب کہ صلوات کے معنی ہیں نماز اور صلوة کے معنی ہیں درود۔ لیکن زبان کیا کیا رنگ اختیار کرتی ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ صلوة جو اچھے سے اچھے معنی میں آتا ہے اس کو برے معنی میں اور بے تکلف استعمال کیا جاتا ہے۔

اس سے ہم اس نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کلچر جس میں مذہبی روایت بھی شامل ہے ہماری زبان کو متاثر کرتا ہے اور اس کا ادبی علمی اور عوامی کردار اس سے متعین ہوتا ہے، لیکن زمانہ اور زندگی ذہن اور زبان اسے جگہ جگہ اس طرح بھی متاثر کرتے ہیں کہ اس کا رخ بدل جاتا ہے اور زبان کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔

◇ صندل کے چھاپے منہ پر لگانا، صندل کی سی تختی، صندل گھنا

صندل دراصل چندن ہے جو ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے۔ اس کے درخت جنوبی ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں اور ہندو کلچر سے ان کا خاص تعلق ہے۔ جنوبی ہندوستان کے لوگ پنڈت اپنے ماتھوں پر قشقہ لگاتے ہیں یہ صندل گھس کر لگایا جاتا ہے۔ مہا کوئی کالی داس کے زمانے میں عورتیں اپنے بدن کی سجاوٹ کے لیے اور اس کو خوشبودار بنانے کی غرض سے اس پر چندن لگاتی تھیں۔ چندن کی لکڑیوں سے بعض خوبصورت آرٹیکل تیار کیے جاتے تھے۔ ابٹن میں بھی چندن شامل کیا جاتا تھا اس طرح ہمارے کلچر سے چندن کا صدیوں سے ایک گہرا رشتہ رہا ہے۔

”چندن کے چھاپے منہ پر لگانا“ اپنے کردار کی خوبیوں کو ظاہر کرنا ہے اور سرخ روئی کا نشان ہے اس کے علاوہ صندل کی تختی بھی خوبصورتی اور وجود کی پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض محاورات کو تراشنے میں ہماری زبان کے بولنے والوں نے کس حد تک شاعرانہ طریقہ رسائی کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ بعض محاورے انتہائی مبالغہ آمیز صورتوں کو ظاہر کرتے ہیں ”جیسے آگ کھانا“ اور ”انگارے اگلنا“ بعض محاورے اس کے مقابلہ میں سماجی تلخیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اسی پس منظر میں ان کے معنی اور معنویت کو سمجھا جاسکتا ہے بعض محاوروں سے زندگی کی خوشگوار یاں ظاہر ہوتی ہیں جیسے زہر بچھے ہوئے تیروں

مقابلہ میں شیر و شکر ہونا، شہد جیسے تیروں کے مقابلہ میں شیر و شکر ہونا، شہد جیسے بیٹھے بول کہہ کر خوشی کا اظہار کرنا۔ اسی طرح صندل کی تختی، صندل کا چھاپہ شاعرانہ تشبیہات اور استعاروں کو ظاہر کرتا ہے اور اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے طریقہ فکر اور طرزِ اظہار کے مختلف سلیقوں کو محاورے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اگرچہ محاوروں پر اس رشتے سے کم نظر ڈالی گئی ہے۔

◇ صورت حرام

صورت پر بہت سے محاورے ہیں جیسے یہ صورت (منہ) اور مسور کی دال یا اجاڑ صورت یا پھر صورت حرام۔ صورت کے ساتھ اجاڑ منخوس یا حرام کا لفظ استعمال کرنا ذہنی تلخیوں کا اظہار ہے۔ صورت پر پھٹکار برستی ہے اس محاورے سے بھی اسی صورتِ حال کا اظہار ہوتا ہے ”شیطان کی سی تھوڑی نیل جیسا منہ“ وغیرہ، محاورات اسی جذبہ کا اظہار ہیں کہ کوئی شخص دوسرے سے اس حد تک ناراض ہو کہ اس کی شکل سے بیزار ہونا اس کے رویہ میں شامل ہو جائے۔

ر د ی ف ض

◇ ضد باندھنا، ضد پوری کرنا، ضد بحث میں پڑنا یا ضدی ہونا، ضد چڑھنا ہمارے ہاں کے بہت عام لفظوں اور زبان پر آئیوں والے کلمات میں سے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضد، ہٹ دھرمی اور بلاوجہ کسی رویہ کو اپنانا اور اس پر اڑ جانا، ہمارے معاشرے کی عام کمزوری یا عیب داری ہے۔ ہم معاملات کو سمجھنے کے بجائے اور مناسب لفظوں میں اظہار خیال نہ کرتے ہوئے بدگوئی، بدکلامی اور بداندیشی اختیار کرتے ہیں۔ اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں اور غلط طور پر غیر دانش مندانہ رویہ سامنے آتا ہے۔ ہم بچوں کی سی ضد کا محاورہ بھی اختیار کرتے ہیں جو ایک صورتِ حال کی طرف اشارہ ہے۔ جس کے پس منظر میں عقل و شعور کی کمی کا اظہار ہوتا ہے۔

ضد بحث میں پڑنا بھی خواہ مخواہ کی باتوں پر زور دینے اور غیر ضروری دلائل کو سامنے لانے ہی کا نتیجہ ہوتا ہے اور بات سلجھنے کے بجائے الجھتی ہی چلی جاتی ہے اور ہماری سماجی گرہیں اور سماجی الجھنیں اس سے اور بڑھتی ہیں۔

◇ ضرب اٹھانا، ضرب لگانا، ضرب پہنچانا اور ضرب پہنچنا

یہ محاورے عام طور پر تکلیف پہنچنے یا پہنچانے کے سلسلے میں کام آتے ہیں کہ عربی زبان میں ضرب کے معنی مارنے کے ہیں لیکن ضرب المثل یا ضرب المثل ایک علمی اصطلاح ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ فقرہ اب بار بار استعمال ہوتا ہے اور ایک مثالی صورت بن کر رہ گیا ہے۔

رولیف _____ ط

◇ طاق بھرنا، طاق پر رکھا رہنا، طاق پر رکھنا، طاق ہونا
 ”طاق بھرنا“ دراصل کوئی محاورہ نہیں ہے ایک ہندوانہ رسم ہے جو مسلمانوں میں بھی آگئی ہے۔ اور اس کا شمار یہ کہیے کہ ہماری ملکی رسموں میں ہوتا ہے مسجد کے طاق بھرے جائیں یا مندر کے مطلب اظہار عقیدت ہوتا ہے۔

”چیروں کی بھینٹ دینا“ قدیم زمانے سے انسانی معاشرے کی ایک رسم رہی ہے۔ اس میں چوڑیاں چڑھانا، چوٹیاں شاخوں میں باندھ دینا، بالوں کو بھینٹ دینا، زیورات بھینٹ کرنا اور میٹھائیاں چڑھانا یا روپے پیسہ چڑھاوے کے طور پر نظر کرنا ہماری عمومی رسموں میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ ہم دریاؤں کو بھی بھینٹ دیتے ہیں، پانی کے تالابوں اور کھیتوں کو بھی بھینٹ دیتے ہیں، اسی طرح مندروں مسجد کے طاق بھرے جاتے ہیں۔ چراغ چڑھائے جاتے ہیں، تیل دیا جاتا ہے یہ زیادہ تر عورتوں کی رسمیں ہیں۔ ”طاق بھرنا“ تو یہ کہتے ہیں کہ خالصتاً نسوانی رسم ہے۔

”طاق پر رکھنا“ اس سے بالکل مختلف ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا، دھیان نہ دینا۔ ہمارے یہاں چیزوں کو رکھنے، جس میں پیسے بھی شامل ہیں چھوٹے بڑے طاق ہی کام میں آتے تھے، اور ان پر رکھ کر کبھی گھر کے لوگ بھول بھی جاتے تھے۔ یہیں سے طاق پر رکھنے کا محاورہ بھول جانے اور فراموش کر دینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ ”طاق“ محل کو بھی کہتے ہیں اور ایک (Single) عدد کو بھی، جیسے ایک تین، پانچ، سات، اور نو، یہیں سے طاق ہونے کا محاورہ بنا کہ وہ اپنے اپنے کام میں ماہر اور اپنی ہنرمندی میں طاق ہے یعنی بے جوڑ ہے منفرد ہے۔

◇ طالع چمکنا

علم نجوم میں ستاروں کا رشتہ انسان کی قسمت سے بھی جڑا رہتا ہے اور اسی کے مطابق جنم پتری تیار کی جاتی ہے۔ جس میں پیدائش کے وقت جو ستارے مل رہے ہوتے ہیں ان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور آئندہ زندگی پر جو اس کے اثرات ہونیوالے ہیں ان کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔

طالع کے معنی ہیں طلوع ہونا، نکلنا۔ اب کسی کی پیدائش کے وقت جو ستارے نکل

رہے ہوتے ہیں وہی اس کے طالع کہلاتے ہیں۔ جو قسمت کے ستارے ہوتے ہیں یہ مبارک بھی ہو سکتے ہیں اور نامبارک بھی۔ اسی لیے طالع مسعود اور نامسعود کہلاتے ہیں۔ اُردو میں جو لوگ ادبی زبان بولتے ہیں وہ ان لفظوں کا استعمال بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارے تہذیبی ماحول کا ایک حصہ ہے اور ہماری سوچ کا ایک انداز ہے۔

◇ طباق سامنہ ہونا

ہم چہرے کو انسان کے حسن خوبصورتی اور بد صورتی کے سلسلے میں بڑی اہمیت دیتے ہیں، کبھی پھول کہتے ہیں، کبھی چاند کہتے ہیں، کبھی ٹکیاں سامنہ قرار دیتے ہیں، کبھی آئینہ رخ کہتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں یا عورتیں جن کے چہرے بہت گول ہوتے اور جن کے نقش و نگار نسبتاً بڑے چہرے مقابلہ میں ہلکے ہوتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ طباق سے منہ والی لڑکی یا عورت ہیں۔

جب لڑکیوں کو بہت تھوڑی عمر میں پردہ کروا دیا جاتا تھا اس وقت عورتیں کہا کرتی تھیں کہ طباقی سامنہ ہو گیا اب تک اس کو پردہ کیوں نہیں کروایا گیا۔ یہ بھی سماجی رویہ ہے جو قبضوں، چھوٹے شہروں میں اب تک دیکھنے کو ملتا ہے اور ہماری معاشرتی سوچ کا اظہار کرتا ہے۔

◇ طباقی کتا

ہمارے ہاں ہندوؤں میں جس تھالی میں کھایا جاتا ہے اس کو کتے کے چاٹنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اب تو ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کا ایک عام دستور ضرور رہا ہے۔ جو کتا یہ کام کرتا تھا اور اسے طباقو کتا کہتے تھے۔ جو گویا سماج کی طرف سے ایسے کرداروں کا ایک طنز کا درجہ رکھتا تھا ایسی عورتیں بھی طباقو کہلاتی تھیں جن کو ادھر ادھر کھانے پینے کا لالچ ہوتا تھا۔

◇ طبقہ اُلٹ جانا

ہماری مذہبی فکر ہو یا فلسفہ اور سائنس سے متعلق ہو، دونوں میں آسمان و زمین کے طبقات داخل ہیں اور ان کا ذکر موقیع بہ موقیع آتا رہتا ہے۔ خود قرآن نے آسمان کو سات طباقوں سے وابستہ کیا ہے۔ زمین کے بھی طبقے ہیں اور زمین و آسمان کے طبقے ملا کر چودہ طبقے کہا جاتا اور ہمارے ہاں محاورہ بھی ہے ”چودہ طبق روشن ہو گئے“ سماجی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی ہم طبقات کی تقسیم کے قائل ہیں۔ مثلاً پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ کاریگروں کا طبقہ جس میں مزدور اور کم درجہ کے دستکار بھی شریک ہیں۔

امیروں کا طبقہ، سیاست پسندوں کا طبقہ۔ ہم نے اہل شعروادب اور اصحابِ فلسفہ و تصوف کو بھی طبقات میں تقسیم کیا ہے اور طبقا الصوفیہ، طبقا الشعراء طبقا الملکہ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ طبقہ اور طبقات ہماری معاشرتی زندگی میں کس طرح داخل رہے ہیں۔ یہ محاورے بھی اسی کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ ”طبقہ الٹ جانا“، ”چودہ طبق روشن ہونا“ وہاں طبق بھی ہے۔ اور سبق بھی طبقہ الٹ جانا یعنی زمین کا الٹ پلٹ ہونا یا طبقاتی تقسیم کا درہم برہم ہو جانا، زمین سے آسمان کا روشن ہو جانا اور مراد ہوتی ہے کہ اور کچھ نظر نہیں آیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔

◇ طبیعت آنا، طبیعت اُلجھنا، طبیعت بگڑنا، طبیعت بھر جانا، طبیعت لگنا

طبیعت عربی لفظ ہے اور اس سے مراد ہے انسان کی اپنی مزاجی کیفیت، دل اور جی توجہ وغیرہ مثلاً طبیعت لگنے کے وہی معنی ہیں جو جی لگنے کے ہیں اور ”طبیعت آنا دل“ آنے یا عشق ہو جانے کو کہتے ہیں۔ ”طبیعت لہرانا“ بھی دل کے خوش ہونے اور والہانہ کیفیت پیدا ہو جانے کے لیے کہا جاتا ہے عالم فطرت کو بھی طبیعت سے نسبت دی جاتی ہے اور طبیعت عالم فطرت کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس پر اگر نظر رکھی جائے تو لفظوں کے ساتھ کیا گیا مفہوم وابستہ ہوتے ہیں۔ اور خود محاورے میں پہنچ کر ان کے معنی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔

اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو لفظ کے لغوی معنی سے لیکر شعری، شعوری ادبی اور محاوراتی معنی تک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔

◇ طرارے بھرنا، طرار آنا

”طرارے“ ہرن کی دوڑ کو کہتے ہیں اور ہرنوں ہی کے سلسلے میں یہ محاورہ آتا بھی ہے اور ہم اسے کہانیوں عام گفتگو یا شعر و شاعری میں سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ذرا سی دیر میں ہرن طرارے بھرنے لگا۔ اس کے مقابلے میں ”طرارا آنا“ غصہ آنے کے معنی میں آتا ہے کہ ذرا سی بات پر اسے تو طرار آ جاتا ہے۔ غصہ آنا تو ایک بات ہے لیکن ”طرارا آنا“ زبان کا حسن ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ محاورہ تشبیہ اور استعارہ زبان میں کیا لطف پیدا کرتے ہیں اور اس کا ہماری سماجیات سے کیا رشتہ ہے۔

◇ طرح دار، طرح ڈالنا، طرح دار ہونا، طرح دینا، طرح نکالنا

”طرح“ کے معنی ہیں طرزِ انداز اور ادا۔ ہماری ادبی اور سماجی زندگی میں طرح داری

کے معنی ہوتے ہیں خاص انداز رکھنا۔ معشوق طرح داری ہمارے ادیبوں کے یہاں اب سے پہلے بہت آتا تھا۔ ”طرح ڈالنا“ کے معنی ہوتے ہیں کسی اندازِ ادا کو اختیار کرنا اور اسے رواج دینا۔ شاعری میں جب کوئی مصرعہ غزل لکھنے کے لیے مشاعروں کے سلسلے میں دیا جاتا ہے تو اسے طرح دینا یا طرح ہونا کہتے ہیں۔ ”طرح دینے“ کے معنی نظر انداز کر دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ طرح نکالنا بھی کسی نئے اسلوب کو رواج دینے کو کہتے ہیں۔

◇ طرفۃ العین میں

طرف العین پلک جھپکنے کو کہتے ہیں۔ یہ عربی لفظ ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی کام آنا فانا میں بھی ہو جاتا ہے یا جی چاہتا ہے کہ یہ کام گھڑی کی سیت (ساعت میں) ہو جائے۔ طرف العین عربی کا لفظ اسی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔

◇ طرفہ معجون

عجیب قسم کی طبیعت یا سوچ کا عجیب و غریب انداز یا پھر ایسی تحریر جس میں فکری اُلجھا ہوں۔ طرفہ معجون یا طرفہ معجون مرکب کہلاتی ہے۔ معجون جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک طبی نسخہ کے مطابق تیار کردہ دوا کو کہتے ہیں، جس میں شہد اور دوسری بعض جڑی بوٹیاں کوٹ کر ڈالی جاتی ہیں جیسے معجون سورجان یا معجون فلاسفہ یہ محاورے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم علم و فن کی کن کن باتوں سے محاورہ پیدا کرنے میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ محاورہ کسی ایک کا نہیں ہوتا سب کا ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے اور سب کی طرف سے ہوتا ہے۔

◇ طشت از بام ہونا، طشت چوکی

ہمارے یہاں محاوروں کی طرف ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو ہماری اپنی بھاشا یا قریبی علاقوں کی بھاشاں سے ہماری زبان میں منتقل ہوئے ہیں۔ کچھ محاورے وہ بھی ہیں جو فارسی سے آئے ہیں یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہم نے ایک خاص دور میں فارسی ادب اور زبان سے گہرے اثرات قبول کیے ہیں۔ ”طشت از بام ہونا“ انھی میں سے ایک محاورہ ہے جو فارسی کے ادبی اور لسانی اثرات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے معنی ہیں راز فاش ہونا اور سب کو خبر ہو جانا ہے، یہ ہماری سماجی نفسیات کا بھی ایک حصہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ خواجواہ ہماری برائیوں کا ذکر اور ان کی شہرت پھیلے، یوں بھی معاشرے کا یہ ایک مزاج ہے کہ نیکیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا اور برائیوں کو بری طرح پھیلاتے ہیں، ان کو طشت از بام کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی نہیں غلط

ہے مگر ہمارا سماجی رویہ نہیں کچھ ایسا ہی ہے۔

عام طور پر ہمارے مہذب گھروں میں ایک چوکی رہتی تھی اور اس پر بیٹھ کر وضو کرنا اور سو کے پانی کو ایک طشت میں جمع کرنے کی گھریلو روش ایک خوبی تصور کی جاتی تھی۔ اسی لیے طشت چوکی بچھے رہنے کا ذکر آتا تھا۔ مگر اسے کوئی محاورہ قرار دینا مشکل ہے اگرچہ مخزن محاورات میں اسے محاورہ قرار دیا گیا ہے۔

﴿ طفلِ مکتب ہونا

طفل بچہ کو کہتے ہیں اور مکتب ابتدائی درجہ کی درس گاہ ہوتی ہے، جہاں قرآن کا کوئی پیارہ یا پھر پورا قرآن پاک بچے پڑھتے ہیں۔ بہر حال یہ بہت ابتدائی تعلیم کی منزل ہوتی ہے۔ مز بھی اس وقت بچپن کی منزل سے گذر رہی ہوتی ہے۔ بڑی عمر کے لڑکے اس میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے جب کسی کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ عقل اور علم کے اعتبار سے بہت ہی ابتدائی سطح کا آدمی ہے تو اسے طفلِ مکتب کہا جاتا ہے اور جس آدمی کو جس عالم یا مولوی کو کچھ نہیں آتا وہ بچے مکتبی کہلاتا ہے۔

﴿ طنطنہ دکھانا

طننا کی کیفیت ہوتی ہے اور اس میں غصہ بہادری اور بڑائی کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے طنطنہ کہتے ہیں اور اس میں کہنے والے کی طرف سے ایک طنز چھپا ہوتا ہے کہ وہ بہت طنطنہ دکھلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے ہمارے سماجی عمل اور رویوں پر ایک تنقید ہوتی ہے اور اس اعتبار سے ایک اہم بات ہے۔

﴿ طور بے طور ہونا

”طور طریقہ“ کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے طور بے طور کہتے ہیں اور اس سے مراد سلیقہ ہوتا ہے، اچھا ڈھنگ ہوتا ہے اب اگر کسی وجہ سے بے ڈھنگا پن پیدا ہو جاتا ہے اور بات بے تکی نظر آتی ہے تو اسے طور بے طور ہونا کہتے ہیں۔ ہم اس محاورے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاشرہ ہمارے سانی رویوں جو معاشرتی رویہ بن جاتے ہیں کس طرح نظر رکھتا ہے اور گفتگو کی جاتی ہے۔

﴿ طوطی بولنا

طوطی ایران کا ایک پرندہ ہے جس کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ طوطے کی طرح کہانیوں کا ایک کردار بن جاتا ہے۔ جب موسم بہار آتا ہے تو ایران کے پرندے اور خاص

طور پر طوطی بہت خوش آوازی سے بولتا ہے اور بہار کے آنے کا اعلان کرتا ہے، وقت آتا ہے اور اس کی شہرت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا طوطی بول رہا ہے، یعنی اس کی زندگی میں بہار آئی ہوئی ہے۔

◇ طوفان اٹھانا، طوفان اٹھنا

غیر صورت حال کا پیدا ہو جانا، جس میں کسی فرد یا کسی جماعت کا عمل شریک ہو اور وہ دانستہ عمل ہو۔ جھوٹ بول کر فریب دیکر سازشیں کر کے جو پریشان کن صورت حال پیدا کی جاتی ہے اس کو ”طوفان کھڑا کرنا“ طوفان اٹھانا کہتے ہیں کہ صاحب اس نے طوفان اٹھا دیا، ہنگامہ برپا کر دیا۔

عام پبلک کے پاس زبان ہوتی ہے ذہن نہیں ہوتا کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے، اسی لیے وہ ہنگامہ بڑھتا جاتا ہے اس اعتبار سے یہ بہت اہم محاورہ ہے اور سماج کی نفسیات اور عمل ورد عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ ”طوفان آنا“ غیر معمولی صورت حال ہے لیکن اس کا رشتہ سماجی عمل سے نہیں ہے۔

◇ طومار باندھنا

کسی بات کو کسی خاص غرض کے تحت آگے بڑھانا اور اس پر زور دیتے رہنا طومار باندھنے کے ذیل میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے تو خواہ مخواہ الزامات یا پھر تعریفوں کا طومار باندھ دیا۔

◇ طویلے کی بلا بندر کے سر پرٹنا

کسی کی ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈال دینا اور یہ کام بد نیتی سے یا ارادے کے طور پر کرنا طویلہ ایک خاص اصطلاحی لفظ ہے اور گھڑ سال کو طویلہ کہتے ہیں، امیروں راجاؤں اور بادشاہوں کے ساتھ گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی، جہاں وہ باندھے اور رکھے جاتے تھے اس کو طویلہ کہتے تھے، ہندوستان میں گھڑ سال کہتے ہیں۔

اس سے متعلق اگر اچھی بری کوئی بات ہوتی تھی اس کا بندر سے کوئی رشتہ نہیں لیکن لوگوں کا رویہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا الزام اس کے سر پر رکھ دیا۔ اسی سے یہ محاورہ بن گیا کہ طویلے کی بلا بندر کے سر پر یعنی ذمہ دار کوئی اور ہے اور کسی دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائی جا رہا ہے۔ جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کو بھی سماجی نفسیات اور طریقہ فکر و عمل کا ایک نمونہ کہنا چاہیے۔

ردیف _____ ظ

◇ ظاہر داری کرنا، ظاہر داری برتنا

کسی عمل میں ظاہری اور اوپری خوبصورتی برتنا جس کا کوئی تعلق دلی خواہش سے نہ ہو۔ اس طرح کا رویہ سماج کے بہت سے لوگوں میں ملتا ہے کہ وہ اوپرے دل سے بہت کچھ کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کا دل و دماغ اپنی نیکی اور نیک خواہشوں کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہوتا اس کو ظاہر داری برتنا کہتے ہیں۔

مولوی نذیر احمد نے اپنے ناول میں ظاہر دار بیگ کا کردار کچھ اسی انداز سے تراشہ ہے کہ وہ بظاہر بہت کچھ ہے اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔

ردیف _____ ع

◇ عاقبت بگاڑنا، عاقبت کا توشہ

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موجودہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جس کو وہ عاقبت کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو یہیں تیاری کرنی چاہیے اور تیاری یہ ہے کہ ہم نیکی کریں، خدا سے ڈریں اور اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اسی کو عاقبت کا توشہ کہا جاتا ہے اور جب انسان کا عمل خراب ہوتا ہے اس کا ایمان ڈانواں ڈول ہوتا ہے یا دوسرے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ اس کے نتیجہ میں وہ خود برا ہو جاتا ہے تو اسے ”عاقبت بگاڑنا“ کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں عاقبت یا آخرت کا تصور بہت اہمیت رکھتا ہے اور وہ اکثر اسی حوالہ سے سوچتے ہیں۔ اب ان کا عمل کس حد تک اس کے حق میں ہوتا ہے یا اس کے خلاف یہ ایک الگ بات ہے۔

◇ عبور دریاے شور کرنا

انگریزوں کے زمانہ میں ایک سزا تھی جس کو ”کالے پانی بھیجنا“ بھی کہتے تھے اور جزائر انڈمان نیکو پار بھیجنے کو ”کالا پانی بھیجنا“ کہتے تھے۔

◇ عقل جانی رہنا، عقل چرنے جانا، عقل چکر میں پڑنا، عقل کا پورا، عقل کا دشمن آدمی سارے کام عقل سے کرتا ہے۔ عقل جتنی کم ہوتی ہے اتنا ہی پریشانی بڑھتی ہے

اور کام خراب ہوتا ہے، دوسروں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ عقل خراب ہو جاتی ہے۔ آدمی غلط سوچنے پر پڑ جاتا ہے یا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ عقل چکر میں پڑ گئی یا عقل کو چکر میں ڈال دیا۔ عقل جاتی رہنے کے معنی بھی یہی ہیں اور جب طنز کے طور پر کسی کی بے عقلی کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تمہاری عقل چرنے لگی ہے یا تمہاری عقل کو گدھے چر گئے ہیں۔ اس سے ہم سماجی عمل اور ردِ عمل کو سمجھ سکتے ہیں اور ان باتوں کو جان سکتے ہیں جو کم عقل لوگوں کو پیش آتی ہیں۔ جن لوگوں کو عقل بالکل نہیں ہوتی ان کے لیے طنز کے طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ تو عقل کے پورے ہیں یعنی ان کو عقل بالکل نہیں اور جو لوگ جان جان کر عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور برے نتیجے بھگتتے ہیں ان کو عقل کا دشمن کہا جاتا ہے۔

◇ عقل کا پتلا

اب اس کے مقابلہ میں جن لوگوں کو عقل زیادہ ہوتی ہے تو ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ تو عقل کا پتلا ہے۔

◇ عقل کا چراغ گل ہو جانا، عقل کے گھوڑے دوڑانا

اب جو لوگ عقل سے بالکل کام نہیں لیتے اور بیوقوفیاں کرتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی عقل کا چراغ گل ہو گیا اور جو شخص عقل کی باتیں سوچتا رہتا ہے وہ گویا عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے۔ ہمارے وسطی زمانہ میں گھوڑے کی بڑی اہمیت تھی۔ اسی لیے گھوڑے پر بہت سے محاورے بھی ہیں۔ اس سے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے محاوروں میں زیادہ تر ان باتوں کا حوالہ آتا ہے اور ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ہماری زندگی میں داخل تھیں، اور ان سے کوئی اچھا برا اثر ہمارے ذہنوں پر پڑتا تھا۔ اس دور زندگی اور اس زمانے کی تصویر کسی نہ کسی حدیث سے ہمارے سامنے آتی تھی۔ ”عقل کی دم بھی نہ ہونا“ اس کی طرف اشارہ کر نیوالا محاورہ ہے کہ عقل بالکل نہیں ہے یا ان کی عقل گدی کے پیچھے ہے جو عقل سے متعلق ایک اور محاورہ ہے اور اس کے نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

◇ علت لگانا، علت لگالینا، علت میں پڑنا

علت محاورہ میں عیب داری کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا سماجی کام یا برائی ہو سکتی ہے جو آدمی کو اپنے پیچ و پیچاک میں الجھا دیتی ہے یہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے تو اپنے ساتھ یہ علت لگا رکھی ہے یا وہ اس علت میں پڑا ہوا ہے یا پھر کون یہ علت اپنے ساتھ لگائے۔ علت کو

مختصر طور پر لت بھی کہتے ہیں مثلاً اسے شراب پینے کی لت لگی ہوئی ہے یا وہ جوئے بازی کی لت میں پڑا ہوا ہے یا اس کو مقدمہ بازی کی لت تھی، یہ علت یا برائی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔

◇ عمر بھر کی روٹیاں سیدھی کر لینا

ہمارے معاشرے میں نکلے اور کم ہمت لوگ بہت ہوتے ہیں اور جسے اخلاقی توازن کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر انفرادی اور اجتماعی رویوں میں مفقود ہے۔ اسی لیے لوگ کوئی ایسا حیلہ ڈھونڈے، ہیں کہ جیسے بھی ہو اچھا برا غلط اور صحیح مگر ان کی گذر ہو جائے۔ اسی کو ”روٹیاں سیدھی کرنا“ تو ایسے لوگوں کے لیے اور بھی بڑی بات ہے اب وہ فریب سے ہو یا بے غیرتی سے جو بھی حربہ کام آئے۔

◇ عمر پٹہ لکھوانا

دستاویز لکھوانے کو کہتے ہیں۔ اب عمر بھر کے لیے تو کوئی دستاویز معقول سطح پر لکھی نہیں جاسکتی اسی لیے جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے طنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ کیا عمر بھر کا پٹہ لکھوا کر لائے ہو جو تمہارا کام برابر ہوتا رہے۔

◇ عمر کا پیانہ بھر جانا یا لبریز ہو جانا

جب آدمی کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو اسے عمر کا پیانہ بھر جانا یا لبریز ہو جانا کہتے ہیں۔ یہ اس وقت کی ایک اہم بات ہے جب وقت کو پیانوں سے ناپا جاتا تھا کہ کٹورے میں ایک باریک سا سوراخ کر دیا جاتا تھا۔ اس سے پانی رس رس کر کٹورے میں بھرتا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ کٹورا یا پیانہ لبریز ہو جاتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا وقت گذر گیا اس سے زندگی کو ایک پیانہ قرار دے کر یہ محاورہ بنایا گیا کہ عمر کا پیانہ لبریز ہو گیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ محاورے کس طرح بنتے ہیں اور ان کے پس منظر میں کیا سچائیاں موجود ہیں اور ان کے معنی اور معنویت کیا ہے۔

◇ عمل بیٹھ جانا یا عمل پڑھنا

ہمارے ہاں معاشرے میں حسن عقیدت کے طور پر یہ بھی خیال پایا جاتا ہے کہ فلاں عمل پڑھنے سے اور ایک خاص وقت پر اس کو بار بار پڑھنے سے وہ کام بن جاتے ہیں، جو بظاہر بہت مشکل ہوتے ہیں یا ہوتے نظر ہی نہیں آتے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بعض عمل پڑھنے میں کیسی غلطی یا خرابی کی وجہ سے الٹ جاتے ہیں اور عمل پڑھنے والا کسی نہ کسی تکلیف یا نقصان کا

شکار ہو جاتا ہے اب تو اس کا رواج کچھ کم ہو گیا پہلے یہ باتیں اکثر سننے میں آتی تھیں اور لوگ عمل پڑھتے نظر آتے تھے۔

◇ عنقا ہو جانا یا ہونا

آدمی شروع ہی سے پرندوں سے دلچسپی لیتا رہا ہے یہاں تک کہ اس نے کہانیاں اور داستانیں گھڑ کر اس طرح کے کردار پرندوں میں بھی پیدا کر دیے جو واقع نہیں ہیں، مگر اپنے طور پر عجیب و غریب کردار ہیں جیسے رخ اور سمرغ پرندے جو بہت بڑے ہیں اور جن کے بارے میں خیال کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پنجوں میں ہاتھیوں کو لے کر اڑ جاتے ہیں۔ ایسے پرندے بھی فرض کیے گئے جو گیت گاتے ہیں اور ان سے گیت ان کے اپنے وجود کو جلا کر بھسم کر دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی راہ سے جنم لیتے ہیں۔

”قفنس“ اسی طرح کا ایک فرضی پرندہ ہے۔ ”ہما“ کے نام سے ایک ایسے فرضی پرندہ کا تصور بھی ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم مصری شہنشاہ (فرعون) اپنے سر پر ایک پرندہ کا نشان بنائے رکھتے ہیں غالباً ”ہما“ اب بھی اور اس کا تصور بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ لڑکوں کا نام ہمایوں اور لڑکیوں کے نام ظل ہمارے جاتے ہیں۔ ”عنقا“ ایک ایسا پرندہ ہے جس کا تصور چین میں خاص طور پر پایا جاتا ہے کہ وہ بھی اور نہیں بھی اسی لیے جو چیز غائب ہو جاتی ہے اس کو محاورے کے طور پر کہتے ہیں وہ تو عنقا ہو رہی ہے یعنی کہیں ملتی ہی نہیں۔

◇ عیب جوئی کرنا، عیب ڈھونڈنا، عیب لگانا

ہمارے معاشرے کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم آدمی کی خوبیاں نہیں دیکھتے اس کی نیکیوں پر نظر نہیں مگرتے بلکہ خواہ مخواہ اس کے کردار میں طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں۔ اور کوشش یہ رہتی ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو عیب تلاش کیے جائیں یا عیب تراشے جائیں، اور جو خرابیاں یا خامیاں کسی میں نہ ہوں وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر نکالی جائیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا وہ غیر انسانی اور غیر تہذیبی رویہ ہے جو بہت عام ہے اور غالب کے اس مصرعہ میں اسی سچائی کی طرف اشارہ ہے۔

ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں

سچ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان اور اپنے ادب کا مطالعہ اس نقطہ سے کیا ہی نہیں کہ ہماری کن کن باتوں کی طرف ہمارے اشعار ہماری کہاوتوں اور ہمارے محاوروں میں موجود ہیں۔

عیش کے بندے، عیشی بندے (عیش اڑانے والے)

ہمارے معاشرے میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ عیش پسند ہو یا نہ ہو، مگر آرام پسند ضرور ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں آرام کرنے یا ہونے پر بہت محاورے موجود ہیں اور اسی طرح عیش کرنے پر بھی کہ وہ تو عیش کر رہے ہیں، عیش اڑا رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو ہر حالت میں مطمئن رہتے ہیں اور خوش نظر آتے ہیں وہ ”عیشی بندے“ کہلاتے ہیں یعنی عیش تو ہر حالت میں عیش کرنا ہے کچھ ہو یا نہ ہو۔

عین غین ہونا، یا عین مین ہونا

یہ دو الگ الگ محاورے ہیں اور ان کے معنی ہیں ادھر ادھر کی بیکار کی باتیں سوچنا اور ذرا سی دیر میں اپنی توجہ بدل دینا۔ غیر سنجیدہ لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ ”عین“ آنکھ کو کہتے ہیں اور غین کے معنی ہیں غائب ہو جانا۔ ذرا سی دیر میں توجہ بدل جانا اور آدمی کا موجود ہوتے ہوئے ذہنی طور پر غائب ہو جانا عین غین ہونا کہلاتا ہے۔ ”عین مین ہونا“ جوں کا توں بالکل وہی اور اسی جیسا ہونا، عین میں ہونا ہے۔ وہ تو عین میں ایسا ہی تھا اور اسی طرح لگ رہا تھا۔ یہ بھی ہی کے معنی بھی یہی ہیں یعنی بالکل اس جیسا سی سے یہ عین مین کا محاورہ بھی بنا ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے عربی الفاظ کو اپنے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اور اپنی زبان میں صرف عربی لفظ داخل نہیں کیے محاورہ بھی تراشے ہیں۔

رویف _____ غ

غارت ہونا، غارت کرنا

ہمارے ہاں وسطی عہد میں راہ زنی اور غارت گری بھی مختلف علاقوں اور گروہوں نے بطور پیشہ اختیار کر لی اسی لیے ہمارے ہاں جرائم پیشہ کا لفظ آتا ہے اور اس سے مراد وہ لوگ وہ ذاتیں اور قبائلی گروہ ہوتے ہیں جو طرح طرح کے جرائم میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے غول کے غول کبھی غارت گری کرتے ہوئے آتے تھے، شہروں اور بستیوں پر ٹوٹ پڑتے تھے یہاں تک کہ رات کو پچاس پچاس کوس تک کسی بستی میں چراغ نہیں جلتا تھا کہ لوٹ مار کرنے والے نہ آجائیں۔ اس محاورے میں اسی صورت حال کی طرف اشارہ ہے۔ یہ لفظ دراصل ”غارت گر“ ہے جیسے مغربی یوپی کے لوگ غارت غور کہتے ہیں۔ ”ز“ کا حرف ”ل“

میں بدل جاتا ہے اس اعتبار سے یہ غارت غول ہو گیا اور محاورہ بن گیا۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بعض محاورے اس وقت کی صورت حال پر روشنی ڈالتے ہیں اور تاریخی سچائیوں کو اپنے اندر سمیٹے رہتے ہیں۔

◇ غازی مرد

غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور ﷺ نے شرکت فرمائی ہوئی تھی، جیسے غزوہ بدر، غزوہ خندق اور غزوہ احد۔ رفتہ رفتہ یہ تصور ایسی جنگوں کا ترجمان بن گیا جو مذہبی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں یا ظاہر کی جاتی ہیں اور ان میں شرکت کرنیوالے غازی کہلاتے ہیں۔ اسی لیے غازی کا لفظ مسلمانوں میں بہت بہادر اور مذہبی جنگ میں حصہ لینے والے کے لیے آتا ہے اور اپنے نام میں بھی احترام کے طور پر اس کو شامل کیا جاتا ہے یا دوسرے شامل کرتے ہیں۔ جیسے غازی مصطفیٰ کمال پاشا یا غازی امام اللہ خان وغیرہ، غازی مرد کہنا محاورہ ہے اور اس کے معنی ہیں بہادر آدمی، مذہب کے لیے لڑنے والا انسان، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلم کلچر رکھنے والا خاص محاورہ ہے۔

◇ غائب غلہ کر دینا، غتر بود کرنا

ہمارے عام محاورات میں سے ہے۔ جب آدمی کسی بات یا کسی سچائی کو چھپانا چاہتا ہے تو اس پر طرح طرح سے پردہ ڈالتا ہے اور ادھر ادھر کے مسائل میں یا باتوں میں اصل بات کو الجھاتا ہے۔ اور اس طرح سچ پر پردے ڈال دیتا ہے تو وہ اسے ”غائب غلہ کر دینا“ کہتے ہیں اور یہ گویا عام آدمی کا طرز عمل ہوتا ہے جو وہ سچائی کو چھپانے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اس میں سب ہی شریک نظر آتے ہیں۔ ”غتر بود کرنا“ بھی ”غائب غلہ“ کر دینے کے معنی ہی میں آتا ہے۔

◇ غپ شپ کرنا

ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو باتیں کرنے اور باتیں بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہم چاہے دوکانوں کے پھٹے پر بیٹھ کر باتیں کریں یا کسی پارک میں یا بیٹھک میں یا چوپال میں۔ جب لوگ بیٹھ کر باتیں کریں گے تو ادھر ادھر کی ضروری اور غیر ضروری باتیں بھی ہوں گی قصے، کہانیاں، لطیفہ، چٹکلے، حکایتیں، روایتیں، شعر و شاعری، اخبار، اشتہار سبھی کچھ تو اس میں آجائے گا اور کام کی باتیں بہت کم ہونگیں اسی کو غپ شپ کرنا کہتے ہیں اور ”غپ شپ لڑانا“ بھی اور

چلی سطح پر اتر کر گپ بازی کرنا یا گپ مارنا بھی۔ گپ کے ساتھ گپ ہانکنا بھی آتا ہے اس سے ہم سماج کی چلی سطح پر بات چیت اور ہنسی مذاق کا جو ڈھنگ ہوتا ہے اُسے بھی سمجھ سکتے ہیں۔

◇ غٹ پٹ ہو جانا

غٹ پٹ دراصل گٹ پٹ ہے جو خود ایک محاورہ ہے اور یہ انگریزوں کی آمد کے زمانے میں رائج ہوا تھا یعنی انگریزی کے بول بولنا اور اسی انداز کو اختیار کرنا ”گٹ پٹ“ کرنا کہلاتا تھا۔ اس کو عوام نے ”غٹ پٹ“ بنا لیا۔ جبکہ ٹ اور غ ایک ساتھ نہیں آتے مگر ہمارے ہاں پانی پینے کے ساتھ غٹ غٹ کرنا آتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے اور اسی امر کی طرف ایک اشارہ ہے کہ تلفظ کس طرح بدلتا ہے اور خاص طور پر ایسے الفاظ میں جو عوام کے درمیان پہنچتے ہیں اور وہ انہیں اپنے انداز سے استعمال کرتے ہیں۔

◇ غدر مچانا

”غدر مچنا“ بھی اسی مفہوم میں شامل ہے۔ ”غدر“ غداری کو کہتے ہیں۔ لیکن اُردو میں اس کا مفہوم کچھ اور بھی ہے اور وہی زیادہ درپیش نظر رہتا ہے یعنی بد نظمی، چھین جھپٹ اور کوئی انتظام نہ رہنا۔ ۱۸۵۷ء میں جو یہاں کچھ ہفتوں کے لیے بد نظمی دیکھنے کو ملی تھی اور تاریخ کا ایک حصہ بن گئی وہ ہماری زبان کے اس محاورے میں بدل گئی۔ اب جب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس گروہ یا اس گروہ نے بد نظمی، بد انتظامی Lawless (لا لیس) کو پیدا کر دیا اس کو یہ کہتے ہیں کہ ”غدر پھیلادیا“، ”غدر مچادیا“ ایسا میں بھی ہوا تھا اور تاریخ میں اس کی بہت مثالیں مل جاتی ہیں۔

محاورے کچھ تاریخی واقعات سے متعلق ہیں، کچھ سماجی رویوں سے، کچھ خاص طرح کے اداروں سے۔ جب محاوروں کی لفظیات اور پس منظر پر غور کیا جاتا ہے تب یہ سچائیاں سامنے آتی ہیں۔

◇ غرض کا باؤلا، (اپنی غرض باؤلی ہوتی ہے)۔

ہمارے ہاں جو بھی سماجی صورت حال رہی ہے وہ ایک کے بعد دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہی اور انسانی بحیثیت ایک فرد اور ایک خاندان کا رکن ہونے کی صورت میں خود غرضی اختیار کرتا رہا۔ پیسے کا معاملہ ہو یا زمین جائداد کا یا حقوق و فرائض کا خود غرض افراد اپنی مقصد براری کے لیے دوسروں پر ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں اور خود ذمہ داریوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے انہیں خود کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح جب کسی سے

غرض وابستہ ہوتی ہے تو صحیح و سفارش سے خوشامد درآمد سے یا پھر زور زبردستی سے اپنا کام نکالنا چاہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باؤلا نہیں ہے بلکہ اپنی غرض کا باؤلا ہے اور جیسے بھی ہو اپنا کام نکالنا چاہتا ہے کہ اس کے افعال اس طرح اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں اور بظاہر سیدھے سادے مگر اپنی غرض کے پیچھے باؤلے بنا رہنا چاہتے ہیں۔ غرض کہ یا ربھی یہی مفہوم رکھتا ہے۔

◇ غرہ بتانا، غرہ کرنا

ویسے تو چاند رات کو غرہ کہتے ہیں۔ لیکن اُردو محاورات میں غرہ بہ معنی غرور و تکبر بھی آتا ہے کہ وہ اپنے خاندان اپنی ملازمت یا اپنی تعلیم و شہرت پر بہت غرور کرتا ہے یا پھر غرہ بتاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ادھر ادھر کے بہانے کرنا۔

چاند ہوتا ہے تو وہ غرہ بتاتا ہے مجھے
یہ مصرعہ اسی محاورے کو پیش کرتا ہے اس سے ہم اپنے معاشرے کے مزاج کو جان سکتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیا رہتا ہے۔

◇ غسل کی حاجت ہونا

یہ ایک خاص طرح کا محاورہ اور اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ مذہبی طور پر بد خواب ہونے یا عورت سے ہم بستر ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا مسئلہ دوسری قوموں میں بھی موجود ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو تو پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر لیا جائے۔

◇ غش ہونا، یا غش کھا کر گر جانا

یہ کمزوری میں ہو سکتا ہے اور کچھ خاص حالات میں بھی جیسے خون کو دیکھ کر طبیعت پر غشی طاری ہونا یا کسی خوفناک منظر سے غیر معمولی تاثر لینا یا پھر کسی کے حسن و جمال پر بے طرح عاشق ہو جانا۔ اور اپنے ہوش و حواس میں نہ رہنا جسے ”غش ہونا“ کہتے ہیں اور کمزوری کے باعث ہوش کھودینا ”غش آجانا“ کہلاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں غشی طاری ہونا۔

◇ غصہ پینا، غصہ تھوک دینا، غصہ دلانا، غصہ آنا

ہماری انسانی عادتوں، فطری کمزوریوں اور سماجی رویوں میں جو بات بطور خاص شامل رہتی ہے وہ بغض و نفرت حقارت بھی ہے اور ان کے پس منظر میں موجود ہے۔ غصہ میں آدمی کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا وہ شدید جذباتی عمل اور رد عمل کا شکار رہتا ہے۔ اس کی نفسیات میں عدم

توازن پیدا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ غصہ میں آدمی خودکشی بھی کر لیتا ہے اور دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔

”جگر چبانا“ اور خون پینے کا عمل بھی غصہ ہی کا اظہار ہے، اسی لیے ہمارے یہاں غصہ کو کم کرنے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے ”ذرا غم کھا“ ٹھنڈا پانی پی ”غصہ تھام“ یہ محاورہ گلزار نسیم میں غصہ تھامنے سے متعلق شعر اس طرح آیا ہے۔

تھمتا نہیں غصہ تھامنے سے

چل دور ہو میرے سامنے سے

اسی میں اس طرح کے محاورے شامل ہیں ”غصہ تھوک دو“ یا ”غصہ پی جا“ اگر دیکھا جائے تو ان محاوروں میں جذبات کے لحاظ سے غصہ کا آنا بھی شامل ہے۔

چرنجی لال نے ”غصہ میں بھوت بن جانا“ محاورہ بھی دیا ہے مگر اس کا استعمال عام نہیں ہے، ہاں سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ شدید غصہ کی حالت میں آدمی آدمی نہیں رہتا بھوت بنا ہوا نظر آتا ہے۔

◇ غضب آنا یا ٹوٹنا، غضب توڑنا، غضب میں پڑنا، غضب ہونا

غضب غیر معمولی غصہ کو بھی کہتے ہیں اور غضب ناک ہونا بولتے ہیں اور جب کوئی بے حد پریشان کن اور تباہ کرنے والی صورت پیش آتی ہے تو اس کو قہر نازل ہونا یا غضب آنا کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ دلی میں نادر شاہ درانی کیا آیا یہ کہیے کہ غضب آ گیا، ویسے بھی غضب کا استعمال اردو زبان میں غیر معمولی صورت حال کے لیے بہت ہوتا ہے کیا غضب کا گانا تھا کیا غضب کی آواز پائی ہے یا کیا غضب کا حافظہ ہے۔

غضب توڑنا یا غضب ٹوٹنا یا غضب ڈھانا یہ بہت عام ہیں۔ اقبال نے اپنے شعر میں غضب کیا محاورہ استعمال کیا ہے۔

تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا

میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں

◇ غلام کرنا یا غلام بنانا

غلام کا لفظ انسان یا گروہ انسانی کے لیے توہین آمیز ہے اور دوسری قوموں کی ماتحتی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انسانوں کو غلام بنا کر خرید و فروخت کرنے کا رواج بھی رہا ہے

اور صدیوں تک رہا ہے۔ ”زر خرید غلام ہونا“ بھی اسی کی طرف ایک اشارہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی غلام بنائے گئے اور مصر کے بازار میں بیچے گئے تھے۔ غلام بنا کر رکھنا کسی شخص کو نوکروں سے بدتر درجہ دینا ہے اور یہ کہنا وہ تو ان کی مرضی کا غلام ہے اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کی کوئی خواہش یا خوشی نہیں ہے۔

جس طرح مختلف اشیا اور بھیڑ بکریوں، ہاتھی گھوڑوں کے بازار لگتے تھے اسی طرح عورتوں مردوں اور بچوں کے لیے بھی بازار لگتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں وہ وقت بھی آیا جب غلاموں نے بادشاہت کی۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے۔

جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی
جو اہر لال نے ایک موقع پر لکھا ہے

"There is none to defend slavery now a days But
greate plato held that it was necessary."

اس کا ترجمہ یہ ہے آج کوئی غلامی کی حمایت نہیں کرتا لیکن عظیم افلاطون یہ سمجھتا تھا کہ یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں غلام، غلامی اور اسی کے ساتھ کنیزوں باندیوں کے متعلق بہت محاورے موجود ہیں۔ By Tese cover of India۔

غلام خریدے بھی جاتے تھے اور تحفہ کے طور پر پیش کیے جاتے تھے۔ کنیزوں اور باندیوں کے ساتھ ساتھ بھی یہی صورت تھی۔ رومی تہذیب میں تو غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا ان کی بوٹیاں چیل کوڑوں کو کھلائی جاتی تھیں۔ انھیں وحشی جانوروں سے لڑایا جاتا تھا۔ سولی جیسی سخت سزا بھی رومیوں ہی کی ایجاد ہے۔ اپنے غلاموں کے ساتھ ان کی بدسلوکی اور ظالمانہ رویہ تاریخ کی المناک کہانیوں میں سے ہے۔

◊ غلام مال

جو چیز بہت سستی مگر مضبوط اور پائیدار ہوتی تھی وہ ”غلام مال“ کہلاتی تھی۔ امیروں کے محل میں کچھ خاص راستہ ”غلام گردش“ کہلاتے تھے۔ اب بھی کہتے ہیں ماضی کی غلام گردشوں سے گذرتے ہوئے یعنی ان حالات کا مطالعہ کرنے کے دوران جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں اور غلاموں نیز باندیوں سے متعلق ہیں۔

◊ غلامی کا خط لکھنا (خطِ غلامی لکھ دینا)

اس وقت کہتے ہیں جب آدمی کوئی شرط ہار جاتا ہے کہ خط کے معنی ہیں یہاں تحریر یا دستاویز کہ اگر میں شرط ہار گیا یا میری بات غلط ثابت ہوئی تو میں خطِ غلامی لکھ دوں گا یا آپ کا غلام ہو جاں گا۔ ہمارے معاشرے میں تو بات یہاں تک آتی تھی کہ دیکھو اگر تم شرط ہار گئے یا تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا تو تم کان ناک دیکر آگے یا تمہارے کان کاٹے جائیں گے یا ناک یعنی تم بے عزت ہو جاگے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بات کی سچ کیسے نبھائی جاتی تھی یا اس پر زور دیا جاتا تھا۔ قبائل معاشرے میں یہ باتیں زیادہ دور دراز انداز میں یا دعوؤں کے ساتھ کی جاتی تھی اور اس طرح ہمارے یہ محاورے ایک خاص دور کے ذہن و کردار کو پیش کرتے ہیں۔

◊ غلامی میں دیتا ہوں، یا غلامی میں دینا

ہمارے ہاں گفتگو کے جو آداب ہیں اور سوچنے کا جو ڈھنگ ہے اس کے مطابق انکساری برتنا آدابِ گفتگو کا حصہ ہے۔ جب کسی لڑکے کا رشتہ بھیجا جاتا ہے تو لڑکی والوں کے احترام کے خیال سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کی غلامی دینا چاہتا ہوں یعنی یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رشتہ داری کو قبول کر لیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ جس کو کنیر یا باندی بنا کر دیا جاتا ہے سسرال میں مشکل ہی سے کوئی اچھا سلوک ہوتا ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہنے اور کرنے میں بہت فرق رہتا ہے اسی لیے ہم دوسروں پر اعتبار نہیں کرتے اور ”بات کو پلٹنا“ بھی ہم سماجی طور پر کوئی عیب خیال نہیں کرتے۔

◊ غمِ غلط کرنا

آدمی جب غموں سے گذرتا ہے تو ایک سے زیادہ تعیناتی اور سماجی تجربوں سے بھی گزرتا ہے۔ جس میں اس کے حالات و خیالات شامل رہتے ہیں مثلاً کوئی اسے خواری کرنے والا مل جائے اور اس کے غموں میں شریک ہو جائے۔ یہ بھی ہوتا ہے اور یہ آدمی کے اپنے حوصلہ اپنی ہمت عقل و شعور یا کسی خیال عقیدہ کے مطابق ہوتا ہے کہ وہ غموں پر صبر کرے جسے ”غم کھانا“ کہتے ہیں۔ جب دوسرے یہ کہتے ہیں یہ صبر کرے اور ہمت سے کام لے۔

اس کے مقابلہ میں جب آدمی اپنے غم کے احساس کو کم کرنے کے لیے سیر و تفریح

کرتا ہے یا آج کل کے حالات میں زیادہ ٹی وی دیکھتا ہے یا کچھ لوگ پڑھنے لکھنے سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو اسے ”غم غلط کرنا“ کہتے ہیں یعنی وہ اس طرح اپنے غم کے احساس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سماج کا ایک اچھا رویہ ہوتا ہے بشرطیکہ آدمی کوئی دوسرا غم نہ خرید لے اور کسی نئی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے مثلاً لوگ جوئے شراب تماش بینی اور یار باشی کے عادی ہو جاتے ہیں۔

◇ غوزیں لڑانا

ہمارے ہاں بہت سے محاورے باتیں کرنے کے ڈھنگ اور رویوں سے متعلق ہیں۔ باتیں سب کرتے ہیں لیکن باتیں کرنا سب کو نہیں آتا۔ اس میں موقع و محل کی مناسبت دیکھنا بھی شامل ہے۔ جو عام طور پر لوگ نہیں دیکھتے خواہ مخواہ کی باتیں کرنا اپنوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانا یا اپنی بہادری اور بڑائی کے طرح طرح سے موقع بہ موقع پہلو نکالنا، یہ سب ہماری سماجی عادتوں میں شامل ہے۔ ایسی باتوں کو ”ڈینگ مارنا“ بھی کہتے ہیں اور ”ڈینگ ہانکنا“ بھی، اس کے لیے چرنجی لال نے ایک محاورہ غوزیں مارنا بھی شامل کیا ہے جو اجنبی محاورہ ہے ممکن ہے یہ ”غزوہ مارنا“ سے نکلا ہو اور اس کا مطلب ہو بہت سی لڑائیوں معرکوں میں حصہ لینے اور کامیاب ہونے کا ذکر کرنا ہے۔

اس سے سماج کے اس رویہ کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس حد تک اُٹ پٹانگ باتیں کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور گپ شپ ہانکنے میں اس حد تک یقین ہوتا ہے کہ اس کی برائی پر کبھی اس کی توجہ نہیں جاتی۔

◇ غیرت سے مرجانا، یا غیرت کھا کے ڈوب مرنا

”غیرت“ شرافت پر مبنی ہے جس کے تحت آدمی نقصان اٹھالیتا ہے، تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے۔ اور کبھی شکایت بھی نہیں کرتا اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو حیا و شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے، بلکہ ایک طرح سے ڈوب مرتا ہے کہ پھر کسی کو منہ نہیں دکھلا سکتا۔ ہمارے ہاں لوگ طعنہ بھی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر غیرت ہو تو ڈوب مر یا کوئی غیرت مند ہوتا تو ڈوب مرتا۔

اس سے ہم سماج میں کن باتوں کو اہمیت دی جاتی رہی ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آدمی کوئی بات اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا ہو یا نہ رکھتا ہو اس پر زور ضرور دیتا ہے۔

◇ غیر حالت ہو جانا، یا (حالت غیر ہو جانا)

اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حالت بہت خراب ہوگئی اور اس سے مزید ہمارے اور معاشرے کی اس نفسیات کا علم ہوتا ہے کہ وہ غیر کو کس برے اور کتنے بڑے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ اگر کسی مرضی کسی تکلیف کسی پریشانی کی وجہ سے حالت خراب ہوتی ہے تو اسے خراب کہنے کے بجائے ”غیر ہونا“ کہتے ہیں۔

ردیف ___ ف

◇ فاتحہ پڑھنا

جب کسی مرے ہوئے شخص کو یاد کیا جاتا ہے تو دعا کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ الحمد جو سورہ فاتحہ کہلاتی ہے اور چاروں قل پڑھ کر مرنیوالے کی روح کو ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں فاتحہ دینے کا بھی رواج ہے اور ایسے موقع پر بعض عزیزوں کو بلایا بھی جاتا ہے اور فاتحہ کا کھانا پکتا ہے، غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن سماج میں اس کا ایک دوسرا تصور بھی ابھر آیا اور وہ ہے اظہارِ بے تعلقی کرنا اور ایک طرح سے لعنت بھیجنا کہ اس پر فاتحہ پڑھ لو، یعنی اس ذکر کو ختم کر لو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مقدس معنی کس طرح سماجی رویہ کے ساتھ غیر متبرک معنی میں بدل جاتے ہیں صلوٰۃ بھی اسی کی ایک مثال ہے کہ اس کے معنی درود و سلام کے ہیں لیکن ہمارے اپنے محاورے میں لعنت و ملامت کے ہو گئے ہیں۔

◇ فاختہ اُڑانا

فاختہ ایک پرندہ ہے جو آبادیوں میں رہتا ہے، لیکن پالا نہیں جاتا۔ آدمی اس سے بہت کم مانوس ہوتا ہے ہمارے ہاں کبوتر پالے بھی جاتے ہیں اور اُڑائے بھی جاتے ہیں شہروں، قصبوں میں کبوتر اُڑانے کا رواج عام ہے۔ فاختہ کوئی نہیں اُڑاتا مگر خلیل خاں ایک فرضی کردار ہے جو حماقت کی باتیں کرتے ہیں اور حماقت کی باتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ فاختہ اُڑاتے ہیں۔ اس طرح سے ”فاختہ اُڑانا“ بے وقوفی کا عمل ہے اور محاورے میں اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے محاورے خاص خاص کرداروں کے نمائندہ ہوتے ہیں۔

◇ فارسی کی ٹانگ توڑنا

زبان کے معاملہ میں شہری آبادی کا ایک خاص رویہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محاورے

اور روزمرہ پر زور دیتے ہیں اور دوسروں کی بولی کو ٹکسال باہر قرار دیتے ہیں۔ میر تقی میر نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میر کے کلام کے لیے جامع مسجد کی سیڑھیاں ہیں یا محاورہ اہلِ دہلی ہے۔

انشا اللہ خاں نے دہلی کے کچھ خاص محلے کی زبان کو مستند قرار دیا ہے۔ اس سے زبان کے معاملہ میں اہلِ دہلی کی رائے اور ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ فارسی والے بھی ایسا ہی سوچتے تھے اور خاص طور پر ہم اُردو والوں میں غالب کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے فارسی والوں کو برا سمجھتے ہیں اور اہلِ زبان کے مقابلے میں بہت کم تر درجہ دیتے ہیں۔ یہی وہ ماحول ہے جب عام فارسی جاننے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فارسی کی ٹانگ توڑتے ہیں۔

◇ فارغِ خطی لکھوانا

اس کو عام لوگ اپنے لب و لہجہ میں ”فارغِ خطی“ بھی کہتے ہیں اور یہ ایسی دستاویزی تحریر کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ کسی کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وہ چاہے قرض کی ادائیگی سے متعلق ہو یا نکاح و شادی بیاہ کے بارے میں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذمہ داری اب کوئی نہیں رہی ہے اسی کو ”فارغِ خطی لکھنا“ کہتے ہیں۔

◇ فاقہ مستی ہونا

ہندوستان میں غربت و افلاس بہت ہے۔ مغلوں کے آخری دور میں یہ صورتِ حال اور بھی زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن رہی ہے۔ اکثر خاندانوں میں فاقے ہوتے تھے اور لوگ انھی کے عادی ہو جاتے تھے اور اسی حالت کو ”فاقہ مستی“ کہا جاتا ہے۔ ایک سطح پر عیشِ امروز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

◇ فردِ باطل ہونا، یا فردِ باطل قرار دیا جاتا

”فرد“ دستاویزی تحریر کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں صلح نامہ کی شرطیں بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی ضروری حساب کتاب بھی، اب یہ ظاہر ہے کہ معاشرے میں جو بددیانتی موجود ہے اس کے باعث یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جعلی دستاویز تیار کر لی جائے یا کسی صحیح تحریر کو فردِ باطل قرار دیا جائے یعنی جھوٹی دستاویز۔

◇ فرزندِ ناخلف

ہمارے خاندانوں میں ماں باپ یا باپ دادا کی وراثت کے حق دار بیٹے ہوتے ہیں، لڑکیاں اپنا حصہ لے سکتی ہیں لیکن ایسا بھی دشوار ہو رہا ہے کہ وہ معاف کر دیتی ہیں۔ شادی بیاہ یا

دوسرے خوشی کے موقعوں اپنا حق یا ننگ وصول کرتی ہیں، جب کہ اصولی طور پر یہ حق اپنی جگہ پر قائم ہونا اور ننگ کی حیثیت اخلاقی اور رسماً ہوتی ہے شرعی نہیں۔

◇ فرشتے خاں

سماج کا ایک خاص کردار کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ بڑی چیز رکھتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ واسطے میں لوگ اپنے کئی رشتے دار عزیز یا پڑوسی کو اس طرح کا کردار ثابت کرانا چاہتے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو بہت فرشتہ خواں سمجھتا ہے۔ یہ کردار یا اس طرح کے مصنوعی کردار کے ایک خاص سطح پر نفسیاتی رویہ کی نشاندہی کرتی ہے۔

◇ فرشتے دکھائی دینا

ویسے تو فرشتہ استعارے کے طور پر ایک نیک اور بھلے آدمی کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے سادہ پن کی وجہ سے کسی بڑے آدمی کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہو، تو طنز کے طور پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ کو تو سب ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔

ہمارے ہاں اس طرح کے خیالات بھی رائج رہے ہیں کہ موت سے پہلے فرشتے دکھائی دیتے ہیں یا قربانی کے جانور کو فرشتے چھریاں دکھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے خیالات اور تو اہمات ہماری سماجی زندگی میں موقع بہ موقع کارفرما نظر آتے ہیں۔

◇ فرشتے کے پر جلنا

فرشتہ ایک غیبی مخلوق ہے۔ ہم بہت سی ایسی مخلوقات کے قائل ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ وہ غیبی قوتوں کی علامتیں ہیں، جن کو ہم نے ایک وجود کے ساتھ مانا ہے۔ ان میں دیوی دیوتا بھی ہیں اور فرشتے بھی۔ مسلمان، یہود اور عیسائی تو میں چار ایسے فرشتوں کی قائل ہیں جو خدا کے بہت مقرب فرشتے ہیں، ان میں جبریل علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام خدا کا پیغام لے کر انبیا اور رسول ﷺ کے پاس آتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام رزق پہنچانے والا فرشتہ ہے عزرائیل موت کا فرشتہ ہے اور اسرافیل قیامت کا۔ ہم فرشتوں کا بہت احترام کرتے ہیں اور حضرت کہہ ان کو یاد کرتے ہیں۔

عرب جو فرشتوں کا تصور رکھتے ہیں اس میں پر بھی لگے ہوتے ہیں، یعنی وہ پرندوں کی طرح پروں کے ساتھ اڑ سکتے ہیں، یہاں سے وہاں جاسکتے ہیں۔ اسی لیے فرشتے ان کے نزدیک بازوؤں والے ہیں۔

ہندوستان میں دیوی دیوتاؤں کے پر نہیں ہیں۔ اسی لیے فرشتوں کے پر گنا شاید یہاں کا محاورہ بھی نہیں۔ بعد اس کے یہ کہ فلاں آدمی تو اتنا عقلمند اور غیر معمولی طور پر لائق ہے کہ جو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے یہ ان کے پر گن لیتا ہے۔ یہ نظرداری اور خبرداری کی بہت ہی غیر معمولی صورت ہے مگر اس میں اظہار طنز کے طور پر کیا جاتا ہے۔

فرشتے کے پر کا تصور کرتے ہوئے ایک دو محاورے اور بھی ہیں مثلاً وہاں فرشتہ پر نہیں مار سکتا یعنی اتنی پردہ داری یا پابندی اور پہرہ داری ہے کہ فرشتہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اسی سے ملتا جلتا یہ محاورہ بھی ہے کہ وہاں جانے میں تو فرشتوں کے پر جلتے ہیں اور غالباً اس محاورہ کی بنیاد یہ خیال ہے جو فارسی کے ایک شعر میں آیا ہے کہ معراج کی شب میں جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم ﷺ کے ساتھ تھے اور سردرا لمنتہی تک ساتھ رہے، لیکن یہاں پہنچ کر انھوں نے اپنا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ اس سے آگے جانا ان کے لیے سوء ادب تھا۔

اگر یکسرے موئے برتر پر

فروغ تجلی بسوزد پر

اگر میں ایک سر مو بھی اور آگے بڑھوں تو تجلیات کا فروغ میرے پر کو جلا دے گا۔ یہاں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ بعض محاورے اپنی بنیادی فکر کے اعتبار سے ہندوستان سے باہر کی تہذیبی فضا اور عقائد و اعمال سے نسبت رکھتے ہیں کہ جس طرح اُردو زبان میں الفاظ اور تصورات میں بین ایشیائی عناصر کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح ان کا عکس محاورات میں بھی آتا ہے۔

نیز یہ کہ محاورہ تجربہ سے بھی پیدا ہوتا ہے ہمارے سماجی شعور سے اور تہذیبی روایتوں سے بھی اور جس طرح شعر، لطیفے اور فنون لطیفہ کے مختلف نمونے ہیں جو ہمیں تاریخ کے مختلف مرحلوں سلسلوں اور جہتوں سے واقف کرتے ہیں۔

◇ فرش سے عرش تک

یہ فارسی ترکیب ہے اور ایک طرح کے محاوراتی معنی رکھتی ہے۔ فرش زمین اور عرش آسمان درمیان میں وہ تمام مادی دنیا یا مختلف عناصر سے متعلق وہ ماحول جو خلا میں موجود ہے۔ ایسی صورت میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فرش سے عرش تک کہ تمام اسرار منکشف ہو گئے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اُنق سے تا بہ اُنق جو کچھ ہے وہ ایک بھیدوں بھری دنیا ہے۔

اور وہ سب بھید منکشف ہو گئے ہیں۔ اکثر صوفیہ کے ذکر میں اس صورت حال کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ کوئی محاورہ نہیں ہے بیان کا ایک خاص شاعرانہ اسلوب اور صوفیانہ طرزِ ادا ہے۔

◇ فرشی حقہ

یہ بھی محاورہ نہیں ہے بلکہ ایک اصطلاح ہے۔ ایسے حقے کو فرشی حقہ کہتے ہیں جس کا وہ حصہ جس میں پانی بھر رہتا ہے فرش پر ٹکا رہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں پیچواں ایک دوسری طرح کا حقہ ہوتا ہے جس کی نالی بہت لمبی ہوتی ہے اور بیچ دربیچ رہتی ہے۔ اس کو فرش سے اٹھا کر محفل میں ادھر ادھر گھمایا بھی جاسکتا ہے۔ یہی صورت فرشی سلام کی بھی ہے کہ بہت جھک کر یا زمین کو چھو کر جو سلام پیش کیا جاتا ہے اُسے فرشی سلام کہتے ہیں۔ یہ بھی محاورے کے بجائے ایک اصطلاح ہے۔ معاشرتی اور تہذیبی اصطلاح ہے۔

◇ فرعون بے سامان

مسلمانوں میں بعض ایسے کرداروں کا بھی روایتی طور پر بطور محاورہ یا کسی شعر میں بطور تلمیح استعمال ہوتا رہتا ہے، ان میں سے افلاطون ایک کردار ہے جو اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسفی طبیب اور ماہرِ اخلاقیات تھا۔ یہ ارسطو کا اُستاد بھی تھا۔ اسی لیے علمی کتابوں میں اس کا ذکر بطور فلسفی اور حکیم آتا ہے ایک اُردو محاورے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا افلاطون بنا ہوا ہے یعنی اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا کسی کی بات نہیں مانتا، یہی صورت فرعون کے ساتھ ہے۔

وہ مصر کا بادشاہ تھا اور مصر کے بادشاہوں کو ان کے لقب کے طور پر فرعون کہا جاتا تھا۔ ہم فرعون کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کے حوالے سے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ساز و سامان بہت تھا۔ لاؤ لشکر بہت تھا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے رویہ میں فرعونیت رکھتے ہیں۔ بہت سفاک، بے باک اور بے رحم ہوتے ہیں یا خود پسند ہوتے ہیں وہ ”فرعون بے سامان“ کہلاتے ہیں یہ گویا تاریخی اور روایتی تصورات کے ساتھ اپنے سماجی کردار کو سمجھنے کی کوشش ہے اور اس پر کمیٹ ہے۔

◇ فرنٹ ہو جانا

”فرنٹ“ انگریزی لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں سامنے ہونا، اسی لیے جب فوج اپنے مقابل سے لڑتی ہے تو اسے فرنٹ پر دشمن کا مقابلہ کرنا کہا جاتا ہے۔

اُردو میں محاورہ کے طور پر یہ لفظ آیا تو اس کے معنی دوسرے ہو گئے یعنی وہ مخالف ہو گیا اور ہمارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ویسے فرنٹ کا لفظ قصباتی یا دیہاتی زبان میں نہیں آتا، لیکن محاورہ میں شامل ہو کر یہ بہت سے ایسے گھروں میں پہنچ گیا جو انگریزی سے بالکل ہی ناواقف ہیں اس سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ لفظوں کو اپنانے پھیلانے اور محفوظ کرنے میں محاورہ ایک خاص کردار ادا کرتا ہے۔

◇ فراٹے بھرنا

دوڑنے کا وہ خاص انداز ہے جو ہرنوں کے دوڑنے سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے جب کوئی جانور بہت تیز دوڑتا ہے تو اسے ”فراٹے بھرنا“ کہتے ہیں۔ اب دوڑنا ایک محاوراتی لفظ خود بھی ہے۔ آدمی ایک معاملہ میں تیز دوڑتا ہے یعنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذہن تو ہرنوں کی طرح فراٹے بھرنے لگا۔ یہاں پھر ذہن اس طرح منتقل ہوتا ہے کہ انسان اپنے مشاہدے کو زندگی میں تجربے اور تجزیے سے گزارتا تھا تو اسے کبھی شعر میں لاتا تھا، کبھی کہانی میں، کبھی لطیفے کے طور پر اور کبھی اسے محاورے میں لاتا تھا اور یہاں پہنچ کر اس کا مشاہدہ ایک ذہنی رویہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور سماجی حیثیت میں بدل دیتا ہے۔

◇ فساد کی جڑ

فساد کے معنی اُردو میں دنگا کرنا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دنگا فساد کرنا، فتنہ پھیلانا خواہ مخواہ جھگڑوں کا سلسلہ شروع کرنا۔ یہ گھریلوں سطح پر ہو، کنبے قبیلے کی سطح پر ہو یا پھر عالمی سطح پر قرآن میں فتنہ پھیلانے یا فساد کے اسباب پیدا کرنے کو قتل سے زیادہ شدید بات بتلایا ہے۔ عام طور پر سماج میں بد نظمی کھینچا تانی، باہمی کشمکش یا ہنگامے پیدا کرنے کو فساد برپا کرنا کہا جاتا ہے اور جو بات جو لوگ اس کا سبب ہوتے ہیں انھیں یا اس بات کو سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے ہم معاشرے کے مزاج اس کے عمل اور رد عمل یا پھر اصل سبب یا بنیاد کو دریافت کرنے کی کوشش یا صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے۔

◇ فقرہ بازی کرنا، فقرہ کہنا

بعض لوگ محفل نشینی کے باعث یونہی بے بنیاد، بے تکی، غیر سنجیدہ، موقع بے موقع فقرے کہنے کی عادت ڈال لیتے ہیں، اسے ”فقرہ اڑانا“ بھی کہتے ہیں، ”فقرے اچھالنا“ بھی اور بعض موقعوں پر اس کی صورت فقرہ تراشی کی بھی ہو جاتی ہے۔ فقرہ لگانا بھی ایسے ہی موقعوں

پر بولا جاتا ہے۔ موقع محل کے لحاظ سے تھوڑا فرق بھی ہو سکتا ہے لیکن سماجی رویہ کے لحاظ سے اس کے مزاج و معیار اور مقصدیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

◇ فقیر کر دینا، فقیری لٹکا، فقیری نسخہ

فقیر کے معنی بہت غریب اور بھوکے ننگے آدمی کے بھی ہیں اور ایسے شخص کے بھی جس نے درویشی اختیار کر لی۔ مگر زیادہ تر محاوروں میں فقیر کر دینا، فقیر ہو جانا بے سہار اور پیسے ننگے کے لحاظ سے بالکل خالی ہاتھ ہو جانا ہے۔

بھوکے ننگے فقیر ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اب کسی شہزادے یا شہزادی یا بڑے آدمی کا اپنے آپ کو فقیر لکھنا، عاجزی و انکساری ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس محاورے کے دو رخ جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سماج زبان کا استعمال کن کن معنی اور پہلوں سے کرتا ہے۔ اور کس طرح سوچ کی سطح بدل جاتی ہے۔

فقیر کا لٹکا ایسے کسی شوق کو کہتے ہیں جو عام طور پر ان فقیروں میں آ جاتا ہے جو دھونی رامائے پیتے ہیں اور اس طرح نشہ کرتے ہیں۔

◇ فلک سیر ہونا، فلک بوس ہونا

آسمان پر چڑھنا، آسمان کی سیر کرنا، آسمانوں کو چھونا، آسمان پر ہونا، دراصل یہی سب محاورے ”فلک“ سے متعلق بھی ہیں، مثلاً فلک بود میں پہاڑ یا عمارتیں۔ فلک ایک کردار کے طور پر بھی اُردو شاعری میں آتا ہے۔ آسمان کو برا کہا جاتا ہے، دشمن قرار دیا جاتا ہے اسی طرح فلک کو بھی انسان کی عافیت کا دشمن کہا جاتا ہے۔

◇ فنا فی اللہ ہونا

صوفیوں کی اصطلاح ہے۔ اُردو میں بھی قریب قریب اسی معنی میں رائج ہے۔ فنا فی اللہ یعنی اللہ کی مرضی، اس کی خواہش اور اس کی محبت میں خودی کے تصور سے گزر جانا اور اس مادی دنیا اور اس کے علائق سے انکار کر دینا اور یہ کہنا کہ اللہ کے سوا یہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے اور جب اس صورت حال کو پہنچ کر اس میں گم ہو کر، آدمی حقیقت وجود کو تسلیم کرتا ہے تو وہ گویا اب بقایا اللہ کو جان رہا ہے، یعنی اب میں اللہ کے تصور اور اس کی حقیقتِ عالی کے افراد کے ساتھ جی رہا ہوں میرا اپنا کوئی وجود نہیں۔ یہ محاورہ ایک طرح سے خانقاہی ماحول اور اہل خانقاہ کے فلسفیانہ روحانی تصورات کی ترجمانی ہے۔

◇ فوجداری

قانون کی ایک اصطلاح ہے، مقصد فوج رکھنا نہیں ہے جو اس کے لفظی معنی ہیں۔ بلکہ قانون کی نگاہ میں جرم کرنا اور مجرمانہ کارروائیوں میں حصہ لینا ہے، مثلاً مار پیٹ، قتل و غارت، چوری ڈکیتی وغیرہ اس کو انگریزی میں "Criminal" کیس کہتے ہیں کہ فوجداری کیس بن گیا یا فوجداری کے سپرد کر دیا یا فوجداری میں چلا گیا۔ اس کے مقابلہ میں جو کیس ہوتے ہیں اور مالیات سے متعلق ہوتے ہیں، وہ دیوانی کے کیس کہلاتے ہیں اور کیس کی نوعیت کے پیش نظر اسے دیوانی یا فوجداری میں منتقل کیا جاتا ہے۔

◇ فی نکالنا

یہ عجیب و غریب محاورہ ہے۔ ”فی“ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں میں۔ فنا فی اللہ میں ”فی“ اسی معنی میں ہے، لیکن محاورے میں ”فی نکالنا“ اعتراض کرنے کو کہتے ہیں یا اختلاف رائے کی سی صورت کو پیدا کرنے کے معنی میں یہ محاورہ آتا ہے جیسے وہ تو ہر بات میں فی نکالتے ہیں۔

اس لفظ کی عربی اصلیت اور اُردو میں اس کے مرادی یا محاوراتی معنی پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ لفظ کے ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہونے تک اس کی ظاہر ہیئت اور معنوی توسیعات میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔

◇ فِٹ (Fit) ہونا

انگریزی کا لفظ ہے لیکن اُردو میں ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فِٹ ہونا اور فِٹ کرنا اور فِٹ نظر آنا اس کی بہت نمایاں مثالیں ہیں۔

ر د ی ف ق

◇ قابو چڑھنا، قابو میں آنا، قابو میں کرنا

یہ سب محاورات قریب قریب ایک ہی معنی میں آتے ہیں اور فارسی سے ماخوذ ہیں۔ فارسی میں قابو یافتن یا قابو حاصل کردن یا شدن کہتے ہیں اور مطلب ہوتا ہے تسلط پانا۔ یہ اچھے خاصے وسیع دائرہ میں اور وسیع تر مفہوم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔

بڑی مشکل سے حالات پر قابو پایا۔ سو تدبیریں کیں، تب وہ قابو چڑھا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے مقابلہ کا محاورہ ”قabo ہونا“ ہے، چاہے غصہ کے باعث ہو، چاہے غم کے، چاہے کمزوری

کے، دل کے ساتھ بھی ”بے قابو“ کا لفظ آتا ہے جیسے میرا دل بے قابو ہو گیا۔ یہ محاورے سماجی رشتوں اور جذباتی اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ کہ آدمی اپنے جذبے اپنے احساس اور ذہنی عمل رد عمل کو کس طرح پیش کرتا ہے۔

◇ قارورہ ملنا، یا قارورہ دیکھنا

یہ محاورہ ایک طبی اصطلاح بھی ہے یعنی بیماری کے عالم میں بیمار کے اپنے پیشاب یا قارورے کو اس اعتبار سے دیکھنا کہ اس کا معائنہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ بیماری کیا ہے، کتنی ہے۔ اب یہ باتیں مشین کے ذریعہ ہوتی ہیں، پہلے طبیب کی نظر ہی کام کر جاتی تھی۔ وہاں سے آگے بڑھ کر یہ محاورہ میں آئی تو یہ محاورہ بنا کہ ان کا ”قارورہ نہیں ملتا“ یعنی مزاج نہیں ملتا، طبیعتیں نہیں ملتیں۔ اس سے ایک بار پھر یہ بات ذہن کی سطح پر ابھرتی ہے کہ ایک فن کے محاورے لفظیات زبان کے مختلف استعمال اور موقع محل کے لحاظ سے کس حد تک بدلتی ہے۔

◇ قاضی، قاضی الحاجات قاضی قدوہ، قاضی گلہ نہ کر سکا

قاضی ایک ایسے آفیسر کو کہتے ہیں، جو نکاح خوانی کا رجسٹر رکھتا ہے اور نکاح پڑھاتا ہے اور اس کا ریکارڈ اس کے پاس رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے دور حکومت میں قاضی کو کچھ خاص طرح کے قانونی اختیارات بھی حاصل تھے اور کچھ مقدمات کا فیصلہ بھی اس کے اختیارات کی حدود میں ہوتا تھا۔ ایک بڑا قاضی ہوتا تھا جو قاضی القضاة کہلاتا تھا۔ محاورے قاضیوں سے متعلق عجیب و غریب ہیں مثلاً قاضی قدوہ ہونا، جو نیپور کا قاضی ہونا، یہ روایتاً مشہور ہو گئے اور اب نمونے کے طور پر کہا جاتا ہے اور اس میں طنز شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے خاندان اور بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔

یہی معاملہ ”جو نیپور کے قاضی“ کا ہے کہ وہ اپنی مکاری میں مشہور ہو گیا۔ اسی طرح یہ کہاوت کہ جب ”میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی“، اسی طرح قاضی تو کوئی گلہ نہیں کرتا وہ تو نکاح پڑھا دیتا ہے، باقی معاملات سے اسے کیا واسطہ۔ قاضی کا پیادہ معمولی سپاہی کہ وہ کونسا قاضی کا پیادہ ہے یعنی قاضی کے پیادے کی بھی ایک زمانے میں بڑی اہمیت ہوتی تھی آخر تو وہ قاضی کا بھیجا ہوا شہنہ ادنیٰ درجہ کا سپاہی ہوتا تھا۔

اسی طرح ”قاضی ماری حلال“ یعنی کوئی چیز ذبح کیے بغیر مر جائے تو وہ جائز نہیں رہ جاتی مگر قاضی اگر کہہ دے تو وہ بھی جائز ہو گئی۔ یہ سماج کی طرف سے قاضی کے کردار پر پھبتیاں ہیں۔

◇ قافیہ تنگ ہونا، یا قافیہ بندی کرنا

یہ محاورہ شاعری کی اصطلاح ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ شعر میں قافیہ ردیف کی پابندی کی جارہی ہے، اب شعر اچھا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ اسی طرح ”قافیہ تنگ ہونا“ ایسے قافیہ کے استعمال کو کہتے ہیں جس کے قافیہ بہت مشکل ہوں یا نہ ملتے ہوں، جیسے شاخ، شاخ کا قافیہ مشکل سے ملتا ہے اور مشکل ہی سے اسے باندھا جاسکتا۔ یہ ایسے موقع کو سماجی محاورے کے طور پر کہتے ہیں کہ قافیہ تنگ ہے اور جب کوئی دوسرے آدمی کو ستاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے قافیہ تنگ کر رکھا ہے، وہ بیچارہ کچھ کہہ نہیں پاتا۔

◇ قائل معقول کرنا

اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی بات صرف منوائی نہ جائے اور غیر ضروری طور پر زور نہ دیا جائے بلکہ دلیلیں ثبوت و شواہد پیش کیے جائیں، تاکہ دوسرا ذہنی طور پر اور دل سے مطمئن ہو جائے اور دل سے کسی بات کو تسلیم کر لے ہمارے معاشرے کا یہ عام رویہ نہیں ہے اسی لیے اس محاورے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ خواہ مخواہ کی باتوں پر زور نہ دیا جائے۔

”قائل معقول“ دونوں عربی لفظ ہیں لیکن اُردو میں محاورے کے طور پر ذیل میں آیا ہے۔ اور اس سے اُردو زبان کی قوتِ آخذہ (جذب کرنے کی قوت) کا پتہ چلتا ہے۔

قبالے لے ڈالنا، قبالے لے لینا

”قبالا“ دستاویز کو کہتے ہیں اور قبالا لکھوانے کے معنی ہیں کسی زمین و جائداد مکان یا دکان کے کاغذ لکھوا لینا۔ اس کو محاورے کے طور پر ”قبالے لینا“ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں قانونی طور پر قبضہ حاصل کر لینا، مگر اس سے مراد لی جاتی ہے فریب، دغا دھوکا اور مکاری سے قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور یہیں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معاشرہ جب بددیانتی پر مائل ہوتا ہے تو کیا کیا مکاریاں اور جعل سازیاں کرتا ہے۔

◇ قبر کھودنا

”قبر کھودنا“ قبر تیار کرنے کو کہتے ہیں۔ جو قوم میں اپنے مردوں کو دفن کرتی ہیں انھی میں قبر تیار کرنے کا رواج بھی ہے۔ لیکن ”قبر کھودنا“ محاورے کے طور پر دوسرے معنی میں آتا ہے یعنی تباہی و بربادی کا سامان کرنا۔ وہ اپنے لیے ہو، خاندان کے لیے ہو یا بہت سے لوگوں کے لیے ہو۔ طنز کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس نے تو اپنی یا اپنے خاندان کی قبر کھود دی، یعنی ان کے

مفاو کو سخت نقصان پہنچا اور تباہی کا سامان کر دیا۔ یہ محاورہ بھی معاشرے پر اس کی غلط روشوں اور کارکردگیوں کے اعتبار سے ایک طنز یا طنز یہ تبصرہ کا درجہ رکھتا ہے۔

◇ قبر کے مردے اکھاڑنا

مسلمانوں کے ہاں ایک مرتبہ دفن کرنے کے بعد دوبارہ قبر نہیں کھودی جاتی، لیکن محاورتا جب ہم ”قبر کے مردے اکھاڑنا“ کہتے ہیں تو اس سے معاملات کو سامنے لا رہے ہیں بقول شخصے خاندانی جھگڑے ساری عمر بھی نہیں سمٹتے لیکن ہم اپنی نفسیاتی مجبوریوں کے تحت یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان پر پردے پڑے رہیں اور پچھلی باتوں کو نہ دہرایا جائے۔ اس میں خاندانی رشتوں پر چھائیاں پڑتی ہیں اسی لیے اس طرح کی باتوں کو نہ پسندیدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ تو قبر کے مردے اکھاڑتے ہیں یعنی پرانی باتوں کو بار بار دہراتے ہیں۔

◇ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا، یا قبر کے کنارے ہونا

ان دونوں محاوروں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی موت سے قریب ہونا یا اس عمر کو پہنچ جانا جس کے بعد آدمی خود کو زندگی سے دور اور موت سے قریب سمجھتا ہے، اسی لیے اپنے لیے خود بھی کہتا ہے کہ ہم تو قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں اور دوسرے بھی کبھی کبھی طنز کے طور پر کہتے ہیں کہ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں۔ پھر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں طعنہ دینا اور طنز کرنا بہت عام ہے۔ قریب قریب ہر بات کو طعنے اور طنز کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔

◇ قبلہ حاجات، قبلہ گاہ، قبلہ گاہی

قبلہ مسلم کلچر میں ایک بے حد اہم علامت ہے۔ مذہبی اعتبار سے بھی اور تہذیبی لحاظ سے بھی۔ مسلمان قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اپنے لیے قابل احترام لوگوں کے لیے قبلہ و کعبہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے مردے قبلہ رخ دفن کرتے ہیں دعائیں بھی قبلہ رخ ہو کر مانگتے ہیں، قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر قسم کھاتے ہیں۔ اس سے قبلہ کی مذہبی اور تہذیبی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس پر محاورتا قبلہ حاجات کہتے ہیں فارسی کا ایک شعر ہے جس میں روپے پیسے کے لیے کہا گیا ہے۔

(ترجمہ) اے سونے چاندی کے سکوتم خدا نہیں ہو، لیکن خدا کی قسم تم عیبوں کو چھپانے

والے اور حاجتوں کو پورا کر نیوالے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ قاضی الحاجات دولت اور زر زمین کو بھی کہتے ہیں۔ اُردو کا محاورہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قبلہ گاہ اور قبلہ گاہی نیز قبلہ متمنداں (امیدواران کا قبلہ)۔

◇ قحط پڑ جانا

غلہ کی کمی اور خوراک کے طور پر کام آنے والی اشیا کا فقدان قحط کہلاتا ہے۔ ہمدردی خلوص اور اپنائیت کے جذبہ میں جب بہت کمی آ جاتی ہے تو اسے قحط غمِ الفت بھی کہتے ہیں اور اس سے بے مروتی اور بے توجہی مراد لیتے ہیں۔

◇ قد نکالنا

بچوں کا قد کے اعتبار سے بڑا ہونا محاورتا ”قد نکالنا“ کہا جاتا ہے اور ہمارے خوبصورت محاورات میں سے ہے اور ہمارا معاشرہ محاورے تراشنے یا کلمات کو خوبصورت محاورہ میں ڈھالنے کی صلاحیتوں کا یہاں اظہار ہوتا ہے، یہ ایسے ہی محاورات میں سے ہے۔

◇ قدم اٹھا کر چلنا، قدم بڑھانا، قدم بہ قدم چلنا، قدم بوس ہونا، قدم چومنا
”قدم“ آدمی کے پیر کو کہتے ہیں اور انسان کی زندگی کے بیشتر کام یا اس کے قدموں سے متعلق ہیں یا ہاتھوں سے، اسی لیے ہاتھ یا قدم علامت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے قدم شریف، قدم رسول ﷺ، حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان۔ مہاتما گوتم بدھ کے قدموں کے نشانات جو مذہبی علامتیں ہیں اور مقدس نقوش و آثار میں شمار ہوتے ہیں۔ زندگی کے مختلف اعمال اور اقدامات کو ہم لفظی محاوروں سے ظاہر کرتے ہیں، مثلاً قدم بڑھانا، قدم رکھنا، قدم اٹھانا، قدم ملانا، نشان قدم چراغ نقش قدم وغیرہ۔ یہ سب ہمارے چلنے پھرنے اور عمل و رد عمل کی نشاندہی کرنیوالے محاورے ہیں۔ واپسی کے لیے اٹھنے والے قدم بھی اسی ذیل میں آتے ہیں اور ”قدم چومنا“ قدموں کو بوسہ دینا، قدموں کی خاک ہونا، قدموں کے احترام کو ظاہر کرنیوالے محاورے ہیں جو سماج کے اندازِ نظر اور طرزِ عمل کی نمایندگی کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ جیسے قدم باہر نکالنا، قدم قدم جانا، قدم گاڑنا، قدم مارنا، وغیرہ وغیرہ۔

◇ قرآن اٹھانا، قرآن رکھنا، قرآن پر ہاتھ رکھنا، قرآن کا جامہ پہننا، قرآن ہدیہ کرنا

قرآن کتاب اللہ کو کہتے ہیں اور مسلمان اسے آسمانی صحیفہ جانتے ہیں۔ قرآن حفظ کرنے کا بھی مسلمانوں میں ایک زمانے سے رواج ہے۔ ناظرہ پڑھنا تو بہت سے مسلمان

اپنا فرض سمجھتے ہیں اور حفظ نہیں کر سکتے تو ناظرہ پڑھتے ہیں۔ بیمار کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں، اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ جب قسم کھانا ہوتی ہے تو یہ ظاہر کرنے کے لیے وہ خدا رسول کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا رہے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا احترام مسلمان فرقے کے ذہن میں کس طرح رہتا ہے۔ قرآن سے متعلق زیادہ تر محاورے مسلمانوں کے عقیدے اور مذہبی طرز عمل سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی محاورے عام ہیں لیکن بعض محاورے وہ بھی ہیں جو کسی خاص طبقے کی مذہبی تہذیبی یا کاروباری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔

◇ قرعہ پڑجانا

فنِ طب کی اصطلاح ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ”زخم پڑجانا“ جو ایک صورت سے جسمانی تکلیف ہوتی ہے۔

◇ قرعہ ڈالنا، قرعہ پڑنا، قرعہ پھینکنا

یہ چوسر کھیل سے متعلق ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ قرعہ دراصل پانسہ کو کہتے ہیں اور کھیلتے وقت پانسہ ہی پھینکا جاتا ہے اور اس سے فال کے طور پر بھی کچھ باتیں اخذ کی جاتی ہیں۔ قرعہ اندازی جھگڑے، معاملہ میں فیصلہ کرنا یا فیصلہ پر پہنچنا ممکن ہو جاتا ہے کہ اگر زیادہ امیدوار ہوں جس کے حق میں قرعہ نکل آتا ہے اسی کو حق دیدیا جاتا ہے یا اس کا نمبر آ جاتا ہے۔

◇ قرض اُتارنا، قرض لینا قرض اُٹھانا، قرض دینا، قرضِ حسنہ وغیرہ

ہماری سوسائٹی میں شخصی طور پر قرض لینے کا رویہ عام ہے۔ بچے کا سودا اتنا ہوتا ہے کہ اس سے قرض لیکر اور وہ بھی کسی چیز کو رہن رکھ کر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ چیز ہی بیچنی پڑتی ہے اور قرض ادا نہیں ہوتا۔ ایسے عالم میں عزیز رشتہ داروں یا جان پہچان کے لوگوں ہی سے قرض لیا جاتا ہے۔ ”قرض اُٹھانا“ قرض دینا اسی سلسلہ کے محاورات ہیں۔

بعض لوگ یہ سوچ اور ذہن میں رکھ کر کسی کو قرض دیتے ہیں کہ یہ واپس نہیں بھی کرے گا تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے اس کی مدد کی اس کو قرضِ حسنہ کہتے ہیں۔ مگر اس کا رواج آج کی سوسائٹی میں بہت کم ہے اس لیے کہ قرض لینے والے کی نیت یہ ہوتی بھی نہیں کہ واقعتاً قرض ادا کرے گا یا نہیں، پس کہتا ہے کہ میرا ارادہ قرض ادا کرنے کا ہے بہر حال ہمارے سماجی تعلقات کو پرکھنے کا ایک پیمانہ قرض بھی ہے۔

◇ قرتی بٹھانا، قرتی بھیجنا

جب کوئی شخص قرض ادا نہیں کر پاتا تو قانونی چارہ جوئی کے ذریعہ اس کی زمین و جائیداد سے اسے وصول کیا جاتا ہے۔ سرکار اپنا قرض اسی طرح وصول کرتی ہے اور املاک کو قرق کروا لیتی ہے۔ اسی سلسلے میں قرتی آنا، قرق ہونا، قرتی بیٹھنا وغیرہ محاورے استعمال ہوتے ہیں اور اس ذریعہ سے بھی ہم اپنے سماج کی اسٹڈی (Study) کر سکتے ہیں۔

ہمارے یہاں ایک لفظ نادہندہ (نہ دینے والا) ہے۔ یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے جو قرض نہ دیں اس کی واپسی کا خیال نہ رکھیں آخر لڑائی جھگڑے اور قرتی کی نوبت نہ آئے۔

◇ قسمت اُلٹ جانا، قسمت بازی، قسمت پھرنا، قسمت کا پھیر، قسمت کا دھنی، قسمت کا لکھا وغیرہ وغیرہ

قو میں تقدیر کو مانتی رہی ہیں اور تقدیر کے معنی ہوتے ہیں غیبی علم، غیب کا فیصلہ، غیبی قوت کی کار فرمائی۔ اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ایک Super Structure دہنی سطح پر ہمیشہ موجود رہتا ہے اور ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آدمی کی عقل بھی ناقص ہے اور اس کا کیا دھرا بھی کام نہیں آتا اور ہوتا وہی ہے، جو قدرت والا چاہتا ہے۔

حالات کی ناساز گاریوں اور شخصی طور پر نارسائیوں میں گھری ہوئی کوئی انسانی زندگی مجبوراً یہی سوچتی ہے یا سوچ سکتی ہے۔ مشرقی قوموں کی سطح غام طور سے یہی رہتی ہے کہ جو تقدیر کا لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کو مان کر چلنے میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آدمی پھر دوسرے کے عمل اور سلسلہ عمل ورد عمل کو سمجھنے سے بھی قاصر رہتا ہے اور پورے معاملہ کو تقدیر کے سپرد کرتا ہے اور اپنے آپ کو مذہبی نظام فکر سے وابستہ کر لیتا ہے۔

قسمت کے کھیل، قسمت کا دھنی، قسمت کی یاوری بد قسمتی وغیرہ وغیرہ جو محاورے یا محاوراتی انداز کی ترکیبیں اُردو میں رائج ہیں وہ سب اپنی نظام فکر کا نتیجہ ہیں۔ جہاں تک تقدیری معاملات کو غیر ضروری تعمیم (Over simplification) سے گزارا گیا ہے۔

◇ قصائی کا پلا، قصائی کے کھونٹے باندھنا، قصائی کی نظر دیکھنا

قصائی مسلمانوں میں ایک قوم کا پیشہ ہے، وہ جانور کاٹتی اور ان کا گوشت بیچتی ہے ظاہر ہے کہ قصائی کی نظر یا اس کے گھر پر ہونا ایک مخالف دشمن یا قاتل کے قبضے میں ہونا ہے۔ وہ

اگر دیکھے گا تو سخت اور کرخت نظر سے دیکھے گا۔ سلوک کرے گا تو برا سلوک کرے گا، جو گائے یا بکری قصائی کے کھونٹے بندھی ہوگی اس کو تو کٹ ہی جانا ہے۔ ایسی صورت میں جو آدمی ہر طرح نقصان میں ہوتا ہے اور جسے کبھی بھی قتل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قصائی کے کھونٹے بندھا ہے۔ اس سے معاشرے میں جو ظالمانہ سلوک ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔

◇ قصہ پاک کرنا، قصہ پاک ہونا، قصہ مختصر ہونا، قصہ درقصہ ہونا

قصہ کہانی کا ہماری زندگی سے گہرا رشتہ ہے اور دیکھا جائے تو ہمارا پورا کلچر قصوں کہانیوں میں سمیٹا ہوا ہے۔ کہانی مختصر بھی ہوتی ہے، قصہ درقصہ بھی، داستان در داستان بھی۔ کہیں کہیں قصہ کو مختصر کر دیا جاتا ہے اور کہیں وہ رام کہانی بن جاتی ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قصہ کا اپنے مختلف اسالیب کے ساتھ ہمارے ذہن، ہماری زندگی اور ہماری زبان سے کیا رشتہ ہے۔ اسی کو ہم قصے کے بارے میں جو مختلف محاورے ہیں ان کے لفظ و معنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔

”قصہ پاک ہونا“ یعنی بات ختم ہوئی، قصہ سمٹ گیا، جھگڑا ختم ہوا اور بات ایک طرف ہو گئی۔ ”قصہ کوتاہ کر دیا گیا“ یا ”قصہ کوتاہ ہوا۔“

◇ قضا ادا کرنا، قضا پڑھنا، قضا عند اللہ، قضا و قدر، قضائے الہی، قضائے عمری

”قضا“ کا لفظ عربی ہے اور یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ ہماری زبان میں شامل ہے یا ہم قضا و قدر بولتے ہیں تو اس سے تقدیر کا فیصلہ مراد لیتے ہیں۔ جس سے انسان کے اپنے ارادے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قضائے الہی سے رشتہ ہوتا ہے یعنی خدا کی مرضی وہ مرضی جس کا تعلق کسی کے دکھ بھرے واقعے سے ہو جیسے موت، حادثہ۔ قضائے عمری ان نمازوں کو کہتے ہیں جو زندگی میں قضا ہوئی ہوں اور رات کو آدمی ادا کرنا چاہتا ہو، نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور نماز ادا نہیں کی گئی ہو تو اسے ”قضا ہونا“ کہتے ہیں۔ روزوں کے ساتھ بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ روزہ اگر نہیں رکھا گیا تو اسے ”روزہ قضا ہونا“ کہتے ہیں۔

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان محاوروں کا رشتہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور اعمال سے ہے۔ یعنی سماج کے ایک خاص طبقے سے ہے اور اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جو باتیں سماج کی نفسیات کا حصہ بن جاتی ہیں وہ محاوروں میں بدل جاتی ہیں۔

◇ قلعی کھل جانا، قلعی کھولنا

ہمارے سماج میں بات کو چھپانا اور دوسرے انداز سے پیش کرنا جس میں نمود و نمائش ہو اسے ملمع کاری کہتے ہیں اسی کو ”قلعی کرنا“ سمجھ لیں اسی لیے جب بات کھل جاتی ہے اور مکاری کا رویہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اسے ”قلعی کھلنا“ کہتے ہیں اور اگر کوئی دوسرا آدمی بات کو کھولتا اور ملمع کاری کو ظاہر کرتا ہے تو ”قلعی کھولنا“ یا ”قلعی اُتارنا“ بھی کہا جاتا ہے یعنی اصل حقیقت کھول کر سامنے رکھ دینا۔

◇ قلم بنانا، قلم اُٹھا کر لکھنا، قلم پھیرنا، قلم چلانا، قلم دان دینا

تحریر نگارش تصویر حکومت کی نشانی ہے جب ہم قلم رو کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے زیرِ حکم اور زیرِ حکومت اسی لیے قلم رو ہند کہلاتا ہے۔ قلم مذہبی اور تہذیبی علامتوں میں سے بھی ہے کہ خدا نے قلم کے ذریعہ انسان کو تعلیم دی چنانچہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعہ تعلیم دی اور وہ باتیں سکھلائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ لوح محفوظ کا تصور بھی قلم ہی سے وابستہ ہے یعنی وہ مقدس تختی جس پر قدرت کے قلم نے تمام دنیا کی تقدیر لکھ دی، جو ازل سے ابد تک کے لیے ہے۔ قرآن نے اپنے احکامات کے لیے کہا ہے کہ وہ لکھ دیے گئے اس کا تعلق بھی قلم سے ہے۔ بھوج پتر مٹی کی تختیاں یا لکڑی کی تختیاں بھی تحریر کے لیے کام آتی رہیں۔ کاغذ کی ایجاد سے پہلے انھی تختیوں اور بھوج پتروں پہ لکھا جاتا تھا جن کو آج بھی میوزیم میں دیکھا جاسکتا ہے۔ تحریر قلم کے ہی ذریعہ ممکن ہے اور تصویر بھی قلم بیشک الگ الگ ہوتے ہیں۔

ہمارے یہاں قلم کے بہت سے محاوراتی الفاظ اور کلمات ہیں جیسے قلم اُٹھانے کی ضرورت، قلم برداشتہ لکھنا، قلم چلانا، قلم توڑ دینا یا قلم کی زبان میں کہنا۔ اس سے ہم قلم کی تہذیبی تاریخ کو بھی جان سکتے ہیں اور پڑھنے لکھنے کے معاملہ میں قلم کی اہمیت کو بھی اور تحریر کی خوبی اور خوبصورتی کا ذکر بھی قلم کے رشتہ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے خوش قلم مرصع رقم جس کے معنی ہوتے ہیں خوش قطعی اور خوبصورت تحریر کو کہتے ہیں۔

◇ قل ہو اللہ پڑھنا، قل ہونا

”قل“ قرآن پاک کا لفظ ہے اور ”قل ہونا“ یا ”قل ہو اللہ“ پڑھا جانا اُردو کے محاورات میں سے ہے۔ ”قل ہونا“ دراصل قل پڑھا جانا ہے اور قل پڑھے جانے کے معنی ہیں فاتحہ کی دعائے خیر۔ ذوق نے اپنے ایک مصرعہ میں کہا ہے۔

لا ساقیا پیالہ تے توبہ کا قتل ہوا

یعنی توبہ ختم ہوئی اور ہم نے توبہ ہی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب تو پینا پلانا ہی رہ گیا۔ آنتوں کا ”قل ہو اللہ“ پڑھنا بھوک لگنا ہے۔ چونکہ بھوک کے وقت پیٹ میں آنتیں ایک خاص طرح کی حرکت کرتی ہیں ان کی آواز کو قراقر کہتے ہیں اسی کو ”قل ہو اللہ“ پڑھنا کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ محاورہ مسلم معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے فارسی و عربی سے بھی اپنے خاص ماحول کے مطابق محاورات اخذ کیے ہیں۔

◇ قہر توڑنا، قہر کی نظر دیکھنا، قہر نازل ہونا، قہر ٹوٹ پڑنا

”قہر“ غصہ کو کہا جاتا ہے اور یہ لفظ مہر کے مقابلہ میں آتا ہے۔ ”مہر“ محبت کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں لڑکیوں کا بھی اور لڑکوں کا نام مہر پر رکھا جاتا ہے۔ ”قہر“ غضب ناک ہونا ہے اسی لیے جب کوئی غیر معمولی مصیبت آتی ہے تو اس کو قہر الہی یا قہر آسمانی کہتے ہیں۔ کوستے وقت بھی کہا جاتا ہے کہ تم پر قہر الہی نازل ہو یا خدا کا قہر ٹوٹ پڑے۔

ظاہر ہے آندھی، طوفان، سیلاب، زلزلہ، اولے برسنا سب ہی نقصان اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں اسی کو قہر الہی یا قہر آسمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

◇ قیامت آنا، قیامت اٹھانا، قیامت توڑنا، قیامت ہونا، قیامت کا منظر، قیامت کی گھڑی

قیامت مسلمانوں کے عقائد کا ایک اہم جز ہے جس کو ”حشر برپا ہونا“ کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کو ساعت بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ گھڑی کب آئے گی اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔

قیامت کے تصور کے ساتھ ایک طرف تو یہ خیال وابستہ ہے کہ قیامت آنے پر ہر شے تہس نہس ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، زمین آسمان تہہ و بالا ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں میں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ قیامت کا دن ایک لاکھ برس کا ہوگا۔ اور اس دن تمام انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ انھیں سزا اور جزا دی جائے گی اسی لیے انگریزی میں اسے "Day of judgement" کہتے ہیں یعنی یوم الحساب۔ جب کوئی بات کسی انسانی گروہ طبقہ قوم یا ملت کی نفسیات میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کو محاوروں میں ڈھال لیا جاتا ہے مثلاً قیامت آنا، مصیبت نازل ہونا، قیامت گذرنا، پریشانیوں

میں بے طرح مبتلا ہونا، اسی طرح قیامت برپا ہونا ہر بات کو الٹ پلٹ ہو جانا۔ اس معنی میں قیامت کا تصور اور اس سے متعلق دوسری کسی زبان میں کم ہی نظر آتے ہیں۔

فارسی میں ایک دو محاورے مل جائیں تو دل مل جائیں یہ ہمارے اپنے معاشرے کی بات ہے اور اس سے تہذیب و معاشرت کے مزاج کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

◇ قید لگانا، قید میں رکھنا، قید میں عائد کرنا

”قید“ ہماری معاشرتی زندگی کا ایک حوالہ رہا ہے اور آج بھی ہے ہم دوسروں کو کسی بھی وجہ سے اپنا پابند اور محکوم بنا کر رکھنا چاہتے ہیں مثلاً غلام بنانا، باندی بنانا، نوکر کے آگے چاکر رکھنا۔ ایک ایک بات سے انسان کی امتیاز پسندی ظاہر ہوتی ہے۔ صدیوں تک محکوموں کے بارے میں جو قاعدہ قانون بناتے رہے وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

آدمی مجرموں کو بھی قید میں ڈالتا ہے۔ قید میں رکھتا ہے اور سزا کے طور پر ان سے بدسلوکی کرتا ہے۔ یہ بات اگر ایک حد تک جائز بھی ہو سکتی ہے تو اس کی اپنی کچھ اخلاقی حدیں ضرور ہونی چاہئیں، لیکن وہ حدیں باقی نہیں رہیں اور اس طرح کے تصورات عام ہو گئے کہ اس نے قید میں ڈال رکھا ہے قیدی بنا رکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔

اس سے سماج کے تاریخی اور تہذیبی رویوں کا بھی پتہ چلتا ہے اور قاعدہ قانون کی روش پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

رویف _____ ک

◇ کاٹ چھانٹ کرنا

”کاٹنا“ کم کرنا، درست کرنا، تبدیلی کرنا جیسے معنی میں آتا ہے۔ لیکن سماجی طور پر اس کے مفہوم میں خاص طرح کی کتر بیوت شامل رہتی یہ کہ آدمی بات کہتے وقت دانستہ طور پر اپنی طرف سے کوئی بات بڑھادی، کوئی کم کر دی، کسی کا رخ بدل دیا، خود لب و لہجہ میں تبدیلی آنے سے بھی بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو کاٹ چھانٹ کے عمل میں ذہنی جذباتی اور سماجی رویہ شامل ہو جاتے ہیں۔

◇ کاٹ کرنا

ہم عام طور سے گروہ بندی یا ذہنی گروہ بندی کا شکار رہتے ہیں جس کے حامی اس کی

بے جا حمایت کرتے ہیں اور جس سے اختلاف ہوتا ہے۔ اس کی ناروا مخالفت (ناجائز) کرتے ہیں اسی کو ”کاٹ کرنا“ کہتے ہیں کہ وہ اس کی بات کی کاٹ کرتا ہے۔ اس محاورے سے ہمارے تہذیبی رویوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہم سچائی اور اچھائی پر اتنی نظر نہیں رکھتے جتنی ہماری طبیعت اپنے اور غربت کی طرف مائل رہتی ہے۔ یہ سیاست میں تو ہوتا ہی ہے ہماری گھریلو زندگی اور آئینی معاملات میں اس کو زیادہ دخل ہے۔

◇ کاٹ کھانا، کاٹ کھانے کو دوڑنا

”کاٹ کھانا“ ڈنک مارنے کو بھی کہتے ہیں، اور دانتوں سے کانٹے یا زخم پہنچانے کو بھی۔ ایک طرف بچھو یا سانپ کا کاٹنا ہے دوسری طرف کتے کا کاٹنا ہے یا ان تجربوں کی روشنی میں سماجی طور پر دوسروں کے برے ردِ عمل یا رویہ کو بھی ہم کاٹ کھانا کہتے ہیں اور کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس کے جارحانہ رویہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سماج میں بہت لوگوں کا رویہ کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے جسے معقول رویہ نہیں کہا جاسکتا محاورے میں اس کی طرف اشارہ کر کے صورتِ حال کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

◇ کاٹو تو خون نہیں یا لہو نہیں (بدن میں)

انسان کی صحت و عافیت کا دار و مدار جسمانی صحت و تندرستی پر ہوتا ہے اور تندرستی رگوں میں خون کے دوڑنے پھرنے کے عمل سے وابستہ ہے۔ انسان کبھی کبھی خون کی کمی کا شکار ہوتا ہے اور اسی نسبت سے کمزوری کا بھی۔ کبھی کبھار ایک دم سے کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کا خون خشک ہو جاتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈر، خوف، دہشت، انتہائی غمناک حالت کے باعث اس کے بدن میں خون نہیں رہا۔ ایسے ہی موقع پر یہ کہتے ہیں کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ یہ گویا محاورے میں ایک طرح کا شاعرانہ اندازِ فکر شامل کرنا ہے۔

◇ کاٹھ کا اُلو، کاٹھ کا گھوڑا، کٹھ پتلی

اُلو ایک چکوٹری کی نسل کا جانور ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر دن میں نہیں نکلتا، رات ہی کے وقت اپنے آشیانہ سے باہر آتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے معلوم نہیں کیوں بے وقوف بھی خیال کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہندو ماہیتولوجی میں وہ لکشمی کی سواری بھی ہے اسی لیے جب کسی کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں تو اسے اُلو کہتے ہیں اور اسی سے اُلو بنانے کا محاورہ بھی نکلا ہے۔ جو آدمی بہت بیوقوف سمجھا جاتا ہے وہ کاٹھ کا اُلو کہلاتا ہے یعنی اُلو بھی وہ جو لکڑی سے گھڑا گیا ہو، تراشہ گیا ہو،

کسی زندہ شے کو لکڑی یا کاٹھ سے نسبت دینا اسے انتہائی گیا گزرا قرار دینا ہے جیسے کاٹھ کا گھوڑا کہ بس وہ ہوتا ہے مگر دراصل نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلہ میں کل کا گھوڑا انتہائی چست و چالاک ہوتا ہے اس معنی میں سماج کا عقل ہوش مندی اور بیوقوفی کے معاملہ میں کیا رد عمل ہوگا۔ کٹھ پتلی لکڑی کی گڑیا ہوتی جسے تماشہ کے طور پر طرح طرح سے ناچتے اور حرکتیں کرتے ہوئے دکھلایا جاتا ہے اسی لیے کٹھ پتلی کا ناچ بھی کہتے ہیں اور رویہ رہتا ہے اس کو مذکورہ محاوروں سے سمجھا جاتا ہے۔

◇ کاٹھ نہیں کٹتا

مشکل وقت گزارنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ اس میں جدائی میں گذاری جانوالی ساعتیں اور گھڑیاں زنجیر کے حلقہ بن جاتے ہیں جو کاٹھ نہیں کٹتے ایک گیت ہے۔

دکھ کے دن کاٹھ نہیں کٹتے

”کاٹھا“ ایک محنت طلب اور تکلیف دہ صورت ہوتی ہے اس میں لکڑیاں کاٹنا بھی ہے، لوہا کاٹنا، پتھر کاٹنا بھی ہے اور دکھ کے دن گزارنا بھی۔ یہ محاورے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور احساس کی اس شدت کو ظاہر کرتے ہیں جو دکھوں کو سہنے اور جدائی کے دن رات گزارنے میں آدمی محسوس کرتا ہے۔

◇ کا جل کی کوٹھری

کا جل آنکھوں کے لیے وجہ زینت ہوتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں بظاہر اچھی اور درحقیقت بُرے نتائج کی طرف لانے والی ہوتی ہیں ان کو محاورے کے طور پر کا جل کی کوٹھری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ممکن ہے آنکھوں میں زیادہ کا جل لگانے کو بھی مذاق کے طور پر کا جل کی کوٹھری بنا دینا کہتے ہوں۔ محاوروں میں جو شاعرانہ انداز نظر پایا جاتا ہے اس کی ایک مثال یہ محاورہ بھی ہے اور خوبصورت مثال ہے۔

◇ کا جو بھو جو

ہمارا معاشرہ مضبوطی اور پائنداری کو پسند کرتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کمزور چیز اس کے نزدیک قابلِ قدر اور لائقِ تحسین نہیں ہوتی۔ اسی لیے اسے ایک ایسی لفظی ترکیب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس سے اس کی کمزوری اور ناپائنداری ظاہر ہوتی ہو کہ وہ تو خود ہی ”کا جو بھو جو سا“ ہے وہ کیا کام دے گا اور کس کام آئے گا۔ محاورہ بھی اکثر ایک ”Comment“ ہوتا ہے اور اس میں ہمارے معاشرہ کا مشاہدہ چھپا ہوا ہے۔

◇ کاٹا چھنی

آپسی اختلاف اور ذہنی کشمکش کو ”کاٹا چھنی“ کہتے ہیں۔ جس میں آدمی ایک دوسرے پر اعتراض اور الزام وارد کرتا رہتا ہے۔ یہ سماج کا ایک رویہ ہوتا ہے، گھریلو جھگڑوں میں یہ بات اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ خواہ مخواہ بلا ضرورت ایک دوسرے پر فقرے کسے جاتے ہیں، جملے اچھالے جاتے ہیں، بات اور بے بات اختلاف کا کوئی پہلو سامنے لایا جاتا ہے جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے بھی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ بنیادی مسئلہ اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو وہ سامنے نہیں رہتا ادھر ادھر کی باتیں دل و دماغ کو گھیرے رہتی ہیں اور یہی جھگڑوں کے ختم نہ ہونے کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔

”کٹاکش“ ہندی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں طنز کرنا، اعتراض کرنا۔ اسی سے ہمارے یہاں ”کٹا چھنی“ محاورہ بنا ہے۔ کج بخشی، کج فہمی، کٹ جتی ہماری عام سماجی روش ہے یہ بھی اسی سلسلہ کی باتیں ہیں جو سماجی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

◇ کارخانہ الہی، کارخانہ پھیلانا، کار خیر

”کار“ کام کو کہتے ہیں اور خوشی کی تقریب کو بھی ہمارے یہاں ”کار“ کہا جاتا ہے۔ آدمی اپنے لیے جو کام کرتا ہے اور اسے پیشہ کے طور پر اختیار کرتا ہے اسے کاروبار کہتے ہیں۔ دستکاری یا صنعت کاری یا پھر سادہ کاری کے لیے جو کوئی خاص مرکز قائم کیا جاتا ہے اسے کارخانہ کہتے ہیں۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے جتنا کچھ ہے اسے کارخانہ الہی کہا جاتا ہے اور انھی کے مقابلہ میں ایک اور محاورہ آتا ہے جسے شیطان کی کارگاہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ محاورہ ممکن ہے انگریزی کے محاورے ”Devil,s workshop“ (شیطان کی کارگاہ) کا ترجمہ ہو یہ بھی ممکن ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ اس کا ذہن تو شیطان کی کارگاہ ہے اس کا ”Direct“ انگریزی ترجمہ ہوگا His mind is a devil's workshop۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زبان دوسری زبانوں سے جو استفادہ کیا ہے اس میں انگریزی زبان بھی شامل ہے۔

◇ کاغذ سیاہ کرنا، کاغذ کا پٹا باز، کاغذی آدمی، کاغذی پیرہن، کاغذ کی کشتی، کاغذ کی نا، کاغذ لکھ دینا، کاغذ تیار کرنا، کاغذ کا پیٹ بھرنا

”کاغذ“ ہماری سب سے بڑی تہذیبی ایجاد ہے۔ انسان کا ذہن تقدیر سے زیادہ

تحریر کے سہارے آگے بڑھتا ہے اور تحریر کا سب سے بڑا وسیلہ ہمارے پاس کاغذ اور قلم ہے۔ کاغذ کی ایجاد سے پہلے تحریریں مٹی کی تختیوں اور لکڑی کی پیوں پر لکھی جاتی تھیں، مگر کاغذ کی ایجاد کے بعد صورت حال بدل گئی اور بڑے پیمانہ پر تحریریں کاغذ پر لکھی جانے لگیں۔ بیاضیں، کتابیں اور دفتر تیار ہونے لگے۔ جو معاہدہ یا تحریری وعدہ ہوتا ہے وہ بھی کاغذ پر ہی لکھا جاتا ہے۔ شقہ ہو یا رقعہ یا عام خط پتر سب کا تعلق تحریر سے ہے۔ قانونی مسئلہ میں لکھا پڑھی ہوتی ہے اس کو کاغذ لکھ دینا بھی کہتے ہیں اور اس سے متعلق ہمارے یہاں بہت سے محاورات موجود ہیں۔

عدالتی کاغذات کو دستاویزیں کہا جاتا ہے۔ بادشاہی احکامات فرامین کہلاتے ہیں۔ عام تحریریں کاغذ کرنے کاغذ لکھنے اور کاغذ تیار کرنے کے انداز میں بھی زیر گفتگو آتی ہیں۔

کاغذ نرم و نازک ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے، گل جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ اس لیے ناپائنداری کو بھی کاغذ کے سلسلے میں کئی محاورے آتے ہیں جیسے کاغذ کی ناؤ کاغذ جیسی کایا، کاغذ کا پرزہ، کاغذی پیرہن۔ تحریر اور کاغذ کی نسبت سے بھی کئی محاورے آتے ہیں جیسے ”کاغذ کالے کرنا“، کاغذ سیاہ کرنا ”کاغذ کا پیٹ بھرنا“ کہ جو چاہا وہ لکھ کر دیا۔ کاغذ کا پیٹ بھر گیا، صفحہ کے صفحہ کالے ہو گئے۔ کاغذ کے پھول بھی خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان میں رنگ ہوتے ہیں نر کائی اور نرمائی تو ہوتی ہے مگر اپنی خوشبو نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ نرم چھلکے والے باداموں کو ”کاغذی بادام“ کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاغذ سے ہماری زندگی ہمارے ذہن ہماری زبان اور ہمارے زمانہ کا کیا کیا رشتہ ہے اور کس کس طرح ہے۔

◇ کالا، کالا آدمی، کالا پہاڑ، کالا تو، کالا خون، کالا منہ، کالا منہ ہونا، کالا لباس، کالا منہ نیلے ہاتھ پاؤں، کالک کاٹیکا لگانا، کالا دھن، کالی کوٹھری، کالا سانپ، کالا سمندر، کالی بلا، کالی بھینس، کالی زبان، کالی رات کرنا

”کالا“ رات کا رنگ بھی ہوتا ہے۔ حیثیتوں کا رنگ بھی۔ آنکھوں کی پتلیاں کالی ہوتی ہیں اور ایشیائی عورتوں کے بال کالے ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں البتہ کالے بالوں کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ ”خون سفید ہونا“ کالے خون کے مقابلہ میں ایک الگ محاورہ ہے اور کالا خون بیچار اور برے خون کی علامت ہے۔ ”کالے بول“ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بری باتیں ہوتی ہیں۔ کالی مائی، موت کی دیوی کو کہتے ہیں جسے کالے بھینسے کی قربانی یا بھینٹ پیش کی جاتی ہے۔

انگریزوں کے مقابلہ میں ہندوستانی ”کالے آدمی“ کہلاتے ہیں۔ اسی لیے یہ محاورہ استعمال ہونے لگا ہے کہ وہ کالے آدمی سے بات نہیں کرتے۔ کالا پانی انگریزوں کے زمانہ میں انڈمان نکوبار کے جزیروں کو کہتے تھے۔ ان جزیروں میں بھیجنے کی جس کوسزا دی جاتی تھی اسے کالا پانی دیا جاتا تھا اور وہاں بھیج دیا جاتا تھا۔ مجرموں کو تنگ کوٹھریوں میں رکھا جاتا تھا جن میں روشنی نہ ہو اور کبھی کوئی انسان نہ ہوتا تھا اسے ”کال کوٹھری“ کہتے تھے۔ ”کالا لباس“ غم کا لباس ہے۔ شیعوں کے ہاں غم حسین منانے کی غرض سے محرم میں شیعہ کالا لباس پہنتے ہیں۔ روسیاء ہی بدنامی کو کہا جاتا ہے۔ ”کالا منہ نیلے ہاتھ پیر“ ممکن ہے یہ کسی زمانہ میں سزا کے طور پر کیا جاتا ہو کہ آدمی کے ہاتھ پاؤں نیلے کر دیے جائیں اور اسے بستی سے نکال دیا جائے۔ ویسے نیلا رنگ امر ہونے کی علامت بھی ہے، اسی لیے شیوجی کو نیل کنٹھ کہتے ہیں۔ بعض میلے ٹھیلوں کے موقع پر یا پھر عرس کی تقریب کے سلسلہ میں جو چھڑیاں گاڑھی جاتی ہیں وہ بھی نیلی ہوتی ہیں۔ مدراس کے قریب سمندر گہرے نیلے رنگ کا ہے اسی لیے ہندوؤں میں دیوتاؤں کا رنگ روپ نیلا رکھا جاتا ہے۔ نیلا گنڈا بیماریوں اور بری نظر کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بطور تعویذ گلے میں باندھا جاتا ہے۔

جس کو بد صورت عورت ظاہر کرنا مقصود ہوتا اسے ”کالی بھینس“ کہتے ہیں اور اگر اس کا رنگ بہت کالا ہوتا ہے تو اس کو ”کالی بلی“ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ کالا دیو بد صورت ہونے کے علاوہ بد ہیئت بھی ہوتا ہے یہ کردار داستانوں میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ کسی کالی پیلی گئی گزری لڑکی کو کلچڑی کہتے ہیں۔ جیسے منحوس قرار دینا ہوتا ہے اسے ”کل موہا“ یا ”کل موہی“ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔

جورات بے چینی تکلیف اور انتظار میں گذاری جاتی ہے اسے ”رات کالی کرنا“ کہتے ہیں۔ بہت کالے رنگ کو بھورے کے رنگ سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اسے کالا بھونگ کہتے ہیں۔ بہت کالے رنگ والا آدمی کالا بھونگ کہلاتا ہے۔ وہ بھی مشہور ہے کہ کالے سانپ پر بجلی گرتی ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ذہنی طور پر ہم اپنی زندگی میں کالے رنگ سے کیا کیا باتیں منسوب کی ہیں۔ بچے ایک گیت گاتے ہیں اس میں آتا ہے۔

کالا کالا گر گیا

اماں ماریں گی

اسی میں کالی ہانڈی سر پر رکھنے کے محاورے کو بھی شامل کیجئے کہ وہ بدنامی مول لینے کو کہتے ہیں کہ مفت میں یہ کالی ہانڈی کون اپنے سر پر رکھے۔ ”کالا اکھشر بھینس برابر“ ایسا آدمی جو بالکل جاہل ہوتا ہے اور کوئی حرف پڑھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے کہا جاتا ہے اس کے واسطے کہا جاتا ہے کہ ”کالا اکھشر بھینس برابر“ ہے۔ کالا کلونا بھی کالے ہی کے سلسلے میں ایک محاوراتی کلمہ ہے۔

◇ کام بگڑنا، کام آنا، کام پڑنا، کام کا ہونا، کام بپہ لگانا، کام چلانا، کام تمام کرنا، کام چڑھانا یا لگانا، کام چمکنا، کام دینا، کام سے جاتے رہنا، کام سے کام، اپنے کام سے کام رہنا، کام میں کام نکالنا، کام میں لانا، کام ہو جانا

کام کے معنی ہندی زبان میں جذبہ انبساط کے بھی ہیں، فارسی میں غرض کے ہیں لیکن اُردو میں صبح سے شام تک آدمی کی جو مشغولیات رہتی ہیں ان کو کام کہتے ہیں اور وہ طرح طرح کے ہوتے ہیں انھی سے محاورے بھی نکلے ہیں جیسے کام بنانا، یا کام بننا، کام پڑنا وغیرہ اسی میں کام نکالنا بھی ہے کامی آدمی ہونا بھی ہے۔

◇ کان اڑے جانا، پھٹے جانا، کان کھول کر سننا، کان بند کرنا، کان اینٹھنا، اکھاڑنا، کان پھوڑنا، کان بھرنا، کان پر جوں رینگنا، کان کا کچا ہونا، کان پڑی آواز سنائی نہ دینا، کان پکڑ کے اٹھا دینا، کان پھوٹ جانا

اگر دیکھا جائے تو یہ سب محاورے سننے، توجہ دینے اور توجہ نہ دینے سے متعلق ہیں۔ جب بہت شور ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، کان پھٹے جاتے ہیں۔ جب کوئی دوسروں کی راز کی باتیں سننا چاہتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کن سنیاں لے رہا ہے۔ اگر سننا نہیں چاہتا اور کوئی اثر سننے کا نہیں لیتا تو کہتے ہیں اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی یا جوں نہیں چلتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کان سنتا دوسرے کان اڑا دیتا ہے۔ جب کوئی کسی کے خلاف اچھی بری باتیں کہتا ہے اور مطلب درغلانا ہوتا ہے تو ایسے ”کان بھرنا“ کہتے ہیں۔ زیور پہننے کے لیے کان کی پا پڑی (بنا گوشت) اور دوسرے بیرونی حصہ میں جو شگاف پیدا کیے جاتے ہیں ان کو کان بندھنا اور یہ پیشہ کر نیوالے کو کندھا کہا جاتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کی باتوں پر جلدی سے یقین کر لیتا ہے اور سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتا اسے ”کان کا کچا“ کہتے ہیں اور جب کوئی بات سنتے سنتے طبیعت ادب جاتی ہے تب یہ کہتے ہیں کہ سنتے سنتے کان پک گئے۔ کان کی بیماری کا نام کھیڑ ہے کن پھیڑ نکلنا کہتے ہیں۔ کنکو ادہلی میں گڈی یا پتنگ کو کہتے ہیں اور محاورے

کے طور پر بولا جاتا ہے کہ وہ تو کنگوے اڑاتا ہے یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے۔
 ◇ کانٹا نکالنا، کانٹا چھینا، کانٹوں پر لوٹنا، کانٹوں کا بچھونا، کانٹوں کی نیل،
 کانٹے بچھانا

”کانٹا“ ترازو کو بھی کہتے ہیں اسی سے کانٹے کا قول بنا ہے لیکن جو کانٹا چھتا ہے وہ ہماری زبان اور زندگی میں بہت سے محاورات کا یہ کہیے کہ جنم داتا ہے۔ مثلاً کانٹا چھنا تکلیف پہنچنا، ”کانٹا لگنا“ کوئی ایسی تکلیف جو مسلسل چھین کا احساس پیدا کرے۔

”کانٹوں پر لوٹنا“ بہت بے آرامی اور بے چینی سے رات یا وقت گزارنا ہے۔
 ”کانٹے بچھانا“ کسی کے لیے عملی دشواریاں پیدا کرنا ہے۔ اس نے تو ہمیشہ میری راہ میں کانٹے بچھائے یا پھر مشکلات سے بھری زندگی کو ”کانٹوں کا بچھونا“ کہلاتا ہے کہ اس طرح کی ملازمت تو کانٹوں کا بچھونا ہوتی ہے۔ نیل خوبصورت چیز ہے لیکن اگر خوبصورتی کے ساتھ اس میں تکلیفوں کے پہلو موجود ہوں تو اسے کانٹوں کی نیل کہتے ہیں۔ دوسروں کے راستہ سے مشکلات دور کرنے کو ”کانٹے ہٹانا“ کہتے ہیں اور کانٹے چھنے سے بھی یہی مراد لیتے ہیں۔

”کانٹوں کا تاج“ جو چیز بظاہر عزت کی ہو (اس کے ساتھ) تکلیفیں جڑی ہوئی ہوں تو اسے کانٹوں کا تاج کہتے ہیں۔ یہ سماج کی طرف سے گویا ایک گہرا طنز ہے۔ ”کان کھڑے ہونا“ کسی بات یا خطرہ کا احساس ہونا ہے یہ سن کر تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ بعض جانور خطرے کے موقع پر کان کھڑے کر لیتے ہیں ممکن ہے کہ یہ محاورہ ایسے ہی کسی موقع یا واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

◇ کتے کی موت مرنا

بہت بری حالت میں جان دینا اور اسی نسبت سے کتے کا کفن اس کیڑے کو کہتے ہیں جو بہت خراب ہو بدروہور ہا ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں روایتی طور پر کتے کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ اس سے وابستگی کو سماج بہت بے عزتی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے ”بلی کی زندگی ہونا“ بری زندگی کو کہتے ہیں۔ کتے کی طرح بھونکنا بھی بری طرح ناراض ہونے اور بک بک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ دھوبی کے کتے کے ساتھ ایک اور محاورہ وابستہ ہے اور بے انتہا نکمے پن کو ظاہر کرتا ہے۔

”دھوبی کا کتا گھر کا ناگھاٹ کا“ کتا بہت وفادار ہوتا ہے مگر اس کی وفاداری کا ذکر بھی

ایسے الفاظ میں نہیں ہوتا۔ کتے کی طرح وفاداری کا پٹا گلے میں ہونا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔

◇ کچا ساتھ ہونا یا کچا کنبہ ہونا

جب کسی آدمی کا اپنا کنبہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر مشتمل ہوتا ہے کہ اس کا کچا ساتھ ہے یعنی اس کے بچے اس لائق نہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، یہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب کوئی آدمی شدید بیمار ہو جائے یا مر جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں تو خاص طور پر کہتے ہیں کہ اس کا تو کچا ساتھ ہے۔

کچا دھاگا یعنی کمزور رشتہ ہمارے سماج میں اکثر اس تعلق کے لیے کہا جاتا ہے جسے ہم جب چاہتے ہیں توڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اسی نئے یہ بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ یہ رشتہ کوئی کچا دھاگا نہیں ہے کہ جب چاہا توڑ کے پھینک دیا اس سے ہم اپنے سماجی رشتوں کا ذہن اور زندگی سے ان کے تعلق کا احساس کر سکتے ہیں۔

◇ کچا کرنا، کچا ہونا، کچیا جانا

”کچا کرنا“ شرمندہ کرنے کو کہا جاتا ہے اور ”کچا ہونا“ شرمندہ ہو جانے کو کہتے ہیں کہ میں اس کے سامنے بہت کچا ہوا اور اس سے ہماری زندگی اور ذہن کا رشتہ محاورہ کی لسانی اور معاشرتی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے اور زبان میں موقع و محل کے لحاظ سے لفظ کس طرح اپنے معنی بدلتے ہیں۔ اس پر محاورات کا استعمال اور لفظ و معنی کا چنا غیر معمولی طور پر اہم ہو جاتا ہے۔

◇ کچھری لگانا، کچھری کے کتے

یہ محاورہ انگریزوں کے آنے کے بعد رائج ہوئے ہیں اس لیے کہ کچھری کا تصور انہوں نے ہم کو دیا ہے۔ کچھری میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کم درجہ کے ہوتے ہیں اور رشتوں میں لے لے کر اپنا کام چلاتے ہیں۔ یہی ”کچھری کے کتے“ کہلاتے ہیں۔ ”کچھری کے چکر لگانا“ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ جو روز کسی نہ کسی سلسلہ سے کچھری میں آتے جاتے رہتے ہیں اور ان میں جھوٹے گواہ بھی ہوتے ہیں مقدمہ باز بھی اور گئے گذرے وکیل بھی۔

”کچھری لگانا“ گویا کچھری کا ساما حوال پیدا کرنا ہے اور اپنے گواہوں اور وکیلوں کو ادھر ادھر منع کرنا کچھری لگانا ہوا۔ ویسے یہ بندر کی حکایت سے ماخوذ محاورہ بھی ہو سکتا ہے۔

◇ کرکری کرنا، کرکرا دینا

بے عزتی کرنا یا بے عزتی ہونا، اس کے معنی عزت میں کمی آنے اور وقار باقی نہ رہنے

کے ہیں۔ کوئی چیز اگر ریت یا مٹی کی وجہ سے کچھ خراب ہو جاتی ہے تو اسے ”کر کرنا ہونا“ کہتے ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی شے ہو سکتی ہے۔

◇ کروٹ بدلنا

ادھر سے ادھر کروٹ لینا ایک عام حرکت ہے، لیکن محاورہ میں پہنچ کر اس کے معنی دوسرے ہو جاتے ہیں اور اس میں انقلاب رونما ہونے کا تصور آ جاتا ہے اسی لیے انقلابِ زمانہ کو بھی کروٹ بدلنا کہتے ہیں۔

◇ کشیدہ خاطر رہنا یا ہونا، کشیدہ کاڑھنا

ایک گونہ ناراضگی کو شکر رنجی کہتے ہیں اور اگر اس میں ایک طرح کا تناؤ یا کھچاؤ پیدا ہو جائے تو اس کو کشیدہ خاطر کہتے ہیں یا پھر کشیدگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ قد کے ساتھ بھی کشیدہ آتا ہے وہاں اس سے مراد لمبا قد ہوتا ہے۔ اس کو کشیدہ کاری بھی کہتے ہیں اور یعنی پھول پتی کاڑھنا، دہلی میں اس کا بہت رواج رہا ہے۔

◇ کفِ دست میدان ہونا، (میدان)

جس میں جھاڑیاں ہریالی یا درخت بالکل نہ ہوں تو اسے کفِ دست میدان ہونا کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا شاعرانہ اندازِ بیان ہے کہ جسے ہتھیلی میں کچھ نہیں ہوتا ایسا ہی اس زمین کے ٹکڑے میں کوئی چیز نہیں ہوتی بس دور تک میدان ہی میدان ہوتا ہے۔

◇ کفرانِ نعمت، کفر توڑنا، کفر بکنا، کفر کا کلمہ بولنا

کفر اسلام کے مقابلہ میں بے دینی اور گمراہی خیال کیا جاتا ہے اسی لیے مسلمانوں کے عام طبقہ میں کفر کا استعمال بے دینی اور لامذہبی کے معنی میں آتا ہے اور وہ ایسے کلمات کو جنہیں مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں کفر کی باتیں کفرانہ خیالات کفر بکنا اور کافر ہو جانا کہتے ہیں۔ اگر آدمی خدا کی نعمت کا، اچھے عمل کا، اچھے خیالات کا قدر دان نہیں ہوتا تو اس کو کفرانِ نعمت کہا جاتا ہے۔ صوفیوں کے ہاں کفر کے معنی دوسرے کے ہیں۔ وہ کفر کو عین ایمان تصور کرتے ہیں۔ کفر کے کلمات بولنا عام مفہوم میں آتا ہے یعنی کافروں جیسی باتیں کرنا۔

◇ کلام اللہ اٹھانا

قرآنِ پاک کو کہتے ہیں اور قرآن کو درمیان میں رکھ کر قسم کھانا گویا اپنی سچائی دینیکی کا اظہار کرنا ہے۔ ”قرآن اٹھانا“ بھی اسی معنی میں آتا ہے اور مسلمان کلچر کے اس رویہ کو ظاہر کرتا

ہے کہ وہ قرآن کو سب سے زیادہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کلام اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ حلف اٹھانا بھی قرآن کو درمیان میں رکھ کر قسم کھانے ہی کے معنی میں آتا ہے۔

◇ کلمہ، کلمہ کا شریک، کلمہ گو، کلمے کی انگلی، (انگشتِ شہادت)

کلمہ بھی مسلم کچھر کی خاص علامتوں میں سے ہے۔ کلمہ پڑھنے کے معنی مسلمان ہو جانے کے بھی ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا یہاں کلمہ سے مراد کلمہ توحید ہے یعنی خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کے سچے رسول ﷺ کی صداقت پر گواہی دینا۔ کلمہ پڑھ کر ثواب بھی پہنچایا جاتا ہے اور اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچایا جاتا ہے یہ باتیں مسلمانوں کے کچھر اور ان کی مذہبی اور تہذیبی نفسیات میں داخل ہے۔

کلمہ کا شریک مسلمان آپس میں کہتے ہیں کہ ہم کلمہ کے شریک بھائی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو دودھ شریک بھائی یا بہن قرار دیا جاتا ہے اور چیزوں کی شرکت کچھر کے اعتبار سے بڑے معنی نہیں رکھتی ”کلمہ گو ہونا“ کلمہ پڑھنا ہے جس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ بہت تعریف کرتا ہے اور دوسرے یہ ہیں کہ وہ مسلمان ہے اور کلمہ پر یقین رکھتا ہے۔

”کلمہ کی انگلی“ داہنے ہاتھ کی پہلی انگلی کو انگشتِ شہادت کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ کلمہ کی انگلی بھی کیا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے وقت جب حضور ﷺ کا نام آتا ہے تو شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز میں کلمہ کو دہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مالک و مختار نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ﷺ ہیں یہ اس وقت شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی جاتی ہے جو اس گواہی کا نشان بن جاتی ہے۔ یہی کلمہ کی انگلی بھی ہے۔

◇ کلنک لگنا، کلنک کا ٹیکا لگانا

”یہاں کل“ کے معنی ہیں کالا اور ”انک“ کے معنی ہیں نشان۔ کالا نشان چہرے پر لگانا بدنامی اور رسوائی کا اشتہار لگا دینا ہے۔ کلنک کا ٹیکا لگانا یا لگنا بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ ہمارے محاوروں میں جو سماجی رویہ اور رسمیں موجود رہی ہیں کلنک کا ٹیکا انھی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دل میں بے عزتی، آبروئی یا رسوائی کا کوئی پہلو موجود ہوتا ہے۔

◇ کلھیا میں گڑ پھوڑنا

اصل میں ہمارے سماج کی شاعری ہے جو محاورے میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے

آتی ہے جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمانا، ناممکن سی بات ہوتی ہے اسی طرح ”کلیا“ میں گڑ پھوڑنا، بھی کوئی ایسی بات کرنا یا اس کی طرف اشارہ ہے۔

◆ کلیجہ اچھلنا، کلیجہ بڑھ جانا، کلیجہ پھٹنا، کلیجہ ٹوٹنا، کلیجہ تھام کر یا مسوس کر رہ جانا، کلیجہ ٹھنڈا ہونا، کلیجہ جلانا، کلیجہ چھلنی ہونا، کلیجہ دھڑکنا، کلیجہ دھک سے ہو جانا، کلیجہ میں رکھنا، کلیجہ پھوٹنا وغیرہ

”کلیجہ“ ہماری عام زبان میں جگر کو کہتے ہیں جسے انگریزی میں Lever کہا جاتا ہے، یہ نہایت اہم عضو ہے کہ یہی خون بناتا ہے اور اسی کے خراب ہونے سے صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ پیٹ کے بارے میں بہت سے محاورات ہیں اسی طرح کلیجہ کے بارے میں بھی ہے جس کے ساتھ دل کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے اور طرح طرح سے کلیجہ کے ساتھ نئے مفہوم معنی تسلیاں اور دعائیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ ”کلیجہ ہونا“ ہمت و حوصلہ کے لیے کہا جاتا ہے۔ ”کلیجہ پکڑ کر رہ جانا“ کسی بری خبر سانحہ اور حادثہ کا رد عمل ہوتا ہے اور عورتیں عام طور پر کہتی ہیں کہ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا یعنی ایسی حالت میں صبر کرنا مشکل ہے۔ ”کلیجہ ہاتھ میں لینا“ تسلی و تشفی کرنا عمل کے لیے کہا جاتا ہے۔ کلیجہ تھامنے کے معنی بھی یہی ہیں اس میں غم زدہ آدمی کی اپنی کوشش بھی شامل ہوتی ہے۔ ”کلیجہ بھوننا“ دل جلانے کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا کلیجہ بھون کر رکھ دیا۔

”کلیجہ کی بوٹی“ اپنی اولاد کو کہتے ہیں۔ ویسے عورتیں اپنے سے کم عمر بہنوں بھتیجیوں، بھانجیوں اور اپنی بچیوں کو بھی کہتی ہیں۔ ”کلیجہ منہ کو آنا“ بہت دکھ بھری حالت کا اظہار کرنا ہے جس کا دکھ ناقابل اظہار ہو۔ ”کلیجہ مسوس کر رہ جانا“ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے کو کہتے ہیں۔ یہ دل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور غم زدگی اور تکلیف دہ حالت میں صبر کرنا، اس کے مفہوم میں شامل ہے ”کلیجہ ٹھنڈا ہونا“ کسی کی طرف اطمینان اور تسلی ہونا جیسے اللہ پاک تمھاری اس اولاد کی طرف سے تمھارا کلیجہ ٹھنڈا رکھے۔ ”کلیجہ میں ٹھنڈک پڑنا“ کبھی سکون ہونے اور اطمینان میسر آنے ہی کے لیے کہا جاتا ہے یا آرزو پوری ہونے کے لیے کہتے ہیں جس میں آدمی کی ایریٹا (مرضی) شامل رہتی ہے۔

کلیجہ چھلنی ہونے کے معنی کلیجہ میں زخم پڑ جانا اور ناخوشی کا حد سے بڑھنا ہوتا ہے۔ ”کلیجہ دھک سے رہ جانا“ کوئی ایسی خبر سننا جو انتہائی حیرانی اور تکلیف کا سبب ہو، کہ یہ بات سن

کر تو میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ ”کلیجہ کا بلیوں اچھلنا“ خوف و خطرہ کا شدید احساس ہونا۔ یہاں کلیجہ سے مراد دل ہوتا ہے۔ ”کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا“ بھی اسی مفہوم میں آتا ہے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ”کلیجہ کی ٹھنڈک ہونا“ باعثِ راحت ہونے کو کہتے ہیں۔ کلیجہ کی بوٹیاں صدقہ کے طور پر چیل کوؤں کو کھلانا بے رحمی کا سلوک کرنا، سخت سزا دینا اور بہت کم درجہ بلکہ ذلیل سطح کا سلوک کرنا رومیوں میں یہ رواج رہا ہے جس کا عکس ہمارے اس محاورے میں آیا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں اور محاورے کے مختلف پہلو اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے ہمارے پیش نظر رہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محاورے کا زبان کے رشتہ سے ہماری تہذیب اور تاریخ سے کیا تعلق ہے اور کس طرح ہمارے محاورے میں ہمارے فکری رویہ ذہنی رشتہ اور جذباتی تعلقات ابھرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔

اسی ضمن میں ان محاوروں کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے ”کلیجہ کی پھانس ہونا“ کلیجہ پر گھونسا مارنا، ”کلیجہ پر سانپ لوٹنا“، ”کلیجہ پر ہاتھ دھر کے دیکھنا“، ”کلیجے سے دھواں اٹھنا“ وغیرہ وغیرہ۔

◇ کمر باندھنا، کمر پکڑ کے اٹھنا، کمر ٹوٹنا، کمر توڑنا، کمر سیدھی کرنا، کمر کا ڈھیلا، کمر کا مضبوط، کمر کھولنا وغیرہ

”کمر“ انسان کے بدن کی بناوٹ اور کساوٹ میں ایک خاص کردار ادا کرتی ہے انسان کمر کے سہارے پر ہی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کا کشیدہ قامت ہونا بھی اس کی کمر پر بھی منحصر ہے۔ ”کمر کا پتلا ہونا“ بدن کی خوبصورتی اور موزونیت میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے وہ چاہے کمر پر اٹھایا جائے یا سر پر کمر اس میں شامل رہتی ہے۔ کمر سے متعلق محاورے اردو میں بہت ہیں اور یہ ہماری تہذیبی روش معاشرتی تقاضوں اور آپسی رویوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ”کمر کسنا“ کمر باندھنا تیار ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ ”کمر سیدھی کرنا“ تھوڑا سا آرام کرنا ہے جس سے راحت کا احساس پیدا ہو۔ ”کمر کا ڈھیلا“ جسمانی کمزوری اس لیے کہ کمر اگر ڈھیلا ہوگی تو کام کرنے میں بھی باقاعدگی اور پھرتیلا پن نہیں آسکتا۔ ”کمر مضبوط کرنا“ اس کے خلاف ایک عمل ہے یعنی پکارا راہہ کرنا کہ ہم ایسا کریں گے۔ ”کمر ٹوٹنا“ اس کے مقابلہ میں بالکل مایوس ہونا اور احساسِ محرومی کا شکار ہو جانا ہے۔ ”کمر توڑنا“ دوسرے کو مایوس کر دینا۔ اس کے سلسلے سے کچھ اور محاورے ہیں جیسے ”کمر کھولنا“ جب آدمی ”active life“ کو ختم

کر دیتا ہے اور ایک ریٹائرڈ آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے تو اسے ”کمر کھولنا“ کہتے ہیں۔
 ◊ کنارہ کرنا، کنارہ کشی کرنا

الگ ہونا، بے تعلقی ظاہر کرنا، اکثر عورتیں یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ بی بی کنارہ کرو یعنی تعلق کم کرو۔ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہ سماجی رویہ ہے اور اس معنی میں کہ دوری یا علیحدگی اختیار کرو۔ مرد عام طور سے کنارہ کشی کہتے ہیں۔ عورتیں کنارہ کرنا اور یہ معاشرتی اندازِ نظر کو پیش کر نیوالا نہایت اہم محاورہ ہے۔ ”کنارہ“ بغل کو بھی کہتے ہیں اور اسی سے ”ہم کنارہ ہونا“ محاورہ بنا ہے۔ بے کنارہ ہونے کے معنی سمندر کی طرح ہوتے ہیں جو ادھر سے ادھر تک پھیلے ہوئے ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نہ ہو۔ اقبال کا مشہور مصرعہ ہے۔

یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر

◊ کنارے کنارے چلنا، کنارے لگانا، کنارے ہو جانا

اکثر راستہ دریاؤں کے ساتھ طے کیا جاتا تھا۔ اس لیے کہ جنگل زیادہ تھے ان میں راستہ نہیں ملتا تھا۔ ریگستانوں صحراؤں اور دشت و کوہ میں بھی راستہ کی تلاش ممکن ہوتی ہے۔ سڑکیں پہلے نہیں تھیں، بیٹائیں تھیں۔ اسی لیے دریا کے کنارے کنارے راستہ طے کرنا آسان ہوتا تھا۔ یہ گویا اس دور زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جب انسان دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور وہیں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تھی جو پانی کے دیوتا ہیں۔

”کنارے لگنا“ اچھے معنی میں بھی آتا ہے یعنی ناؤ اپنا سفر طے کر کے کنارے آگئی اور سفر ختم کرنے کی وجہ سے اسے زندگی ختم کرنے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تو کنارے لگ گئے۔ ”کنارے لگانا“ ختم کرنے کو بھی کہتے ہیں اور یہ ایک سے زیادہ معنی میں آتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کنارے لگ گئے۔ کنارے ہو جانا، الگ ہو جانا، کنارے کا درخت ہونا ایک الگ محاورہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اب عمر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کنارے پر کھڑا ہوا درخت ہے کبھی بھی کنارے کے ڈھے جائے کے ساتھ خود ہی گر پڑیگا۔

◊ کن انکھیوں سے دیکھنا

دیکھنے کا عمل بھی عجیب و غریب ہے، اس سے اپنائیت جھلکتی ہے اور اجنبیت بھی۔ اپنے پن کا اظہار بھی ہوتا ہے اور غیریت کا بھی۔ اسی لیے دیکھنے کے عمل کو گھورنے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آنکھیں لڑانے سے اور آنکھیں دکھانے جھپکانے مٹکانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

”آنکھیں پھاڑنا پھاڑ کر دیکھنا“ اور طرح کا عمل ہے۔ ”آنکھیں چرانا“ کچھ اور ہے۔ ”آنکھ لگنا“ اس سے مختلف صورت ہے۔ ”آنکھ لگ جانا“ نہ لگنے کے مقابل میں ایک اور صورت حال کو پیش کرتا ہے۔ ”آنکھیں پھیر لینا“ ایک اور عمل ہے اسی طرح ”آنکھوں میں سمانا“ الگ ہے۔ ”آنکھوں میں پھرنا“ الگ ہے۔ ”آنکھوں دیکھا ہونا“ ایک الگ تجربہ ہے نہ آنکھوں سے دیکھنا نہ کانوں سے سنا ایک اور تجربہ ہے۔ ”مڑ مڑ کر دیکھنا“ دیکھنے کا ایک الگ انداز ہے ”کن آنکھیوں سے دیکھنا“ اور عمل ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیکھنے کی روش دیکھنے کے انداز اور اسلوب کے بارے میں ہمارا معاشرہ کس کس طرح سوچتا اور الگ الگ باتوں کو سمجھتا رہا ہے اور اسے محاورات میں محفوظ کر دیا۔

◇ کندہ ناتراش

”کندہ“ لکڑی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں اور جب اس کے ساتھ ناتراش مل گیا تو اس کے معنی ”ان گھڑ“ کے ہو گئے یعنی ایک ایسا شخص جس میں تیز تہذیب نہ سیکھی ہو۔ اس سے ہم سماج کا تہذیب و شائستگی کے بارے میں نقطہ نظر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ سماج میں ملتے رہے ہیں جنہیں کندہ ناتراش کہا جاسکتا ہے یعنی غیر مہذب جن کی تربیت نہ ہوئی ہو۔

◇ کنگھی چوٹی

زیبائش آرائش بناؤ سنگار جو عورتوں کا شوق اور ان کی ضرورت ہوتی ہے اسی کو کنگھی چوٹی کہتے ہیں اور اس کا تعلق بہر حال اپنے معاشرے سے ہے، مغربی معاشرہ میں چوٹی ہوتی ہی نہیں۔

◇ کنواں کھودنا، کنویں میں بانس ڈالنا، کنویں میں جھاکننا، کنویں میں جھکانا ”کنواں کھودنا“ پانی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن شیر کو یا ہاتھی کو زندہ پکڑنے یا گرفتار کرنے کے لیے بھی کنواں کھودا جاتا ہے اور اس پر گھانس پھونس ڈال دیا جاتا ہے اور جب شیر یا ہاتھی وہاں سے گذرتا ہے تو اس کنویں یا گڈھ میں جا گرتا ہے اور پھر اس کو پلے ہوئے شیروں یا ہاتھیوں کی مدد سے پکڑا جاتا ہے۔

”کنویں میں بانس ڈالنا“ تلاش کرنے کو کہتے ہیں کہ تمھاری تلاش میں تو ہم نے کنویں میں بانس ڈالوا دیے۔ کنویں جھاکننا یا جھکانا بھی تلاش کرنا ہے مگر اچھے معنی میں نہیں ہے۔ اب کنویں باقی نہیں ہیں بیشتر کنویں بند ہو چکے ہیں۔ دہلی میں لال کنواں، ڈھولا کنواں،

اندرا کنواں اس کی مثالیں ہیں۔ پتھر والا بھی کبھی کنواں ہی تھا۔ کھاری باولی اور حضرت نظام الدین اولیا کی درگاہ سے متعلق باولی بھی بڑے کنویں ہیں۔ کھاری باولی اب نہیں ہے مگر بستی حضرت نظام کی باولی موجود ہے اور گزرے زمانے کی یاد دلاتی ہے۔

◇ کوٹھے والیاں

کوٹھا ایک خاص معنی میں بالا خانہ کو کہتے ہیں اور بالا خانہ بھی اپنا ایک اصطلاحی مفہوم رکھتا ہے یعنی طوائف کی رہائش گاہ۔ طوائف گانے والی عورت کو کہتے تھے۔ جس کو رقص کا فن بھی آتا تھا۔ گانے بجائے اور رقص کے ساتھ اپنے موسیقی کے فن کو پیش کرنے کا کام ڈونیاں بھی کرتی تھیں مگر وہ عورتوں کی محفلوں میں گاتی بجاتی تھیں۔ ویسے ڈومنی کا اصطلاحی لفظ طوائف کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ درگاہ قلی خان سرسالار جنگ اول نے عہد محمد شاہی میں جو دہلی کا سفر کیا تھا اس کی روداد مرقع دہلی نام کی کتاب میں ملتی ہے انھوں نے دہلی کی اس وقت کی طوائفوں کو ڈومنی کہا۔

طوائفیں بڑی مالدار اور ڈیرہ دار بھی ہوتی تھیں۔ ڈیرہ دار طوائفیں وہ طوائفیں کہلاتی تھیں جن کے پاس نو عمر لڑکیاں بھی ہوتی تھیں اور ان کے لیے رقص و سرود کا کام بھی کرتی تھیں ان کو نوچنا کہتے تھے۔ انگریز جب ہندوستان میں آئے اور انھوں نے طوائفوں سے ذہنی رابطہ پیدا کیا تو وہ انھیں لال بی بی کہہ کے پکارتے تھے۔

طوائف کے کوٹھے پر ان کے درجہ کے مطابق امرا اور صاحب ثروت لوگ جاتے تھے۔ بادشاہوں کی بھی طوائفیں محبوب شخصیتیں ہوتی تھیں۔ طوائف کے کوٹھے کی تہذیب اُردو شاعری اور ادبی شعور پر بہت اثر انداز ہوئی ہے۔ داغ کی شاعری میں تو اس کی بے طرح جھلکیاں ملتی ہیں عام زبان میں طوائف کو ”کوٹھے والی“ کہتے ہیں۔

◇ کوچہ گردی کرنا

”کوچہ“ گلی محلے کو کہتے ہیں اور طوائف کے کوٹھے کو بھی ”کوچہ“ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کوچہ گردی ایک خاص مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کہتے ہیں تو اس سے مراد طوائف کے کوٹھے پر آنا جانا ہے۔ اسی لیے اقبال نے فرنگیوں کے لیے کوچہ گرد کا لفظ استعمال کیا۔ گلی کوچہ دہلی کی زبان میں عام استعمال میں آتا ہے۔

◇ کودوں دلانا، کودوں

مشرقی یوپی میں ایک بہت معمولی قسم کا اناج ہوتا ہے اس کو کودوں کہتے ہیں۔ پہلے

زمانہ میں پیسے کی کمی تھی اس لیے چیزوں کے بدلہ میں اناج دیا جاتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک یہ سسٹم کافی رائج تھا اور اب بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ کو دوں بہت کم درجہ کا اناج ہے اس لیے ”کو دوں دے کر پڑھنا“ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا مفت پڑھے ہیں۔ یہ وہی بات ہوئی جس کا اظہار ہم کوڑیوں کے حوالہ سے بھی کرتے ہیں۔ کوڑیوں کے مول خریدنا، یعنی جو چیز بہت سستی مل جائے اسے کوڑیوں کے مول سے نسبت دی جاتی ہے۔ کوڑیاں بھی سکے یا پیسے نکلے کے طور پر چلتی تھیں۔ اور دوسری جنگ عظیم تک چلتی رہیں۔

یہ محاورے اس دور زندگی کی یاد دلاتے ہیں جب پیسے پاس ہونا بڑی بات تھی اور اسی سے یہ محاورہ بھی نکلا ہے۔ پیسہ دیکھا ہے یا پیسے کا منہ نہ دیکھو۔ پیسہ پانی کی طرح نہ بہا یا پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے۔ ”پیسے پیسے کو محتاج ہونا“ بھی اسی سلسلے کا محاورہ ہے اور اس سے ہماری سماجی حیثیت کا بھی تعین ہوتا ہے اور سماج میں پیسے کی اہمیت کا بھی۔

◇ کوراء، کورا برتن کورا رکھنا، کورا رہ جانا، کورا سر، کورے بال رکھنا، کورے اُسترے سے سر موٹنا، کوڑا کرنا، کوڑا مارنا

کوراء ایسی کسی شے یا برتن کو کہتے ہیں جس کا استعمال ابھی نہ کیا گیا ہو کہ وہ تو ابھی تک بالکل کورا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے یا عقل مند نہیں ہوتے ان کو بھی کورا کہہ کر یاد کیا جاتا ہے کہ اس معاملہ میں بالکل ہی کورے ہیں۔ دہلی میں ”کورا رکھنا“ بھی محاورہ ہے جس سے مراد ہے کسی شے کو اٹھا کر رکھنا، کسی شے کا استعمال نہ کرنا اور اسے حفاظت سے رکھے رہنا۔ کورا سر اور کورے بال دہلی والوں کا خاص محاورہ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ سر میں تیل نہ لگانا، سنگار پٹار کے بغیر رہنا۔ جس کو اچھا خیال نہیں کیا جاتا۔ کورے اُسترے سے سر موٹنا یعنی بری طرح سر موٹائی کرنا، بیوقوف بنانا اُلٹے اُسترے سے حجامت بنانا یا کھنڈے اُسترے سے سر موٹنا بھی قریب قریب اسی معنی میں آتا ہے۔

جہاں تک کورے برتن کی بات ہے ہمارے گھریلو معاشرے میں وہ تعریف کے لائق بات ہے نظیر اکبر الہ آبادی کی مشہور نظم ہے۔

واہ کیا بات کورے برتن کی

کوڑا مارنا یا کوڑے لگانا سزا دینا اور کوڑوں سے مارنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قبائلی زندگی اور قدیم عرب میں یہ سزا بہت عام تھی۔ دہلی میں گھوڑے کو کوڑا لگانا جس معنی میں آتا ہے اسی معنی میں کوڑے کرنا بھی آتا ہے۔

◇ کوڑی کے تین تین بکنا، کوڑی کے کام کا نہیں، کوڑیوں کے بھا بھی مہنگا ہے
 کوڑی کے تین تین بکنا، بہت سستا ہونا، جس کی گویا کوئی قیمت ہی نہیں یعنی اس کی
 قیمت تو ایک کوڑی بھی نہیں ہے یہ اس میں بھی مہنگا ہے، یہ بھی کسی شے کو انتہائی کم قیمت قرار دینا
 ہے۔ مغربی یوپی میں کوڑی ”کوڈ“ سے لکھا جانا ہے دہلی میں استعمال ہوتا ہے۔

◇ کوٹھوکا بیل، کوٹھوکاٹ کر موگری بنانا، کوٹھوکے بیل کی طرح پلنا

کوٹھوکا بیل آنکھیں بند کیے ایک ہی دائرہ میں چکر لگاتا رہتا ہے اسی لیے جہاں
 سے چلتا ہے وہیں کھڑا ہوتا ہے یعنی اس کے سفر کی کوئی منزل نہیں ہوتی اسی لیے مولانا حالی
 نے ایک موقع پر کہا تھا یہ کوٹھوکے کچھ بیل سے کم نہیں ہے۔ جہاں سے چلے تھے وہیں کے
 وہیں ہیں۔

”کوٹھوکاٹ کر موگری بنانا“ یہ دہلی کا محاورہ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بڑی
 چیز کو قربان کر کے چھوٹی چیز حاصل کرنا جو بہر حال بیوقوفی کی علامت ہے اور نفع نقصان کو نہ سمجھنا
 ہے۔ اسی لیے اسے ایک گہرا طنز خیال کیا جاتا ہے۔

◇ کوٹھو میں پلوادینا

بے حد شدید اور عبرت ناک سزا ہے۔ پہلے زمانہ میں سزائیں بہت سخت تھیں۔ مثلاً
 سولی دینے کی سزا، آنکھیں نکلوانے کی سزا، بوٹیاں چیل کوڈوں کو کھلانے کی سزا۔ اسی طرح پہلے
 زمانہ میں زندہ انسانوں کو کوٹھوں میں ڈال دینے اور پھر ان چیزوں کی طرح جو کوٹھو میں ڈال کر
 پلوائی جاتی تھیں، انسان کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دینے کی سزا۔ یہ آج بھی محاورے کی صورت
 میں اپنے بے حد تکلیف دہ احساسات کے ساتھ زندہ ہے اور ہماری تاریخ کے بہت المناک
 واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ محاوروں میں کس طرح
 تاریخی حقائق کو آئیوالی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے ایک چھوٹا جملہ محاورے کی شکل میں تاریخ
 کا مرقع ہوتا ہے۔

◇ کوہ قاف، قاف سے قاف تک

پہاڑوں کا وہ سلسلہ جو ”قاف“ کی شکل میں پایا جاتا ہے پہاڑوں کا ہماری تاریخ
 تہذیب اور انسانی معاشرے کے ارتقا سے خاص خاص مراحل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوہ قاف،
 قاف کی شکل کے پہاڑی سلسلہ کو کہتے ہیں جس کی طرف اُپر اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ شمالی ایران کا

وہ علاقہ ہے جو آگے جا کر جنوب مشرقی روس سے مل جاتا ہے اسی کا مشہور شہر آرمینیا ہے۔ اس پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بھی کہا گیا ہے اور کوہِ قاف کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ سونے کا ایک پہاڑ ہے جو تمام روئے زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی معنی میں ”قاف تا قاف“ کا مفہوم یہ ہوا کہ کوہِ قاف کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک جس میں ساری دنیا آ جاتی ہے۔

کوہِ قاف کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں یا سمجھی جاتی تھیں اسی لیے حسین عورتوں کو کوہِ قاف کی پریاں کہتے تھے اور ہماری کہانی و داستانوں میں ان کا ذکر بطور خاص آتا تھا یہ گویا ایک وقت میں کوہِ قاف سے متعلق ہمارے تصورات تھے اور اس کی خوبصورت عورتوں کے بارے میں ہمارے خواب و خیال جس طرح ہندوی کلچر میں اپسرائیں ہوتی ہیں اسی طرح فارسی و اردو میں روایتی حسن اور نسوانی کشش کو اور سماج کی ذہنی تصویروں کا مرقع ہماری نظر میں پھر جاتا ہے۔

◇ کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا یا نہیں سوئے گا

قبر ہماری تہذیب میں موت سے متعلق اپنے خیالات و سوالات کی ایک علامت ہے خاک لحد، مزار سنگ لحد، لوح مزار، کفن کا فور وغیرہ موت کی رسومات سے متعلق ہیں اور ہزاروں برس کی روایت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔

اہرام مصر بھی مقبرہ ہیں اور تاج محل بھی مقبرہ ہے، بنیادی طور پر قبر کی روایت سے متعلق ہیں۔ قبروں پر جا کر ہم پھول چڑھاتے ہیں، خوشبودار چیز جلاتے ہیں ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ فاتحہ درود مردے کو پہنچتی ہے۔ قبر میں جو راحت یا عذاب ہوتا ہے وہ مردے کے اپنے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ یہیں سے یہ محاورے پیدا ہوا ہے کہ کوئی کسی کی قبر میں نہ سوئے گا یعنی دنیا میں جو خود کریگا قبر میں ثواب یا عذاب الہی کا نتیجہ ہوگا۔

ہر ایک کے اپنے اعمال قبر میں اس کے ساتھ ہوں گے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کے اعمال اس کے ساتھ اور میرے اعمال میرے ساتھ اس سے مراد قبر ہی ہے۔ جہاں مسلمانوں کے عام عقیدہ کے مطابق انسان کا اعمال نامہ اس کے ساتھ ہوگا نیکی بھی اور بدی بھی۔

◇ کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں

دانت انسان کے چہرہ مہرہ میں خاص کردار ادا کرتے ہیں اور ان سے بہت سے محاورات وابستہ ہیں لیکن یہ محاورہ ایک خاص طرح کا سماجی محاورہ ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے

سے بے تعلق ہے اور کوئی کسی کے ذاتی معاملہ یا مسئلہ سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ یہ پوچھے کہ تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ بہت سے مسائل غیر ضروری بھی ہوتے ہیں انھیں کوئی دوسرا کیوں چھیڑے اور غیر ضروری طور پر دوسروں کے معاملات میں دخل دے۔

◇ کھڑے گھاٹ دھلوانا

دھوبیوں کا محاورہ ہے اور ایسے طبقہ کے لیے ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے ابھی دھو دو مجھے کہیں جانا ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے پاس اور کپڑے نہیں ہیں، نئے کپڑوں کا تو سوال ہی نہیں اس لیے کہ دھوبی کے گھر کے کپڑے بھی غنیمت ہوتے ہیں دھلے ہوئے اور انھی کے لیے درمیانی طبقہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دھوبی کے گھر کے ہیں۔ اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری معاشرتی زندگی کس طرح ہمارے محاوروں میں جھلکتی ہے۔

◇ کھوٹا پیسہ یا کھوٹا بیٹا وقت پر کام آتا ہے

یہ محاورہ ہماری سماجی فکر کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ پیسہ ہونا یوں بھی مشکل ہوتا ہے اور پہلے زمانہ میں تو پیسہ کا میسر آنا بڑی بات تھی اسی طرح بیٹا ہونا چاہے وہ نالائق ہی کیوں نہ ہو سکون کا باعث ہوتا تھا اور آدمی کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس کی بھی تعریف کرے اسی لیے یہ محاورہ رائج ہوا کہ یہ کھوٹا پیسہ اور کھوٹا بیٹا ہی وقت پر کام آتے ہیں۔

◇ کھونٹے کے بل کو دنا، کھونٹے سے باندھنا

یہ بہت اہم محاورات میں سے ہے اور اس گھریلو زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں جانور یا مویشی زندگی میں داخل رہتے ہیں اسی لیے کھونٹے سے بندھنا یا باندھنا کا محاورہ رائج ہوا۔ اگر جانور کو کھونٹے سے نہیں باندھا جائے گا تو وہ کہیں بھی ادھر ادھر نکل جائے گا اور کوئی اس کو پکڑ لے گا۔

علاوہ بریں ”کھونٹے سے لگنا“ بھی محاورہ ہے اور وہ بھی جانور کی وفاداری کے معنی میں آتا ہے کہ جب جانور جنگل باہر سے گھریا گھر کی طرف آتے ہیں تو وہیں جا کر کھڑے ہوتے ہیں جہاں ان کا کھونٹا ہوتا ہے۔

یہاں سے ایک اور محاورہ پیدا ہوا کہ جانور کو اپنے کھونٹے کا بڑا سہارا ہوتا ہے اور وہ اسی سہارے پر کودتا یا اچھلتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اپنے سر پرست یا خاندان کے بزرگ کے بل بوتے پر غلطیاں بھی کر جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میرے بڑے اس کو نمٹالیں گے اور مجھے

کوئی تکلیف نہیں پہنچنے گی اس کے مقابلہ میں قصائی کے کھونٹے سے بندھنے کے معنی تکلیف اٹھانے اور چھری تلے جانے کے ہیں۔ ایک محاورہ بھی اسی سلسلہ کا ہے کہ تم کہیں بھی کھلے بندھے نہیں ہو یعنی تم نے اچھا برا وقت نہیں دیکھا۔

◇ کھیل اڑ کر منہ میں نہیں گئی

یعنی کھانے پینے کو کچھ بھی دیکھا اور کوئی تجربہ یا ذہنی تربیت حاصل نہیں کی۔

◇ کیل کا یا کیلی کا کھٹکا نہیں

یہاں کسی بات کا خوف و ڈر یا اندیشہ نہیں ہے یعنی محفوظ جگہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ محاورہ ذیل میں بہت عام ہے۔

رویف گ

◇ گاڑھی چھنا

یہ نشہ کرنیوالوں کا محاورہ ہے اور اس کا تعلق بھنگ پینے سے ہے۔ ہمارے یہاں بھنگ پینے کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا وہ مہ نوشی کے مقابلہ میں ادنیٰ درجہ کا نشہ تھا۔ اسی لیے جو لوگ بھنگ پیتے تھے وہ بھنگ کہلاتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کو بھنگی کہا جانے لگا۔ بھنگ کر دینا یا بھنگ ہو جانا ہندی زبان میں منتشر ہونے کو کہتے ہیں اسی لیے بھنگ کر دی گئی برخاست کر دی گئی۔ منتشر کرنے کے معنی میں آتا ہے۔

بھنگ کا نشہ بہت شدید ہوتا ہے۔ سادھو سنت بھی جو جنگلوں میں رہتے تھے وہ یہ نشہ کرتے تھے مگر بیشتر یہ نشہ بہت ہی ادنیٰ اور چھوٹے طبقہ میں رائج ہوتا تھا۔ گاڑھی چھنی کہ یہ معنی ہیں کہ بھنگ کو باریک کپڑے میں چھانا گیا۔ یہ اس سے وہ اور زیادہ نشے والی ہو جاتی تھی اور جب کسی سے گہری دوستی بے تکلفی کے ساتھ تعلقات بڑھتے تھے تو اسے بھی ”گاڑھی چھنا“ کہتے تھے کہ آج کل تو ان کے غضب کے تعلقات ہیں خوب گاڑھی چھنتی ہے۔

◇ گالیوں کا جھاڑ باندھنا

گالی ہماری معاشرتی زندگی میں بے طرح رائج رہی ہے اور آج بھی ہے۔ ہم دوستی اور محبت میں گالیاں دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ نفرت و حقارت کے ساتھ بھی گالیوں کی بوچھاڑ باندھی جاتی ہے اور بے تحاشہ گالیاں دی جاتی ہیں اسی کو گالیوں کا جھاڑ باندھنا کہتے ہیں

ذوق کا شعر ہے۔

نہ جھاڑا غیر کو جو تجھ سے ہو کر جھاڑ لیٹا تھا

مجھی پر گالیوں کا جھاڑ تو نے بدگماں باندھا

”جھاڑ“ درخت کو بھی کہتے ہیں اور روکھے سوکھے کانٹے دار بڑے بڑے پودوں کو بھی۔

◇ گانٹھ باندھنا، گانٹھ پڑنا، گانٹھ جوڑنا، باندھنا، گانٹھ کا پورا، گانٹھ کا بھرا، گانٹھ کا پیسا، گانٹھ کا کھوٹا، گانٹھ کھولنا

گانٹھ ہماری عام زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جو سماج کے ذہن و زندگی سے گہرا رشتہ رکھتا ہے۔ ”گانٹھ“ گرہ کو کہتے ہیں اور جو محاورے گانٹھ سے متعلق ہیں وہ گرہ سے بھی مثلاً گرہ دینا، گرہ لگانا، گرہ دار ہونا، گرہ باندھنا، گرہ میں رکھنا، گرہ پڑنا۔ سب ہی وہ محاورے ہیں جو ایک کے سوا گانٹھ کے ساتھ آتے ہیں۔ کیونکہ مہذب طبقہ گانٹھ کو اپنے ہاں گفتگو میں لانا پسند نہیں کرتا اسی لیے گانٹھ کے ساتھ آئیو الے محاورے گرہ کے ساتھ آتے ہیں ”گرہ لگانا“ شاعری کی اصطلاح ہے۔ اور ایک مصرعہ پر دوسرا مصرعہ کہنے کو ”گرہ لگانا“ کہتے ہیں۔ گرہ کوئی دوسرا شخص لگاتا ہے۔ ”گرہ کھولنا“ بات کا رمز یا جانا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے اس گرہ کو کھولا یا دل میں جو گرہ پڑ گئی تھی اس کو اپنی تدابیر یا اپنی گفتگو سے دور کیا۔ پیاس ہوتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی کی اپنی گرہ یا گانٹھ میں ہے کسی استاد کا شعر ہے۔

دل کا کیا مول بھلا زلف چلیپا ٹھہرے

تیری کچھ گانٹھ گرہ میں ہو تو سودا ٹھہرے

”گانٹھ کا پورا ہونا“ پیسے کا کسی کی اپنی گانٹھ گرہ میں ہونا ہے۔ شاعری میں استادوں

ہی کے ہاں سہی گانٹھ کا لفظ آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ کبھی اچھی سوسائٹی میں بھی رائج تھا مگر سنجیدہ موقعوں کے لیے نہیں۔

◇ گدگدی کرنا، گدگدی اٹھنا، گدگدی دل میں ہونا

اصل میں گدگدی بدن کی ایک خاص حالت کو کہتے ہیں جو خواہش پیدا کرنا، خوش ہونا

اور خوش کرنے کی تدبیر کرنا بھی شامل ہے۔ اسی لیے بچوں یا بڑوں کے کی جاتی ہے اور دل میں

گدگدی اٹھنے کے معنی خواہش ہونا ہے۔ بچوں جیسی معصوم خواہش جو آدمی کو ایک سطح پر والہانہ انداز کی

طرف لے آئے۔ ”گدگدی کرنا“ ہندی میں محاورہ ہے اور اس کے معنی بھی جی میں خوش ہونا ہے۔

◇ گراں گذرنا، گراں بار

بوجھ گراں بھاری قرضہ ہو یا اور کوئی سماجی مجبوری اس کے لیے جو آدمی تکلیف اٹھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور اپنے دل پر ایک طرح کا بوجھ محسوس کرتا ہے اس کو گراں باری کہتے ہیں۔ بوجھ یعنی ”گراں بار ہونا“ طبیعت پر گرانی ہے یعنی ایک طرح کا بوجھ اور ناخوشگوار صورتِ حال پیدا ہوتی ہے۔ گراں گزرنے کے معنی کوئی حرکت کوئی بات یا کوئی اشارہ کنایہ برا لگنا ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے۔

وہ بات سارے فسانہ میں جس کا ذکر نہیں

وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری

یہی گراں گزرنہ بھی ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے محاورے کس طرح ہماری انفرادی یا معاشرتی الجھنوں کو پیش کرتے ہیں۔

◇ گردش میں ہونا

گردش کا تعلق بنیادی طور پر ستاروں سے ہے۔ جب ستارے غیر مناسب ہوتے ہیں اور انسان کے حالات کو فیور (Favour) کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تو کہتے ہیں کہ آج کل اس کے ستارے گردش میں ہیں، یعنی پریشانی اور مصیبت کے دن ہیں اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک علم نجوم کے بہ اعتبار اور دوسرے علمی اور فکری باتوں کو محاورہ کے دائرہ میں لانا۔ یہاں یہ اشارہ کرنا غیر ضروری نہ ہوگا کہ ہمارے محاوروں کا رشتہ زندگی کے ہر سطح کے معاملات خیالات اور سوالات سے رہا ہے۔

◇ گردن پر بوجھ ہونا، گردن پر خون ہونا، گردن پر سوار ہونا، گردن پھنسانا، گردن پھیرنا، گردن جھکانا، گردن کا ڈورا، گردن مارنا، گردن مروڑنا، گردن میں ہاتھ ڈالنا، گردن ناپنا وغیرہ

گردن حیوانی یا انسانی وجود میں غیر معمولی اہمیت رکھنے والا وجود کا حصہ ہے۔ انسان کی گردن تو اس معاملہ میں اور بھی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سر سے نسبت رکھنے والے بہت سے محاورے گردن ہی کی کسی نہ کسی سطح پر تعلق رکھتے ہیں مثلاً ”گردن اوپنچی کرنا“، سراونچا کرنا ہے۔ ”گردن جھکانا“ سر نیچا کرنا ہے۔ ”گردن کاٹنا یا کٹوانا“ قتل کیے جانے کے معنی سے بہت قریب ہے۔ سر کٹنے کے معنی بھی یہی ہیں۔ ”گردن پر سوار ہونا“ آدمی سے معمولی درجہ کی محنت

لینا اور اس کے لیے مصیبت کھڑی کرنا۔ میرے لیے مصیبت بنا ہوا ہے اور مجھے بہت معمولی درجہ کی چیز سمجھ کر کام لے رہا ہے۔ ”گردن مارنا“ بھی قتل کر دینے کے معنی میں آتا ہے اور گردن اڑانا بھی۔ مصرعہ

شرع کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن

”گردن ٹھہرنا“ بچوں کے لیے آتا ہے۔ شروع شروع میں بچے اپنے سر کو یا گردن کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتے اسی لیے ان کی گردن کو ہاتھ کا سہارا دیا جاتا ہے۔ گنڈا تعویذ، نیلا دھاگا گردن ہی میں پہنایا جاتا ہے۔ ہار چمپکلی، (چمپا کلی) گلوبندا اور جگنو بھی گردن ہی کے زیور ہیں۔ ”گردن میں ہاتھ ڈالنا“ محبت اور بے تکلفی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مگر گردن پکڑنے کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے۔ ”گردن چھڑانا“ لڑائی جھگڑے سے نمٹنا یا قرض کے بوجھ سے ادا ہونا۔ ”گردن پھنسانا“ یا پھنسا دینا غیر ضروری اور غیر معقول ذمہ داریاں عائد ہو جانا یا کر دینا ہے۔ ”گردن ناپنا“ سخت سزا دینا اور برا سلوک کرنا سخت انتقام لینا ہے۔

”گردن پکڑنا“ کسی کو ذمہ داری نبھانے کے لیے جائز یا ناجائز طور پر سختی سے آمادہ کرنا کہ آخر میں نے اس کی گردن پکڑی جب قابو میں آیا۔ اس طرح گردن سے متعلق محاورے ہمارے سماجی رویوں کے ایک سے زیادہ پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کس طرح دیکھتے ہیں اور غیروں سے ہمارا معاملہ کرنے کی سطح غلط یا صحیح طور پر کیا رہتی ہے۔

◇ گڑیوں کا بیاہ، گڑیوں کا کھیل

اصل میں ہمارے یہاں گڑیاں سماجی زندگی کا وہ رخ پیش کرتی ہیں جو گھر آنگن سے متعلق ہوتا ہے۔ کپڑے کی گڑیاں بنانا تو گھر کی عورتوں کا ایک ایسا کام تھا جس سے بچے خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کے کھیلوں میں اور خاص طور پر بچیوں کی گھریلو دلچسپیوں میں گڈا گڑیاں ان کے چھوٹے چھوٹے زیور لباس زندگی سے شوق پیدا کرتے ہیں۔ اس میں گڈا گڑیا کا بیاہ بھی ہے جس میں گھریلو رسموں کی نقل کی جاتی ہے۔ کوئی گڈے کی ماں بنتی ہے تو کوئی گڑیا کی۔ اسی طرح لین دین اور بری چیز کی رسمیں ادا ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے جس کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہم گڈوں اور گڑیوں کے کھیل میں دیکھتے ہیں، نقل اتارنا یوں بھی بچوں کا دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے اور گھر کی بچیوں کو تو اس کا خاص طور پر شوق ہوتا ہے۔

◇ گل کھلانا، گل کھلنا

ہمارے کلچر میں پھول کی بڑی اہمیت ہے۔ پھول خوشی کے موقع پر بھی کام آتے ہیں اور غم کے موقع پر بھی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، برسی کے موقع پر بھی پھول بھینٹ کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دہلی میں تیجہ کی رسم پھول کھلاتی ہے اور قدیم بادشاہت کے زمانہ میں بھی رائج تھی۔ بے تکلف اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کو گل چھڑے اڑانا کہتے ہیں۔ ”گل کھلانا“ انوکھی بات کرنا ہے جس سے لوگ پریشان ہوں اور اس پر حیرت کریں کہ یہ کیا ہو گیا۔ ”گل کھلنا“ ایسے ہی کسی واقعہ کو کہتے ہیں گلزارِ نسیم میں گل بکاؤلی کے اڑائے جانے پر نسیم نے لکھا ہے۔

دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے
کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے

◇ گلے پر چھری پھیرنا یا چلانا، گلا کاٹنا، کھنڈی چھری سے ذبح کرنا

جن قوموں میں جانوروں کو ذبح کرنے کا رواج ہے وہ جاندار کا گلا چھری سے کاٹتے ہیں اسی کو چھری پھیرنا کہتے ہیں، اسے چھری چلانا بھی کہا جاتا ہے۔ یہی محاورہ بن گیا اور کسی پر ظلم و زیادتی اور نہ انصافی کرنے کو ”گلے پر چھری چلانا“ کہتے ہیں۔ جس کے معنی گلا کاٹنا ہے اور یہی کام جب بھونڈے انداز سے کیا جاتا ہے اور بدتمیزی روارکھی جاتی ہے تو اسے کھنڈی چھری سے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ یہ محاورہ مسلمان قوموں میں رائج رہے ہیں ہندوؤں نے ایسے قبیلوں میں اس طرح کے محاورے رائج ہو سکتے ہیں جن کے یہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ تلوار سے گردن اڑادی جاتی ہے کاٹی نہیں جاتی یہ فرق ہے جو چھری یا تلوار سے گردن کاٹنے میں ہے۔

◇ گلے پڑنا، گلے کا ہار ہونا

”گلے پڑنا“ کسی ایسے شخص کے عمل کو کہتے ہیں جو اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا پھرتا ہے اور انھیں مشکلات میں پھنساتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خواہ مخواہ کی مصیبت گلے آ پڑی۔ گلے کا ہار ہو جانا کسی مصیبت کا یا مشکل کام کا مستقل طور پر گلے کا ہار ہونا ہے۔ ہار ایک خوبصورت شے ہے، گلے کا زیور ہے۔ لیکن محاورہ میں اس کا استعمال زیب و زینت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مشکلات و مصائب سے رشتہ رکھتا ہے جن میں پڑنا آدمی کے لیے

ناخوشگواری بلکہ ناگواری بڑھتی ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ زبان کے استعمال اور سماجی سطح پر جو کسی معاشرہ کی نفسیاتی سطح ہوتی ہے۔ الفاظ کیا کیا معنی اختیار کرتے ہیں اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ”گلے مندھنا“ بہت کچھ اسی معنی میں آتا ہے۔ ”گلے میں زنجیر پڑنا“ ایک طرح سے پھنس جانے کے معنی میں آتا ہے اس لیے کہ جانور کو اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھونٹے سے باندھا جاتا ہے۔ زنجیر اس کے بعد کی بات ہے اور اس سے زیادہ سخت اور بری بات ہے اور ”زنجیر کرنا“ بھی محاورہ ہے اور گلے ہاتھوں یا پیروں میں زنجیر باندھنے کو کہتے ہیں میر کا شعر ہے۔

بہار آئی دوانہ کی خبر لو اسے زنجیر کرنا ہے تو کر لو

◇ گنج شہیداں، گنج قارون، گنجے کو خدا ناخن نہ دے

”گنج“ اردو زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ خزانہ کے معنی میں بستی یا محلے کے معنی میں اور سر کے بال اڑ جانے کے معنی میں عام طور سے جب کسی کو گنجا کہتے ہیں تو اس سے مراد اس کے سر کے بال اڑنے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔

”گنجے کو خدا ناخن نہ دے“ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی عیب دار آدمی کو اگر کوئی قوت حاصل ہوگئی کوئی موقع ہاتھ آ گیا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ گنج شہیداں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کسی جنگ میں شہید ہونے والے بہت سے لوگ دفن کر دیے جاتے ہیں۔

”گنج قارون“ قارون ایک کلاسیکی کردار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مصر کے کسی بادشاہ کا وزیر مالیات تھا اور اتنا مالدار تھا کہ اس کا خزانہ اونٹوں پر لد کر جاتا تھا اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس کی چابیاں اتنی تھیں کہ وہ اونٹوں پر لد کر جاتی تھیں۔ یہ مبالغہ ہے اور داستانی انداز میں پیش کیا گیا ہے لیکن قدیم زمانہ کے بادشاہوں کے ساتھ ان کے خزانوں کا بھی ذکر آتا ہے جیسے خسرو پرویز کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس سات خزانے تھے ایک کا نام گنج شایگان تھا، دوسرے کا نام گنج رایگان وغیرہ اس سے یہ پتہ چلا کہ محاورے ہماری روایتوں کو محفوظ کرتے ہیں اور محاورات میں ڈھل کر یہ روایتیں ہمارے سماجی حافظہ کا حصہ بن جاتے ہیں۔

◇ گنگا جمنی، گنگا نہانا

گنگا ہندوستان کا مقدس دریا ہے ممکن ہے دارڑوں کے زمانہ میں بھی اسے مقدس خیال کیا جاتا ہو لیکن آریاؤں کے دور میں تو رفتہ رفتہ اس کی پوجا ہونے لگی اور اس کو ہر مہر گنگے کہا

جانے لگا۔ اس سے نگاہ کے ساتھ پاکیزگی اور مذہبی تقدس وابستہ ہو گیا اور اسی لیے گنگا کا پانی اس تقدس کی ایک علامت بن گیا۔ اسی لیے پھول گنگا میں پھینکیں جاتے ہیں اور بھجن پیش کیے جاتے ہیں۔ ”گنگا میں نہانے“ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کا بدن اور اس کی روح پاک ہوگئی تو جب بڑے کام سمٹ جاتے ہیں تو محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ تم تو گنگا نہا لیے یعنی ساری اُلجھنوں اور ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے اب ہر طرح پاک صاف ہیں اور آزاد ہیں۔

الہ آباد کے قریب وہ مقام ہے جس کو پریاگ کہتے ہیں۔ جہاں گنگا اور جمنا دونوں ایک الگ ندیاں مل جاتی ہیں اور بہت دور تک پانیوں کے دھارے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دونوں کے الگ الگ رنگ پہچانے جاتے ہیں اسی کو ہم نے ایک محاورے میں بدل دیا اور گنگا جمنی تہذیب کہا جو ہندوستان کی ایک تہذیبی خصوصیت بن گئی اُردو کو بھی اس کے ملے جلے کردار کی وجہ سے گنگا جمنی زبان کہتے ہیں۔

◇ گوشت سے ناخن کا جدا کرنا یا گوشت سے ناخن جدا ہونا

گوشت سے ناخن کا جدا کرنا یا ہونا اُردو میں عام طور پر بہت مشکل اور ناممکن بات کو کہتے ہیں غالب کے ایک شعر میں اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

دل سے ثنا تیری انکشتِ حنائی کا خیال

ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا

(غالب)

اب ظاہر ہے کہ اب اس محاورے کا جو انداز ہے وہ مسلم کلچر سے وابستہ کرتا ہے۔ ویسے جس اٹوٹ رشتہ کی طرف اشارہ موجود ہے وہ ایک تہذیب کا ایک مشترک عنصر ہے۔ ہندو عام طور پر اپنی زبان میں گوشت ہڈی اور خون کا بے تکلف ذکر نہیں کرتے۔

◇ گوشمالی دینا، گوشمالی کرنا یا ہونا

سزا دینے کے معنی میں آتا ہے ”گوش“ فارسی میں کان کو کہتے ہیں اُردو میں فارسی کی نسبت بہت ترکیبی الفاظ گوش کے ساتھ آتے ہیں، جیسے گوش ہوش، حلقہ بگوش، گوش سماعت سننے والا کان، کان اینٹھنا، کان پکڑنا، کان مروڑنا یہ سب کان کے ذریعہ دی جانے والی سزائیں ہیں اور ان کو عام طور سے گوش مالی کے تحت رکھا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ سزاؤں کا اور اعضا سے وابستہ ہے۔ زبان کاٹ لینا، کان کاٹنا، دانت توڑنا، پیٹ پھاڑنا، ہاتھ پاؤں توڑ دینا وغیرہ۔

◇ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا

گھاٹ دریا کے ایسے حصے یا کنارے کو کہتے ہیں جہاں سے کشتیوں میں سفر شروع ہوتا ہے یا پھر کپڑے دھوتے ہیں۔ غرضیکہ گھاٹ کا رشتہ رہ گزر سے بھی ہے اور دریا کے ایسے کنارے سے بھی جس کا جانوروں اور انسانوں کا واسطہ پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس طرح جہاں دریا بہتے ہوں اور ان سے گزر ممکن ہو گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا زیادہ سے زیادہ دریائی سفر کے تجربہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اس میں دوسرے تجربہ بھی شامل ہیں۔

◇ گونگے کا خواب

خواب دلچسپ ہوتا ہے مگر وہ اسے بیان نہیں کر پاتا اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جن باتوں کو محسوس کرتا ہے جان لینا ہے وہ ان کو بیان نہیں کر پاتا تو وہ گونگے کا خواب ہوتا ہے۔ ایک اور محاورہ بھی اسی معنی میں آتا ہے اور وہ ”گونگے کا گڑ“ ہے یعنی وہ گڑ کا مزہ تو جان گیا مگر اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ان لفظوں کو بدل کر ”گونگے کی مٹھائی“ بھی کہہ سکتے ہیں مگر ہماری عوامی زندگی میں گڑ ایک آئیڈیل مٹھائی تھی۔ خوشی کے موقع پر گڑ کی ڈلیاں بانٹی جاتی ہیں اور اسے محاورے میں گڑ بٹنا یا گڑ باٹنا کہتے ہیں۔ ایک اور کہاوت ہے ”گڑ نہ دے گڑ جیسی بات کہہ دے“ یعنی ان عوام کے یہاں گڑ ایک تہذیبی علامت تھا یا رہا ہے۔ وہ گڑ کی بھیلی جب کہتے تھے تو اس سے بہت اچھی شخصیت مراد لیتے تھے اور یہ کہتے نظر آتے تھے کہ اس کا کیا ہے وہ تو گڑ کی بھیلی ہے۔ ان کے یہاں گڑ ایک اچھی بات ایک اچھا لہجہ کی علامت تھا اور جو لوگ اپنی بات بدلتے تھے ان سے کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی تم کہتے ہو یہ گڑ کھٹا اور یہ بیٹھا ہے۔

◇ گھر پھونک تماشا ہونا یاد دیکھنا

اپنا گھر لٹا کر کوئی بظاہر خوشی کا کام کرنا سماج کا اور اس کے کردار کا ایک کمزور پہلو ہے اس محاورہ میں اسی پر طنز کیا گیا ہے کہ اگر گھر لٹا کر اپنا سب کچھ برباد کر کے کوئی خوشی حاصل کی جائے تو اسے گھر پھونک تماشا دیکھنا کہتے ہیں اور یہ محاورہ اپنی معنویت کے اعتبار سے اہم محاورہ ہے۔

◇ گھر چڑھ کر لڑنا

اصل میں یہ گھر چڑھنا محاورہ ہے اور ہمارے یہاں چڑھنے کے معنی سماجی طور پر کافی وسیع ہیں جیسے برات چڑھنا، لام پر چڑھنا، سولی پر چڑھنا اور گھر پر چڑھ کر آنا تیاری سے آنا۔ اگر کوئی آدمی اسی نیت سے آیا ہے کہ وہ گھر پر آ کر لڑے گا تو ایسے موقع کے لیے کہا جاتا ہے وہ

روز گھر پر چڑھ کر آتا ہے۔

اُردو کا مصرعہ ہے۔

یہ خانہ جنگ بھی لڑتی ہے روز گھر چڑھ کر
ہم محاوروں کے الفاظ میں معنی کے اعتبار سے تو تبدیلی دیکھتے ہیں وہ سماجی فکر نقطہ نظر
جذبہ و احساس اور قدروں بے قدر ہونے والے آہ و فغاں کی نشاندہی کرتی ہے اور اسی نسبت سے
محاوروں کے ساتھ یہ کہے کہ ہمارے سماجی رویہ گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔

◇ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے

گھر کے ساتھ بہت سے محاورے وابستہ ہیں ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ گھر بنیادی
یونٹ ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے۔ آدمی کا پالنے پوسنے بھی گھر میں ہوتا ہے، راحت و آرام کا
رشتہ بھی گھر سے قائم ہوتا ہے اور محبت کا رشتہ بھی۔ گھر کو دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے اور آدمی اپنے
گھر کو ہر اچھی چیز سے اچھی بات سے سجانا چاہتا ہے لیکن اگر گھر کے ساتھ کوئی ٹریجڈی یا تکلیف
وہ بات کا رشتہ جڑ جاتا ہے تو وہی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے تنہائی میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے۔

گھر سے آدمی دور ہوتا ہے تو ایک ایک چیز اس کی آنکھوں پھرتی ہے گھر کسی وجہ سے
ویران ہو جاتا ہے تو اسے گھر سے گھر وندا ہو جانا کہتے ہیں اُردو کا ایک مشہور مصرعہ ہے۔

جو گھر کو آگ لگائے وہ اپنے ساتھ چلے

”گھر کو آگ لگنا“ بھی محاورہ ہے اُردو کا یہ مصرعہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

یعنی گھر کا اپنا خاص آدمی ہی گھر کی تباہی کا باعث ہوا۔ ”گھر میں گھس کر بیٹھ جانا“ یہ
بھی گھر سے متعلق محاورہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ دشمنی کر نیوالے گھر میں گھسے بیٹھے ہیں
اور دشمنی کر رہے ہیں۔ ”گھر گھسنا“ خانہ نشین ہونا الگ بات ہے یہ آدمی کے الگ الگ رویوں
اور ”way of life“ کو ظاہر کرتا ہے۔

◇ گھر کا بھیدی لنگا ڈھاوے

مشہور کہاوت ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو خاندانی حالات سے واقف ہوتا ہے وہ

زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔

ہم مندرجہ ذیل محاوروں کو بھی گھر سے نسبت کے ساتھ لے سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں

جیسے گھر کا راستہ لو، گھر کا فرد، گھر کا نام ڈبونا، گھر کے گھر بند ہو گئے، گھرتا لے پڑ گئے یا گھر گھر کے بے چراغ ہو گئے وغیرہ۔

◇ گھر میں ڈالنا

کسی عورت کو گھر میں رکھ لینا اور بیوی کے طور پر رکھنا ”گھر میں ڈال لینا“ کہلاتا ہے۔

◇ گھمسان کارن پڑنا، گھمسان کی لڑائی ہونا

بہت بڑے پیمانہ پر لڑائی کے ہونے کو کہتے ہیں۔ گھمسان کارن پڑا یعنی بہت جنگ

ہوئی خون خرابہ ہوا لڑائی۔ اب بھی ہوتی ہے لیکن اب ذہنوں میں، دلوں میں زیادہ ہوتی ہے۔

◇ گھن چکر ہونا

یعنی بری طرح چکر کھانا یا چکروں میں پھنسا گھن کے معنی گھنے کے ہیں۔

◇ گھنگرو بولنا

دہلی والوں کا خاص محاورہ ہے اور اس وقت کے لیے بولا جاتا ہے جب موت سے

کچھ پہلے سانس خراب ہو جاتا ہے اور اس میں گھر گھر اہٹ آ جاتی ہے۔ ”لفظ“ محاورہ میں کس

طرح اپنے معنی بدلتے ہیں اس کا اندازہ گھنگرو بولنے سے ہوتا ہے۔

تشبیہ ہوا استعارہ، محاورہ، کنایہ، گفتگو اور مفہوم کی ترسیل کے لیے ایک خاص کردار ادا

کرتے ہیں اس کو ہم محاوروں کے لفظیاتی استعمال میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔

◇ گھن لگ جانا

جس طرح کا کیرا دیمک ہوتی ہے جو کتابوں کاغذوں اور لکڑیوں کو لگتی ہے اسی طرح

کے کیرے کی ایک اور نسل ہے جس کو ”گھن“ کہتے ہیں جو اناجوں کو لگتا ہے اور غذا کا ضروری

حصہ کھا جاتا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھا کر ذہن دل اور دماغ کے لیے بھی ”گھن لگنا“ استعمال

کرتے ہیں یعنی وہ پہلی سی تیزی و طراری اور چمک دمک باقی نہ رہی۔

◇ گھوڑی چڑھنا

”گھوڑے پر سوار ہونا“ بہت سی قوموں کی تہذیبی و معاشرتی زندگی میں غیر معمولی

اہمیت رکھنے والی ایک صورت ہے۔ ایک زمانہ میں گھوڑے کی سواری فوجی علامت کے لیے

غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی اور ایک سپاہی گھوڑا مول لیکر کسی بھی رئیس جاگیر دار یا صاحب

ریاست کے یہاں نوکر ہو جاتا تھا۔ سودا کا ایک شعر ہے۔

کہا میں حضرت سودا سے کیوں ڈانواں ڈول
پھرے ہے جا کہیں نوکر ہو لیکے گھوڑا مول

عام طور پر رئیسوں کے ہاں سواری کے گھوڑے رکھے جاتے تھے اور تحفہ کے طور پر بھی
پیش کیے جاتے تھے۔ تاریخ میں بعض گھوڑوں کے نام بھی دیے گئے ہیں مثلاً رستم کے گھوڑے
کا نام ”رخش“ تھا۔ امام حسین ؑ کے گھوڑے کو دلدل کہتے تھے اور مہاراجہ پر تاپ کے گھوڑے
کو چیتک۔ اس سے ہماری تاریخی اور تہذیبی زندگی میں گھوڑے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

جب بچہ کچھ بڑا ہوتا تھا تو گھوڑی چڑھنے کی رسم ادا کی جاتی تھی یعنی پہلے پہل گھوڑی
پر سوار ہونا بطور تقریب منایا جاتا تھا۔ دہلی میں آج بھی کہیں کہیں اس کا رواج ہے اس سے
رسموں کی تہذیبی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے ان کا تاریخی اور سماجی پس منظر سامنے آتا ہے اور یہ بھی
کہ محاورے میں کس طرح تہذیب کی تاریخ کو اپنے اندر سمیٹا ہے اور زبان کا سماج سے رشتہ
جوڑا ہے۔ ”گھوڑے جوڑے سے شادی ہونا“ بھی محاورہ ہے اور اس سے مراد لین دین رسوم
و آداب کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ اگر محاورے کو سرسری طور پر نہ لیا جائے تو محاورہ ہماری
تہذیب و تاریخ کا سماجی زندگی اور معاشرتی ماحول کا جیتا جاگتا عکس پیش کرتا ہے۔ ”گھوڑے
کھولنا“ انتہائی کوشش کو کہتے ہیں۔

◇ گھونگھٹ کھولنا، گھونگھٹ اٹھانا، گھونگھٹ رہنا، گھونگھٹ کی دیوار

ہندوستانی تہذیب میں عورتیں جب اپنی سسرال جاتی تھیں تو دلہن کے چہرہ پر ایک
لباسا خوبصورت دوپٹہ پڑا رہتا تھا۔ اس کے ایک کوپلو نقاب کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ منہ
دکھائی رسم کے موقع پر گھونگھٹ اٹھایا جاتا تھا دو لہا جب اپنی دلہن کا چہرہ پہلی مرتبہ دیکھتا تھا
تو اسے ”گھونگھٹ اٹھانا“ کہتے تھے۔ جن مردوں کا احترام ملحوظ ہوتا تھا ان کے سامنے ہمیشہ
عورت گھونگھٹ نکالے رہتی تھی۔ اور جب گھونگھٹ باقی نہیں رہتا تھا تو اس کے لیے کہتے تھے
”گھونگھٹ اٹھ گیا۔“

دہلی میں لال قلعہ کے لاہوری دروازہ کے سامنے ایک اور سنگین دیوار بنائی گئی ہے
اس کو بھی گھونگھٹ کی دیوار کہتے ہیں اسی کا نام گھونگھٹ بھی پڑ گیا تھا۔

◇ گھی کے چراغ جلانا یا گھی کے چراغ جلنا، گھی کے گھونٹ پینا

گھی دیہات اور قصبات کی زندگی کا ایک غذائی حوالہ ہی نہیں بلکہ تہذیبی حوالہ بھی

ہے۔ گھی کو ایک زمانہ سے بڑی نعمت خیال کیا جاتا رہا ہے اور ہون میں بھی گھی آگ پر ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دیوتاؤں کو گھی پسند ہے اور اس کی خوشبو آگ میں جل کر ان کو پہنچتی ہے اس کی ایک اور صورت ”گھی کے چراغ جلانا“ بھی ہے جو انتہائی خوشی کی علامت ہے۔ ”گھی کے چراغ جلنا“ بھی مسرتوں سے بھرے کسی خوشی کے موقع یا تقریب کا اظہار ہے۔ گھی کبھی میسر آتا تھا تو غریب آدمی کی زندگی میں یادگار موقع ہوتا تھا اسی لیے جب کوئی دل کو بہت خوش آئیوالی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اس کو دیکھ کر اس کی بات سن کر میں نے گھی پی لیا۔

شکرانہ پر باریک شیر یا بورے کے اوپر گھی ڈالا جاتا تھا۔ بیاہ برات کے موقع پر مہمانوں کو تواضع کے طور سے زیادہ سے زیادہ گھی پیش کیا جاتا تھا اسی لیے جو بہت اچھا آدمی ہوتا تھا اس کو بھی گھی سے نسبت دی جاتی تھی اور پیار محبت کے طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تو گھی ہے یا گھی کا سا گھونٹ ہے۔ گھی پر ہمارے یہاں بہت محاورے ہیں مثلاً ”سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا“ یا کھائیں گے تو گھی سے نہیں تو جائیں گے جی سے یا سارے مزے ایک گھی میں ہیں۔ گھی دودھ سب سے اچھی غذا سمجھی جاتی تھی اور یہ کہتے تھے کہ وہ تو گھی دودھ پر پلا ہے۔

◇ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا

یہ وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلاتا ہے کہ جو وقت گذر گیا وہ گذر گیا جو وقت ضائع ہوا وہ کسی قیمت پر واپس نہیں آسکتا۔ وقت ہم بہت استعمال کرتے ہیں، جیسے اچھا وقت، برا وقت، مصیبت کا وقت، خوشی کا وقت، کوئی بھی وقت ہو اس کے اپنے معنی اور اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ میر حسن کا یہ مشہور شعر وقت کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔

سدا دور دورا دکھاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں

ردیف ل

◇ لات، لاتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانتا

”لات مارنا“ ٹھوکر مارنا اور ذلت آمیز سزا دینا ہے۔ ”لاتیں کھانا“ ایسی سزاؤں کو برداشت کرنا ہے جو ذہنی طور پر بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ”لاتیں رسید کرنا“ بھی لاتیں مارنے کے مفہوم میں آتا ہے۔ ”اٹھتے جوتا بیٹھتے لات“ بھی ذلیل سے ذلیل سزا برداشت کرنے کے

معنی میں آتا ہے یا سزا دینے کے مفہوم میں آتا ہے۔

”اُچھل اُچھل کر لات مارنا“ جان جان کر برا سلوک کرنے کے مترادف ہے جس میں ذلت آمیز رویہ شامل ہے۔ لاتوں کا دیویا بھوت باتوں سے نہیں مانتا اس کے یہ معنی ہیں کہ جو بُری عادت کا انسان ہوتا ہے وہ سخت سلوک اور بُری سزا کے بغیر راہِ راست پر نہیں آتا۔

◇ لاٹھی پونگا کرنا

عام لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی عادت میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پائی کر بیٹھتے ہیں ان کے جھگڑوں میں ”جو تاپیزار ہونا“ بھی شامل ہے اور ”لاٹھی پونگا“ بھی یہ آخری محاورہ دہلی میں خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔

ان محاورات سے پتہ چلتا ہے کہ محاوروں میں ہمارے طبقاتی رویہ بھی زیر بحث آتے ہیں۔ طبقوں کا اثر زبان پر کیا ہوتا ہے اس کا تعلق ان ذہنوں اور زندگیوں سے ہوتا ہے جن سے ان کے رویہ بنتے ہیں۔ اگر ہم طبقاتی کردار شامل نہ رکھیں تو الگ الگ طبقوں کا جو رویہ ہمیں ان کی زندگی میں ملتا ہے اور جس کا تذکرہ ان کی زبانوں پر آتا ہے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔

◇ لاٹھی مارے پانی جدا نہیں ہوتا

جب پانی پر لاٹھی ماری جاتی ہے تو پانی پھٹ ضرور جاتا ہے مگر الگ الگ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمارے مشاہدہ کا حصہ بھی ہے لیکن محاورے کے طور پر یہ ہمارے طبقاتی اور سماجی رویہ کی ایک شناخت بھی بن جاتا ہے کہ چھوٹے طبقہ میں روز لڑائی ہوتی ہے گالی گلوچ ہوتی ہے مگر وہ ایک دوسرے سے لڑتے ضرور ہیں مگر الگ نہیں ہوتے۔ یہ محاورہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لاٹھی مارنے سے پانی دو ٹکڑے نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں تو ایک ساتھ ملکر رہنا ہے ایک ساتھ سفر کرنا ہے اور لڑائی جھگڑا تو بالکل اتفاقی بات ہے۔ یہ عوامی رویہ ہے کہ ان میں جھگڑا ہوتے دیر لگتی ہے اور نہ صلح ہوتے۔

◇ لاحول بھیجنا یا پڑھنا

”لاحول“ عربی کا لفظ ہے اور ایک بڑا کلمہ ہے جس کی طرف یہ لفظ اشارہ کرتا ہے اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ایک پڑھے لکھے طبقہ کا محاورہ ہے جو ہماری زبان میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کا پس منظر ہے کہ عربی کے اس فقرہ سے جو لاحول میں موجود ہے۔ شیطانی خیالات ذہن سے غائب ہو جاتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لاحول پڑھو یا لاحول بھیجو

تو ذہن کا خلفشار اور طبیعت کا انتشار ختم ہوگا جو دراصل شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہے نقش
لا حول تعویذ کے طور پر باندھا جاتا ہے۔

◇ لال انگارا، سرخ انگارا

”لال انگارا ہونا“ انگارا ہمارے یہاں صبح و شام کا مشاہدہ تو ہے ہی ایک طرح کا
استعارہ بھی ہے۔ سرخی سرخ روئی کا نشان بھی ہے خون کی علامت بھی ہے۔ اور اس کے معنی
میں خطرہ کی علامت بھی ہے اور انتہائی غصہ کی بھی علامت ہے اس کی آنکھیں غصہ کے باعث
لال انگارہ ہو گئیں۔ انگارا آگ کا حصہ بھی ہے اور اس کی علامت بھی ”آگ کھائے گا
انگارے اگلے گا“ یہ کہاوت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جیسا آدمی کا رویہ ہوتا ہے اس کی
سوچ ہوتی ہے ایسا ہی اس کا عمل ہوتا ہے اور ایسا ہی اس کو جواب ملتا ہے اور رد عمل سامنے آتا
ہے۔ اس سلسلہ عمل و رد عمل کو یہ محاورہ خوبصورتی سے پیش کرتا ہے اور اس میں ایک طرح کا
شاعرانہ مبالغہ شامل ہے۔

◇ لال پیلی آنکھیں کرنا یا نکالنا

آنکھیں آدمی کے جذبات و خیالات کا وہ اظہار ہیں جس میں ظاہری سطح پر لفظ و بیان
شریک نہیں ہوتے۔ غصہ ہو یا محبت، اپنائیت ہو یا غیریت اس کا اظہار الفاظ سے بھی اتنا نہیں ہوتا
جتنا آنکھوں کے ذریعہ ہو جاتا ہے، اسی لیے غصہ ظاہر کرتے وقت آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے
جسے ”آنکھیں لال پیلی کرنا“ کہتے ہیں یہ ایک طرح کی لفظی تصویر کشی ہے جس کے رنگ متحرک
ہیں۔ اور جب ہم ان لفظوں سے گذرتے ہیں تو پوری تصویر آنکھوں میں پھر جاتی ہے اس سے ہم
یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محاورے میں معاشرے کے جو مختلف رویہ اور سوچ کے طریقہ ہیں ان کی
بامعنی بلکہ معنی خیز تصویریں ہماری شاعری کی طرح ہمارے محاوروں میں بھی مل جاتی ہیں۔

◇ لبوں پر جان آنا

لب دم ہونا، ایک ہی معنی میں آتا ہے موت سے قریب ہونا یا وہ حالت ہونا جو موت
سے قریب تر ہونے کے عالم میں ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے محاوروں میں
ہمارے سماجی رویوں کی عکاسی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں اور کن الفاظ میں اپنی بات کو
پیش کرتے ہیں۔

◇ لٹک کر چلنا

چال میں ایک خاص طرح کا انداز اور ادائیگی کرنا جو بعض لوگوں کے یہاں قدرتا ہوتا ہے اور بعض عورتوں سے انداز دکھانے کی غرض سے اپنے اندر پیدا کرتی ہیں۔ یہ شاعرانہ انداز بھی ہوتا ہے۔ لٹک غیر ضروری شے کو بھی کہتے ہیں جیسے ان کا مقصد کوئی نہیں انھیں تو ایک طرح کی لٹک ہے۔ یہاں یہ شاعرانہ انداز نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا سماجی تبصرہ ہے ہر سماجی تبصرہ ہر موقع کے لیے صحیح اور درست ہو یہ ضروری نہیں۔

◇ لٹوریوں والی

ایسی لڑکی یا عورت جس کے بال کھلے رہیں اور لٹوں کی شکل میں بکھرے رہیں اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ بعض مرد بھی لمبی لمبی لٹیں رکھتے ہیں اور کھلی چھوڑ دیتے ہیں ان کو بھی ”لٹوریا“ کہتے ہیں۔ مگر یہ سماج کی طرف سے کوئی قابل تعریف بات نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک حد تک ناپسندیدگی کا اظہار شامل ہوتا ہے۔ لڑکی کے لیے ناپسندیدگی اس میں نہیں ہوتی صرف اس کے لاابالی پن کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے۔

◇ لٹو ہونا

لٹو کی طرح گھومنا، فریفتہ ہونا، شدت سے تعلق خاطر رکھنا۔ لٹو اپنی بہت چھوٹی سی کیل پر گھومتا ہے اور اس زمین کو نہیں چھوڑتا۔ اب جو آدمی دلی طور پر یا ذہنی اعتبار سے کسی شخص یا بات پر بے طرح مائل ہوتا ہے جسے فریفتہ ہونا کہہ سکتے ہیں، اس حالت کو عوامی محاورے میں ”لٹو ہونا“ کہا جاتا ہے۔ کہ وہ تو اس پر بے طرح لٹو ہو رہا ہے۔ اس محاورے سے ہم عوامی ذہن کے طریقہ رسائی کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شاعرانہ انداز کے جملے بھی تراشتے یا بولتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔

◇ لچھے دار باتیں کرنا

عام باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے ان میں لطیفوں چٹکوں شاعرانہ جملوں اور روایتوں حکایتوں کا جب بے تکلف انداز سے گفتگو میں سہارا لیا جاتا ہے تو اسے لچھے دار باتیں کرنا کہتے ہیں۔ اور اس کے ذریعہ نکتہ میں سے نکتہ اور بات میں سے بات پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے ایک خاص طرح کے مہذب طبقہ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور اس طرح ہماری سوسائٹی کے ایک خاص تہذیبی رخ کو پیش کرتا ہے۔

◇ لڈو بانٹنا، لڈو دینا، لڈو کھلانا، لڈو ملنا، لڈو پھوٹنا

یہ محاورے خوشی کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب کوئی خوشی یا مبارک باد کا موقع آتا ہے تو لڈو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ گھروں میں جاڑوں کا موسم آنے پر لڈو بنا کر رکھے جاتے ہیں۔ تلوں کے لڈو، بور کے لڈو، گوندھنی کے لڈو وغیرہ ہمارے معاشرے میں رائج رہے ہیں یہاں تک کہ جب آدمی من ہی من میں خوش ہوتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے من ہی من میں دل ہی دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں۔

اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیٹھائیاں تو بہت ہیں لیکن لڈو کا ہماری تہذیب سے ایک گہرا رشتہ ہے اور محاورے میں اس کے جو مختلف "Shades" آئے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ معاشرتی فکر اور سماجی سوچ کے محاوروں سے کیا رشتہ ہے۔

◇ لڑائی مول لینا، لڑائی باندھنا

لڑائی جھگڑا یا لڑائی بھڑائی ہمارے عوامی سماج کے عام رویہ ہیں وہ ذرا سی بات پر لڑ بیٹھتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جلد ہی صلح بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں لڑائی اور اس سے متعلق اسی نسبت سے بہت سے محاورے بھی ہیں اس میں لڑائی کرنا تو خیر ہے ہی لڑ پڑنا، لڑ بیٹھنا بھی عام محاورہ ہے۔

”لڑائی مول لینا“ ایک خاص طرح کا محاورہ ہے اس لیے کہ لڑائی مول نہیں لی جاتی لیکن آدمی ہر طرح لڑائی جاری رکھنے پر آمادہ ہو جائے تو اس سے جواب میں لڑائی کو بہر حال انگیز کیا جاتا ہے۔ اسی کو ”لڑائی مول لینا“ کہتے ہیں کہ ضرورت کوئی نہیں تھی، بے ضرورت جھگڑے کھڑے کیے اور لڑائی مول لی گئی، کبھی کبھی آدمی جھگڑا لو طبیعت کا ہوتا ہے اس وقت بھی کہتے ہیں کہ یہ صاحب یا صاحبہ تو خواہ مخواہ لڑائی مول لیتے ہیں۔

◇ لڑے فوج نام سردار کا

اصل میں کام کر نیوالے تو کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ محنت و مشقت کا کام ہو یا ایثار و قربانی پیش کرنا ہو، ملک فتح کرنا ہو یا میدان مارنا، اس میں ساری زحماتیں تو لشکریوں کے حصہ میں آتی ہیں مگر نام امیر، سردار فوج، لشکر کے سپہ سالار یا پھر قوم کے لیڈر کا ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کی بڑی ستم ظریفی ہے مگر تاریخ اسی طرح بنی ہے اور یہ اسی پر طنز ہے ذوق کا مضرعہ ہے۔

سچ کہا ہے دھار کاٹے نام ہو تلوار کا

یعنی کام کسی کا نام کسی کا

◇ لال (لعل) لگ جانا، لال (لعل) لگے ہوئے ہیں

ہم اپنے لباس میں قیمتی چیزیں شامل کرنے یا جزوِ لباس بنانے کا شوق رکھتے ہیں یہ کام صرف بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں لیکن سماج کا عام رویہ یہ ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اس کی طرف سے بڑائیاں مارتے ہیں۔ اسی کے جواب میں کوئی سماجی طنز کے طور پر کہتا ہے اس میں کیا لال (لعل) لگ رہے ہیں یعنی ایسی کون سی بڑائی یا تحفگی کی بات ہے۔ جس کی وجہ سے اس کو پسند کیا جا رہا ہے اور دوسرے کا انکار کیا جا رہا ہے۔

◇ لفافہ کھل جانا

خطوں کو لفافہ میں بند کر کے بھیجا جاتا ہے خاص خاص طرح کے دعوت نامہ یا پیغامات بھی لفافوں میں بند کیے جاتے ہیں اب وہ بات چھپی ہوئی بات ہو جاتی ہے اور ”لفافہ کھل جانا“ بھید کا ظاہر ہو جانا ہے، کچھ تفصیلات کا معلوم ہو جانا وغیرہ۔

◇ لقمان کو حکمت سکھانا

لقمان ہمارے ہاں ایک علامتی کردار ہے اور عقل و حکمت کے لحاظ سے لقمان کی شخصیت ایک پیغمبرانہ کردار رکھتی ہے جس کا ذکر قدیم لٹریچر میں بھی آتا ہے اُردو میں لقمان کا ذکر بھی انتہائی درجے پر پہنچے ہوئے صاحبِ علم و حکمت ہی کے شخص کی حیثیت سے آتا ہے لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ ”اٹلی گنگا پہاڑ کو“ جو ناممکن بات ہے اسی طرح ”لقمان کو حکمت سکھانا“ بھی ایک ایسی ہی صورت ہے۔ سماج کی طرف سے بعض لوگوں کے عقل پر طنز ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتے ہیں کہ لقمان کو بھی حکمت سکھلا دیں۔

یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بہت سے کردار غیر قوموں اور غیر ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کا ذکر ہمارے محاوروں میں اس طرح آیا ہے جیسے وہ ہماری سماجی نفسیات کا حصہ ہوں۔ اس سے اُردو زبان اور اُردو والوں کے دائرہ فکر و خیال کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔

◇ لکیر پر فقیر ہونا، لکیر کا فقیر ہونا، لکیر پیٹنا، لکیر کھینچنا

”لکیر“ خط یا لائن کو کہتے ہیں۔ خط سیدھا بھی ہو سکتا ہے ٹیڑھا بھی، مختصر بھی اور طویل

بھی۔ اس سے ہم نے بہت سے تصورات لیے ہیں ان میں خطوط کی آہنی (ریلوے لائن بھی ہے اور خطوط ہوائی بھی ہے) اور لائن خطوط فکر بھی ہے یعنی سوچ کا انداز۔ بچے لکیریں کھینچتے ہیں انھی کو گنتے بھی ہیں۔ ان کے بعض کھیل بھی لکیروں سے متعلق ہیں۔ اب انسان اگر ایک بات پر جم جاتا ہے تو اسے ”لکیر کا فقیر“ کہتے ہیں یعنی ایک مرتبہ جو کچھ سوچ لیا اس سے الگ ہو کر سوچنا گوارا ہی نہیں کیا، جبکہ زندگی بدلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، حالات و خیالات بدلتے ہیں اور سوالات بدلتے ہیں اگر انسان سوچنا ہی بند کر دے اور لکیر کا فقیر ہو کر رہ جائے تو بدلتے ہوئے سماج اور ماحول میں اس کا حشر کیا ہوگا وہ لکیر پٹینتا رہ جائے گا۔

للو پتو کرنا

یہ دیہاتی انداز کا محاورہ ہے اور بہت عامیانہ سطح پر اس میں وہ زبان استعمال کی گئی ہے جو اب محاوروں میں تو رہ گئی لیکن شہری زبان سے نکل گئی۔ ”للو“ زبان کو کہتے ہیں اور ”للو پتو“ کے معنی ہیں خوشامدانہ زبان و لہجہ۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے محاورے زبان کی بہت نچلی سطح کو بھی چھوتے ہیں اور اسے عام زبان کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ محاورے کی ہماری زبان کے لیے بڑی اہمیت ہے اور اس میں ہماری زبان کے بہت سے Shades محفوظ ہو جاتے ہیں۔

لمبے سانس بھرنا

جب آدمی دکھ کے عالم میں گہرے گہرے سانس لیتا ہے تو اسے لمبے لمبے سانس لینا کہتے ہیں۔ اس سلسلہ کا ایک اور محاورہ ”لمبے پڑنا“ بھی ہے یعنی چلے جانا۔ تشبیہ، استعارہ مجاز اور کنایہ کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ہماری عوامی زبان میں محاورے کے وسیلے سے آگے ہیں اور ان کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ زبان چاہے شاعری اور انشا پردازی کی اعلیٰ سطح پر استعمال ہونا چاہیے عامیانہ محاوروں میں آئے اس کا اپنا جنس برابر کام کرتا رہتا ہے۔

لنگوٹی میں پھاگ کھیلنا

ہندوستان بہت غریب ملک رہا ہے یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس ستر پوشی کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ لنگوٹی وہ چھوٹے سا چھوٹا کپڑا ہوتا ہے جس سے وہ اپنی ستر پوشی کرتے ہیں اس پر بھی ہمارے ملک والوں میں ایک رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ وہ جب بھی موقع آتا ہے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اسی موقع پر سماج کا یہ طنز سامنے آتا ہے کہ وہ جو لنگوٹی میں پھاگ کھیلتے ہیں۔ ”پھاگ کھیلنا“ رنگ رلیاں مناتا ہے یعنی

انتہائی غریبی میں بھی ان کا جی چاہتا ہے وہ من چاہی رنگ رلیاں منائیں اور خرچ اخراجات کا خیال نہ کریں یہاں تک کہ قرض لے لیں، دوسروں سے مانگ لیں۔

◇ لولو بنانا

ہمارے یہاں ناموں کو بگاڑا جاتا ہے یہ لاڈوپیار میں بھی ہوتا ہے اور ہنسی مذاق میں بھی اور طعنہ اور تضحیک میں بھی، لولو ایک ایسا ہی نام ہے۔ لال سے لالو بنا اور لالو کو لولو کر دیا اس کے معنی ہیں احمق بیوقوف، اب کسی کو ہم مذاق اڑانے کی غرض سے ”لولو بناتے“ ہیں یعنی ہنسی مذاق میں اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو یہ ظاہر کرے کہ یہ آدمی تو بہت احمق ہے اس اعتبار سے یہ محاورہ سماج کے ایک رویہ کا اظہار ہے اور اس میں غیر سنجیدہ اور غیر مخلصانہ طریقہ عمل کی طرف اشارہ ہے۔

◇ لو ہالاٹھ ہو جانا

بہت سخت ہو جانا۔ دہلی میں لوہے کی ایک لاٹھ بھی ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے ایک اس سے عوام نے اور خاص طور پر دہلی کے عوام نے ایک نئے معنی نکال لیے اور وہ سخت ہو جانے کے ہیں۔ بہت سخت جب کوئی چیز بہت ہی سخت ہو جاتی ہے تو اسے ”لو ہالاٹھ ہو جانا“ کہتے ہیں۔ لاٹھ مینار کی شکل جیسی کسی شے کو کہتے ہیں دہلی والے قطب مینار کو قطب کی لاٹھ کہتے ہیں۔

◇ لوہے کے چنے چبانا

بہت سخت اور مشکل کام کرنا۔ چنے چبانا بھی ایک مشکل کام ہی ہوتا ہے جس کو کرنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور راحت برائے نام یہ ہمارے معاشرے کا گویا ایک عام تجربہ ہے اس کو مبالغہ کے طرز پر آگے بڑھایا بلکہ غلو کا انداز پیدا کر دیا کہ یہ تو لوہے کے چنے چبانا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ محاورہ ان لوگوں میں زیادہ رائج ہونا چاہیے جو لوہے کے کام اور اس کے ہتھیاروں اوزاروں سے زیادہ واسطہ رکھتے تھے۔

◇ لوہے کی چھاتی اور پتھر کا جگر کر لینا

بہت بڑی آزمائش سے گذرنا، چھاتی یا سینہ یہاں تک بطور تشبیہ آیا ہے اسے ہم استعاراتی انداز کہہ سکتے ہیں۔ پتھر بھی سخت ہوتا ہے اور بے حس ہوتا ہے یہی حال لوہے کا ہے کہ وہ سخت بھی ہے اور بھاری بھی۔ جب کسی بہت بری بات کو برداشت کرنا ہوتا ہے اس کے لیے

ظاہر ہے کہ ہر نیچر کا آدمی نہیں کر سکتا کوئی خاص ہی آدمی ہوگا جو بے حد ضبط اور حد سے زیادہ صبر رکھتا ہو وہی برداشت کر سکتا ہے۔

◇ لہو پانی ایک کرنا، یا لہو سینہ ایک کرنا

یہ بھی ہمت بھر محنت کرنا، زحمت اٹھانا اور تکلیفیں برداشت کر کے کسی کام کو انجام دینا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے تو لہو سینہ ایک کر دیا۔ لہو بے حد قیمتی شے ہے اور اس کے مقابلہ میں پانی یا پسینہ بہت کم قیمت چیز ہے مگر اس نے محنت و مشقت برداشت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ لہو پسینہ ایک کر دیا اسی کو لہو پانی کرنا کہتے ہیں۔

◇ لہو خشک ہو جانا

جب خوف و دہشت یا شدید نقصان کے خیال سے آدمی سکتہ میں آجاتا ہے اس حالت کو ”لہو خشک“ ہونا کہتے ہیں اور اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے مقابلہ میں جو ایک نفسیاتی تجربہ یا تجزیہ ہے۔ ”لہو سفید ہونا“، ”خون سفید ہونا“ ایک سماجی رویہ پر تبصرہ ہے اور یہ عام طور سے اپنوں کی بے مروتی اور بے تعلقی کی شکایت ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آج کل تو عزیزوں کا لہو یا خون سفید ہو گیا ہے یعنی کسی کو کسی سے کوئی جذباتی تعلق یا خلوص خاطر نہیں رہا۔ یہ محاورہ شاعرانہ انداز رکھتا ہے لیکن اس میں آپسی تعلقات میں بے مروتی رویہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس پر ایک طرح کا طنز یہ تبصرہ ہے۔

◇ لہو کا پیاسا خون کا پیاسا ہونا

ہم تاریخ میں اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں کہ دشمنی میں کسی نے مقتول آدمی کا جگر چبایا یا مخالف کو قتل کر کے اس کا خون پی لیا۔ اسی پس منظر میں یہ محاورہ سامنے آیا کہ وہ تو اس کے خون کا پیاسا ہے۔ جو بھی جانی دشمن ہوتا ہے اسے ”خون کا پیاسا“ کہتے ہیں۔ ترکوں اور تاتاریوں کی خون آشامیوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کی گردن کی رگ میں شگاف کر کے اپنی پیاس بجھانے کے لیے ان کا ان کا خون پی لیتے تھے یہ بھی خون کا پیاسا ہونے کی ایک صورت ہے۔ محاورات میں تاریخ کے جو رویہ محفوظ ہو گئے ہیں ان میں خون کا پیاسا ہونا بھی ہے۔

◇ لہو کا جوش، لہو کے سے گھونٹ پینا، لہو کا جوش مارنا

کسی سے تعلق خاطر اور اپنائیت کے جذبہ کے تحت والہانہ طور پر ملنا یا اس کو یاد کرنا

”خون کا جوش مارنا“ ہے۔ تمام رشتوں میں خون کا رشتہ زیادہ اہم اور مضبوط خیال کیا جاتا ہے اسی لیے خون کا جوش مارنا محاورہ بن گیا۔

اس کے مقابلہ میں ”لہو کے سے گھونٹ پینا“ یادینے والے رویہ کو برداشت کرنا ہے کہ میں یہ سنتا ہوں دیکھتا ہوں اور خون کے سے گھونٹ پیتا ہوں جو ایک نہایت مجبوری کا عالم ہوتا ہے۔ محاورے میں ہمارے جو حسیاتی اور جذباتی تجربہ شامل ہوتے ہیں اور پھر ہم ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو عجیب عجیب صورتیں سامنے آتی ہیں یہ محاورے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

◇ لہولگا کے شہیدوں میں داخل ہونا

یہ سماج کے اس رویہ پر ایک تنقید ہے کہ عام طور سے لوگ کچھ کرنا نہیں چاہتے لیکن ایکٹنگ اس طرح کی کرتے ہیں اور دعویٰ دار اس امر کے بنتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے یہیں سے اُنکی کٹاکے یا لہولگا کے شہیدوں میں داخل ہونا محاورہ پیدا ہوا ہے کہ برائے نام کچھ کیا جائے اور اس کا پورا کریڈٹ لیا جائے۔

ہمارے سماج کی بہت سی روشیں ایسی ہیں جس کو کنڈم کیا جانا چاہیے کہ ان کے ذریعہ فریب دھوکہ اور دکھاوٹ کا رویہ بنتا ہے اور اقلیت کمزور پڑ جاتی ہے اس محاورے میں جو گہرا طنز ہے وہ اسی معاشرتی سچائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

◇ لیک پیٹنا

ملاحظہ ہو لیکر پیٹنا۔

◇ لیکھا ڈیوڑھا برابر کرنا یا لیکھا جوہکا برابر کرنا

اصل میں یہ بھی سماجی رویہ ہی کو تصویر کشی ہے کہ لوگ باتیں بنا کر تھوڑا بہت کچھ کر کے معاملہ کو برابر کرنے کی کوشش کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ ”لیکھا جوکھا برابر کر دیا“ محاورہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک محاورہ ایک زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے اور علاقائی یا طبقاتی طور پر اس کے استعمال پر نئے پہلو ابھرتے ہیں اس محاورے کے ساتھ بھی یہی صورت ہے۔

◇ لینے کے دینے پڑنا

جب معاملہ کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے تو صورت حال اس کی کچھ اور ہو جاتی ہے اور جہاں کچھ لینے اور کریڈٹ پانے کا موقع ہوتا ہے وہاں اپنے پاس سے دینے اور نقصان اٹھانے کی صورت پیش آتی ہے اسی کو ”لینے کے دینے پڑ جانا“ کہتے ہیں۔

رولیف — م

◇ ماتھار گڑنا، ماتھا مارنا

ماتھار گڑنا اظہار عاجزی کرنا اس لیے کہ ماتھا پیشانی کے معنی میں آتا ہے اور پیشانی جھکانا، زمین پر ٹیکنا، خاک پر ملنا یا چوکھٹ پر رگڑنا اظہار عاجزی کے لیے ایک علامتی عمل کے طور پر آتا ہے۔

◇ ماتھا ٹھنکنا

پہلے کسی خطرے یا کسی بات کا اندازہ ہونا جو گویا سماجی شعور کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ میرا ماتھا پہلے ہی ٹھنکا تھا اور ایسا احساس ہوا تھا کہ ایسا کچھ ہونی والا ہے۔

◇ مارا مارا یا مارے مارے پھرنا

کسی کی تلاش جستجو یا کسی کام کی غرض سے پریشان پھرنا کہ کسی طرح یہ کام ہو جائے اور بات بن جائے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی تلاش میں بہت دنوں تک مارا مارا پھرا۔

◇ مارتے مارتے گٹھر کر دینا

ہمارے ہاں جسمانی سزا کا بہت رواج ہے، جس سے معاشرے کی شدت پسندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی دوسرے کو اس بری طرح مارتا ہے کہ اس کا سارا وجود ایک گٹھری کی طرح سمٹ کر مجبور ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹتا ہے کہ شاید اسی طرح کچھ بچا ہو جائے۔

◇ ماں کا دودھ

ہمارے معاشرے میں دودھ کو جو ماں پلاتی ہے اولاد پر ایک بڑا حق تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی اور قیمت تو ہوتی نہیں۔ دودھ پلائیاں رئیسوں کے یہاں رکھی جاتی تھیں تو ان کا بھی اس بچہ پر بہت بڑا حق ہوتا تھا جو ان کے دودھ میں شریک ہوتا تھا۔ اسی لیے اب تک کہا جاتا ہے کہ ماں سے دودھ بخشو الو یا یہ کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سماجی رشتوں میں حق کا تصور بہت واضح رہتا ہے اور اس میں دودھ کا حق بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور ہندو کہتے ہیں ماتا کے چرنوں میں سورگ ہے، جنت ہے، بات یہی ہے ایک

ہی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں روایتی طور پر ماں کو کتنا بڑا درجہ دیا جاتا ہے۔

◇ ماں کے پیٹ سے لیکر کوئی پیدا نہیں ہوتا

انسان کو ہر چیز پیدائشی طور پر نہیں ملتی۔ اسے حاصل کرنی پڑتی ہے علم ایک ایسی ہی شے ہے۔ ہنرمندی اور فنکاری بھی کسی کو "By birth" نہیں آتی اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کو سماجی زندگی میں بہت سی باتوں کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے ساری اچھائیاں قدرت کی طرف سے نہیں مل جاتیں۔

◇ مال اڑانا یا مارنا

مال پر بہت سارے محاورے ہیں اس امر کی طرف ان سے اشارہ ملتا ہے کہ جو چیز زندگی میں جتنی اہمیت رکھتی ہے اتنا ہی اس کا ذکر آتا ہے مثلاً مال اڑانا، مال حاصل کرنا، مالا مال ہونا۔ مال بامعنی شے بھی آتا ہے ذوق کا مصرعہ ہے۔

سب گھٹا دیتے ہیں مفلس کے غرض مال کا قول

فریب اور دغا بازی سے مال لے لینا، مال ہاتھ آنا یا دولت حاصل ہونا، مال کی گٹھری ہونا یعنی بہت سا مال ہونا۔ "مال اس کے پلے بہت ہے" پلے کے معنی یہاں پاس یا نزدیک کے ہیں۔ یہ محاورے بھی اسی ذیل میں آتے ہیں۔

◇ مٹر گشت کرنا

بے تکلفی سے ملنے ملانے یا کسی جگہ کی سیر کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کو "مٹر گشت کرنا" کہتے ہیں کہ وہ تو یونہی مٹر گشت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ محاورات میں بعض ایسے پہلوؤں پر بھی نظر رکھی جاتی ہے اور انھیں محاورات میں سمویا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں قابل توجہ ہوتے ہیں، "مٹر گشت کرنا" اسی ذیل میں آتا ہے اور ایک اچھا خوبصورت محاورہ ہے۔

◇ مٹی خراب کرنا، مٹی ڈالنا، مٹی ڈالوانا، مٹی عزیز کرنا، مٹی پلید کرنا، مٹی میں مٹی یا مٹی میں مٹی ملنا

ہماری زندگی ذہنی اور زمانی و فاداریوں سے متعلق بہت سے حوالے زمین اور مٹی سے وابستہ ہوتے ہیں کہ وہی ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی مادی حقیقت ہے اور زمین ہی کو ہم مٹی

سے تعبیر کرتے ہیں اور خاک سے بھی۔ ایسے بچوں کو جن کے ماں باپ نہیں رہتے ”موئی مٹی“ کی نشانی کہتے ہیں۔ ”مٹی ہو جانا“ گویا مٹی کے برابر ہو جانا ہے۔ جب کوئی چیز قیمت سے بے قیمت ہو جائے یا انتہائی عاجزی اختیار کرے تو اسے ”مٹی ہو جانا“ کہتے ہیں۔ کسی کوشش خواہش اور سعی تدبیر کا ناکام ہونا بھی ”مٹی ہو جانا“ یا مٹی میں مل جانا ہے۔ ”مٹی مل جانا“ موت آنے کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سب مر گل گئے مٹی میں مل گئے اب ان کا کیا ذکر۔

مٹی پلید ہونا یا کرنا ذلیل کرنے کو کہتے ہیں اور ذلیل ہونے کو ”مٹی پلید ہونا“ کہتے ہیں وہاں ان کی بہت مٹی پلید ہوئی یعنی ذلیل ہونا پڑا۔

جب آدمی بہت مصیبت میں ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ان کی مٹی عزیز کر لے یعنی ان کی مشکل آسان کر دے۔ ”مٹی دینا“ دفن کرنے کے بعد مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ سب مٹھیاں بھر بھر کرتیار ہونے والی قبر میں مٹی ڈالتے ہیں، اسی کو مٹی دینا کہتے ہیں۔ نشان قبر کو باقی رکھنے کے لیے کچھ لوگ قبروں پر مٹی ڈلاتے رہتے ہیں۔ مٹی کی کشش کا تصور بھی موجود ہے کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں انسان دفن ہوتا ہے اُردو کا ایک مصرعہ ہے۔

پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا
مٹی میں مٹی، مٹی میں مٹی ملنا بھی اسی مفہوم میں آتا ہے۔

◇ مٹی کا مادھو

بیوقوف آدمی کو کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل مٹی کا مادھو ہے یعنی اسے بالکل عقل نہیں ہے، جو بھی کام کرتا ہے بیوقوفوں کی طرح کرتا ہے۔

◇ مٹی کے مول بیچ ڈالنا

”مٹی میں مٹی مل گئی“ آدمی خاک تھا اور خاک کا حصہ ہو گیا۔ مٹی کے مول بکنا یا بیچنا بہت ہی کم قیمت پر بیچ ڈالنے کو کہتے ہیں۔ ”مٹی سنگوانا“ مردے کے کفن دفن کا انتظام کرنا ”مٹی سنگوانا“ کہلاتا ہے۔ جنازہ اٹھانے کو مٹی اٹھانا کہتے ہیں۔ عام طور پر اُردو پر اعتراض کرنے والے یہ تو کہتے ہیں کہ وہ گل و بلبل کی شاعری ہے اور اس کو عاشقی کی باتیں ہیں اگر اُردو کو اس کے محاوروں اور اس کے روزمرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ یقیناً یہاں کی عوامی اور عمومی زبان ہے اور اس کے لفظوں کا ذخیرہ عام زبان ہی سے آیا ہے۔

◇ مجذوب کی بڑ

اُلٹی سیدھی بکواس کرنا، بے معنی اور لائینی باتیں کرنا ”مجذوب“ کی بڑ کہلاتا ہے۔
مجذوب کسی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے ہوش و حواس میں خلل پڑ گیا، ہو ایسا ہی آدمی بے تکی
اور بے ہنگم پن کی باتیں کرتا ہے۔

◇ مجرا کرنا

مجرا بامعنی سلام آتا ہے اسی لیے عام زبان میں کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا بھی سلام
مجرا ہے۔ طوائفوں کے یہاں مجرا رقص کی محفل کو کہتے ہیں یعنی آج ان کے یہاں مجرا ہے اس
کا مطلب ہے کہ رقص و سرود کی محفل ہے۔ درباری سلام کو بھی مجرا کہتے ہیں اور لکھنؤ والے
سلام پیش کرنے کو ”مجرا بجالانا“ کہتے ہیں۔ یہ محاورہ بھی اس اعتبار سے ہمارے تہذیبی
رویوں کی نشاندہی کرتا ہے۔

◇ مرچیں لگنا، مرچیں سی لگ جانا

کسی بات پر خفا ہونا اور بات بھی وہ جس میں اس کی اپنی کوئی کمزوری چھپی ہوئی ہو وہ
سامنے آ جائے تو اس کو ”مرچیں لگنا“ کہتے ہیں کہ میری بات سے اس کے کیسے مرچیں لگیں۔ یہ
سامج کا ایک تبصرہ ہے کہ سچی بات کوئی سننا نہیں چاہتا۔

◇ مرد کی صورت نہ دیکھنا

جو عورت یا لڑکی انتہائی پاکیزہ کردار ہوتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے مرد
کی صورت بھی نہیں دیکھی یہاں مرد سے مراد وہ شخص ہے جس سے جنس و جذبہ کا کوئی تعلق ہو
ورنہ مرد تو ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔

◇ مردوں کی ہڈیاں اُکھیڑنا یا گڑے مردے اُکھیڑنا

مرنے والوں سے متعلق ہمارا جو تہذیبی رویہ رہا ہے اس میں انھیں دعا درود سے یاد
کرنا بھی ہے اور بعض ایسے محاورے بھی مردوں سے متعلق ہیں جو ہمارے سماجی رویوں کی
نشاندہی کرتے ہیں مثلاً ایسی باتوں کو یاد کرنا جن میں برائی کے پہلو موجود ہوں ”گڑھے مردے
اُکھاڑنا“ کہا جاتا ہے۔

اس لیے کہ ہم اپنی معاشرتی کمزوریوں کا کوئی علاج تلاش نہیں کر پاتے اسی لیے یہ
سوچتے ہیں کہ ان باتوں کو بھلا دیا جائے اور ان پر خاک ڈال دی جائے اور اگر ان کا کوئی ذکر کرتا

ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گڑے مردے اُکھیڑتا ہے یا مردوں کی ہڈیاں اُکھیڑتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواجواہ کی باتیں نہ کی جائیں یا پھر تکلیف دینے والی باتوں کو یاد نہ کیا جائے۔ ان محاورات سے ہماری سماجی زندگی کا عمل اور ردِ عمل دونوں سامنے آتے ہیں۔

◇ مردے کا مال

ہمارے سماجی عمل کا ایک بہت ہی گھناؤنا عمل یہ ہے کہ ہم مردے کے مال کو، اس کی زمین و جائداد کو کسی نہ کسی بہانہ لوٹ لیتے ہیں اور جو قوم فریب و دغا دھوکہ یا زبردستی کر کے زندوں کو ان کے مال سے محروم کر دیتے ہیں تو مردوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوگا۔ اسی لیے لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بیوہ کا حق چھین لیتے ہیں۔ یہی مردے کا مال کہلاتا ہے اور جب کوئی آدمی دیکھتی آنکھوں بددیانتی کرتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں کہ کیا مردے کا مال سمجھ رکھا ہے۔

◇ مرزا پھویا

جو بچہ اپنے ماں باپ یا بڑوں کے لاڈ پیار اور ناز برداری کی وجہ سے بہت نازک مزاج ہو جاتے ہیں ان کو مرزا پھویا کہتے ہیں یعنی روئی کا بہت ہی چھوٹا سا اور نازک سا پھویا ایسا پھویا جسے عطر سے بسایا جاتا ہے۔

سماجی طور پر ہمارے معاشرے میں غیر ضروری نزاکت، نازک مزاجی بُری بات سمجھی جاتی ہے اور اسی پر ایک طنز ہے اور اس دور کی یادگار ہے جب رئیسوں کے بچہ ناز نخرے کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں۔

◇ مرْمُروں کا تھیلا

مرْمُروں کی طرح چاول سے تیار کیا ہوا ایک آئیٹم ہوتا ہے، بہت ہلکا قریب قریب بے وزن اب اگر مرْمُروں کے ایک تھیلے میں بھر لیے جائیں تو تھیلا بہت بڑا ہوتا ہے مگر اس میں وزن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جو بظاہر موٹا تازہ اور بھاری بھر کم ہوتا ہے اسے مرْمُروں کا تھیلا کہتے ہیں۔

◇ مرنے کی فرصت نہیں ہوتی

موت کے لیے فرصت و فراغت کی کوئی شرط نہیں ہوتی مگر آدمی اپنے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر ہی لیتا ہے اور بہانہ بھی ایسا جو اسی کے لیے قابلِ قبول ہوتا ہے کسی دوسرے کے

لیے نہیں۔ ایسے ہی بہانوں میں سے یہ بہانہ بھی ہے کہ مرنے کی بھی فرصت نہیں، ظاہر یہ کرنا ہوتا ہے کہ میں بہت ضروری کسی کام میں لگا ہوا ہوں اور اس کو پورا کر لینا چاہتا ہوں اس وقت تو اگر فرشت موت آجائے تو اس سے بھی معذرت کر لوں گا کہ فی الوقت مجھے فرصت نہیں ہے، اس وقت میں جینا چاہتا ہوں اپنا کام سمٹانا چاہتا ہوں مجھے مرنے کی بھی فرصت نہیں۔

◇ مسجد میں اینٹ الٹ کر رکھنا

مسلمان عورتوں کا محاورہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ مسجد کے احترام میں یا اس کے کام میں کوئی بھی بے توجہی یا بددیانتی نہیں برتنی چاہیے اس لیے کہ اس کی سزا بہت شدید ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے رہے جو مذہب کے کاموں میں مقدس فرائض کی انجام دہی میں دیانت دار نہ رہے اسی پر یہ تشبیہ کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ عورتوں میں خاص طور پر جاہل عورتوں میں تو اہم پرستی زیادہ ہوتی ہے اور اسی کے رشتہ سے اس طرح کے تصورات بھی ان میں زیادہ ہوتے ہیں۔

◇ مشعل کے نیچے سے نکلا ہوا ہے

ایک طرح سے نیا محاورہ ہے مگر بہت دلچسپ ہے، جب تک گیس کے ہنڈولے یا بجلی کے بلب نہیں آتے تھے اس وقت تک زیادہ تر مشعلوں ہی سے کام لیا جاتا تھا اور جلوسوں کے موقع پر مشعل بردار ہوتے تھے جو دوسروں کو روشنی دکھلاتے تھے لیکن خود اندھیروں میں رہتے تھے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ چراغ تلے اندھیرا اس کا یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ زمانے کے ساتھ گھوما پھرا ہے اور تجربہ کار ہے۔

◇ مشعل لیکر ڈھونڈھنا

تلاش اور تجسس سے بھی روشنی و چراغ اور مشعل کا عملی اور اشاراتی رشتہ ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے مشعل لیکر نکلا۔ اقبال کا مشہور شعر ہے اور اسی عمل کی طرف اشارہ ہے۔

آئے عشاق گئے وادائے مردا لیکر

اب انھیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لیکر

◇ مصری کھلانا

”مصری“ خاص طرح کی مٹھائی ہے، برف جیسی شفاف ڈلیوں والی مٹھائی۔ یہ خوشی

کے موقع پر رسماً بھیجی بھی جاتی ہے اور کھلائی بھی جاتی ہے۔ اچھی باتوں کو مصری کی ڈلیاں بھی کہا جاتا ہے۔ مٹھائی کھلانا یا مٹھائی باٹنا ہمارے معاشرے میں خوشی کا اظہار کرنا ہے۔

◇ مطلع صاف ہو جانا

آسمان کے کنارے کو جہاں چاند نظر آتا ہے، مطلع کہتے ہیں، اگر مطلع غبار آلود یا ابر آلود ہوتا ہے تو چاند نظر نہیں آتا اور مطلع کے صاف ہونے کی صورت میں ہم نئے چاند کو صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مطلع صاف ہے۔ غبار کا پردہ یا ابر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ محاورہ خاص طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور ایسے آدمی کے لیے کہا جاتا ہے جس کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا۔ جودل سے محسوس نہیں کرتا اور دماغ سے سوچتا نہیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تو مطلع صاف ہے وہ بالکل خالی الذہن ہے۔

◇ معرکے کا آدمی

معرکہ جنگ کو بھی کہتے ہیں کسی اور مقابلہ کو بھی۔ اب جو آدمی مقابلہ کی سکت رکھتا ہے وہ معرکہ آدمی کہلاتا ہے اب یہ ظاہر ہے کہ جو آدمی معرکہ کا آدمی ہوگا وہ معمولی آدمی نہیں ہو سکتا غیر معمولی آدمی کو بھی معرکہ کا آدمی کہا جاتا ہے۔

◇ مغز کھانا، مغز چٹ کر جانا، مغز کو چڑھنا، مغز کے کیڑے جھڑنا یا مغز کی کیل نکلنا وغیرہ

ہمارے یہاں بعض لوگ غیر ضروری باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور اپنی باتوں سے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، جس سے ان کی سوچ بچار کی قوت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اسے محاورے کے طور پر مغز خالی کرنا یا مغز چٹ کرنا کہتے ہیں۔ جب کوئی دوا خوشبو یا بدبو بے طرح دماغ کو متاثر کرتی ہے تو اسے ”مغز کو چڑھنا“ کہتے ہیں۔

جو آدمی الٹی سیدھی اور غلط سلط باتیں کرتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں تو کیڑا کاٹتا ہے اور جب کسی طریقہ سے اس کی احمقانہ باتوں کو سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے غلط رویہ کو کنڈم کیا جاتا ہے تو اسے دماغ کے کیڑے جھاڑنا یا جھڑنا کہتے ہیں۔

ہماری داستانوں میں اس طرح کی کہانیاں ملتی ہیں کہ اس کے مغز میں کیل ٹھونک دی۔ یہ ایک طرح کا استعاراتی بیان ہوتا ہے۔ مغز میں کبھی کیل نہیں ٹھکتی مگر ”کیل دینا“ بھی ایک عمل ہے اور اسی کا رد عمل کیل نکالنا ہے۔ یہ دونوں کہانیوں اور داستانوں میں سامنے آئیوں لے عمل ہیں جو ہماری سماجی فکروں کا ایک رخ ہیں۔

◇ ملاحظہ کا آدمی، ملاحظہ والا

لحاظ ایک طرح کی رویہ کی خوبی ہے کہ آدمی لحاظ پاس رکھے یعنی معاملہ کرتے وقت آدمی کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ یہ کون شخص ہے، کس مزاج کا ہے اور معاملات میں کس طرح کی خوبصورتیاں برتنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لحاظ پاس کا آدمی ہے اس کی آنکھوں میں لحاظ ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ قرض ادھار تو لحاظ والے آدمی ہی سے مل سکتا ہے اور جو لوگ ان باتوں کا لحاظ نہیں کرتے ان کو بد لحاظ قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ میں ذرا شرم لحاظ نہیں ہے۔ اس معنی میں یہ محاورہ ہمارے سماجی رویوں کو ان کی نفسیات اور معاملات کے ساتھ پیش کرتا ہے۔

◇ منجد ہار میں پڑا ہوا

منجد ہار بہتے دریا یا ندی کا "Main" دھارا ہوتا ہے جو زیادہ پر قوت انداز سے بہتا ہے اور دریا کے چڑھاؤ اور پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے جس میں ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے اور اس سے کشتی یا تیراک بھی اکثر گزر نہیں پاتے اسی لیے "منجد ہار میں پڑنا" مصیبت میں پڑنے کو کہتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں اسے منجد ہار میں پھنسا کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک گیت کے بول پیش کیے جاتے ہیں۔

نیا پٹری منجد ہار ست سگھیری کون لگائے پار
◇ منکا ڈھلنا یا ڈھلکنا

سر سے لیکر کمر تک گردن میں جو مہروں کا سلسلہ ہے اسے منکا کہتے ہیں اور اسی کے سہارے سر گردن پر سنبھلتا ہے۔ موت کے قریب منکا ڈھل جاتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ موت کا ذکر کرنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ اس کا منکا ڈھل گیا ہے اور یہ ایک طرح کا سماجی طرزِ اظہار ہے عام لوگ کس طرح کی باتیں پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سماج میں رہنے والے ہیں۔

◇ من کا میل یا کھوٹا

من طبیعت، دل اور مزاج کو کہا جاتا ہے اور طبیعت کا میل ہو یا مزاج کی خرابی اور دل کا کھوٹ، آدمی کی طبعی یا مزاجی کیفیت کی برائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی کو من میں بیرو بخر رکھنا کہا جاتا ہے۔

◇ من کے چیتے ہو جانا

یہ محاورہ خاص دلی میں بولا جاتا ہے اور پرانی دلی کے علاقہ میں اسے سنا جاسکتا ہے مغربی یوپی میں بالکل استعمال نہیں ہوتا۔ دل کی خواہش کے مطابق کوئی کام ہو جانا یا کوئی کامیابی حاصل ہو جانا اس کے لیے ”من کے چیتے ہو جانا“ کہا جاتا ہے۔

◇ منگنی دینا

کوئی شے کسی کے مانگنے پر عاریتاً دے دینا یہ دہلی کا خاص محاورہ ہے اور اس کے بجائے مانگے کی چیز مغربی یوپی میں استعمال ہوتا ہے۔

◇ من مارنا، من مار کے بیٹھ جانا

اپنی دلی خواہش پوری نہ ہونے پر صبر کر کے بیٹھ جانا یا بیٹھ رہنا ”من مارنا“ کہلاتا ہے۔ یہ مجبوری کا صبر کرنا ہوتا ہے کہ جی تو نہیں چاہتا مگر کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے آدمی اپنی مجبوریوں کو تسلیم کر لیتا ہے۔ سماجی نفسیات کو ایک خاص ماحول میں کھول کر دیکھا جائے تو یہ محاورہ جو ایک تصور بھی ہے اور تصویر بھی ایک زندہ حقیقت کی صورت میں سامنے آتا ہے اور انسان یہ کہتا نظر آتا ہے۔

تری مرضی ہے اگر یونہی تو لے یونہی سہی

◇ منہ اتر جانا یا ذرا سامنہ نکل آنا

جب آدمی دکھ سے دوچار ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے اس پر کمزوری نقاہت یا محرومی برسنے لگتی ہے۔ اسی کو ذرا سامنہ نکل آنا یا ”منہ اتر جانا“ بھی کہتے ہیں۔ یہ کسی دکھ تکلیف کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے محاوروں کی طرح یہ بھی سماجی طریقہ پر اظہار کا ایک حصہ یا انداز ہے اور اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بات کہنے کے کیا کیا طریقہ و سلیقہ ہیں جو عام زبان میں برتے جاتے رہے ہیں۔

◇ منہ آنا، منہ باندھ کے بیٹھنا، منہ بگاڑنا، منہ بگڑنا، منہ بنانا، منہ بند کرنا، منہ بند ہو جانا، منہ بنوانا، منہ ڈھانپنا، منہ بھرانا، منہ بھر دینا، منہ بولا، منہ بولی، منہ بولتی مورت، منہ پر چڑھنا وغیرہ

منہ سے متعلق بہت سے محاورے ہیں جو سماجی رویوں اور معاشرتی نفسیات کو پیش کرتے ہیں۔ اس میں ”منہ چڑھنا“، ”منہ چڑھا ہونا“ یعنی کسی کے لیے بہت عزیز ہونا کہ وہ ناز نخرہ کر سکے۔ ”منہ آنا“ منہ کی ایک بیماری بھی ہے اور خواہ مخواہ دوسرے کے مد مقابل آنے کی

کوشش بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خوا مخواہ میرے منہ آتا ہے۔ ”منہ کی کھانا“ بدترین شکست کو کہتے ہیں کہ آخر منہ کی کھائی یعنی رسوائی کے ساتھ اپنی ہار قبول کی۔ ”منہ ڈھانپنا“ چھپانے کو بھی کہتے ہیں اُردو کا ایک مشہور شعر ہے۔

لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے
بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں

میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، میرا منہ زبردستی بند کر دیا گیا اب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، حکم ہے کہ منہ بند رکھو یعنی زبان مت کھولو، اظہار خیال بھی نہ کرو۔ منہ دیکھی بات یعنی سچ بات کسی کے منہ پر نہ کہہ کر کوئی بھی جھوٹی سچی بات کہہ دینا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تو منہ دیکھے کی بات کرتے ہیں، جیسا موقع ہوتا ہے بات کو بدل دیتے ہیں۔ منہ بولی بہن، منہ بولا بیٹا یہ گویا محبت کے رشتہ پیدا کرتا ہے یا محبت سے کسنی کو اپنا بنانا منہ بولی مورت ایسی تصویر جو رکھی ہوئی منہ سے بول رہی ہو یعنی Life Like ہو۔ منہ دکھائی شادی کی ایک رسم ہے جسے ”منہ رونمائی“ بھی کہتے ہیں اور جس میں پہلے پہلے دلہن کا منہ دیکھنے والیاں کوئی نہ کوئی تحفہ یا روپیہ پیسہ پیش کرتی ہیں۔

◇ منہ توڑ جواب، منہ توڑنا، منہ پھیلانا، منہ پسارنا

سخت جواب دینا، دلیلوں کے ساتھ جواب دینا۔ آدمی دوسروں کی بات کو سکر چپ ہو جاتا ہے تو خود ہی بات کا رخ بدل دیتا ہے لیکن اگر برداشت کرنا نہیں چاہتا تو پھر سخت جواب دینے پر بھی اور اگر بات کو ٹالنا یا aviod کرنا چاہتا ہے آمادہ ہو جاتا ہے اور جس لب و لہجہ میں اور جس انداز میں جواب دیتا ہے اس کو منہ توڑ جواب دینا کہتے ہیں۔ دراصل منہ توڑنا، منہ پر تھپڑ یا ایسی کوئی چیز مارنا ہے جس سے سخت ضرب پہنچے گی۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے کہتا یا اس طرح پیش آتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا۔ منہ توڑ جواب بھی اسی جذبہ کی ترجمانی کرتا ہے۔

ہمارے ہاں ”دامن پسارنا“ ہاتھ پسارنا، اپنے لیے کچھ مانگنا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری عمر تو فلاں کے سامنے ہاتھ پسارتا رہا ہے یعنی ہاتھ پھیلاتا رہا ہے اُردو کا مصرعہ ہے۔

پھیلائے نہ ہاتھ نہ دامن پارئے

”منہ پسارنا“ بھی اسی معنی میں آتا ہے یعنی اپنے لیے کچھ طلب کرنا اور عاجزی کے ساتھ طلب کرنا، اس کے مقابلہ میں منہ پھیلانا، ناخوشی کا اظہار کرنا ہے، منہ چڑھنا بھی ناراضگی کے معنی میں آتا ہے جیسے ذرا سی بات پر ان کا منہ چڑھ جاتا ہے۔

◇ منہ در منہ کہنا

کسی کے سامنے بے جھجک کوئی بات کہنا، صفائی سے کہنا۔ اس سلسلہ میں منہ در منہ ہونا بھی محاورہ ہے۔ ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے تو بہت کچھ کہتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں اور اگر ایک محاورے کا سہارا لیا جائے تو کیڑے نکالتے ہیں لیکن کسی کے منہ در منہ یعنی سامنے کچھ کہنے اور اظہارِ خیال میں کتراتے اور گھبراتے ہیں۔ اس محاورہ میں ہماری یہی تمدنی روش سامنے آتی ہے۔

◇ منہ دیکھ کر رہ جانا

یہ حیرت کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور تمنا کی صورت میں بھی اُردو کا شعر ہے۔

ذرا دیکھ اے محو آئینہ داری
تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں

◇ منہ زوری کرنا

یعنی غلط باتیں کہنا اور زور داری کے ساتھ کہنا ”منہ زوری“ کہلاتا ہے۔ مگر منہ زور گھوڑا دوسری بات ہے یعنی ایسا گھوڑا جس کو لگام دینا مشکل ہوتا ہے۔ بدتمیز آدمی کو بھی منہ زور گھوڑا کہتے ہیں۔

◇ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت

ضعیفی اور بڑھاپے کی انتہائی صورتِ حال کی طرف اشارہ کر نیوالا محاورہ ہے۔ یعنی جب کسی طرح طاقت باقی نہ رہی تو اب ہو کیا سکتا ہے یہ محض کمزوری کو نہیں کہتے اس میں بڑھاپا اور پایاںِ عمر شریک ہے۔

◇ منہ میں گھنگھنیاں بھر جانا

آدمی جہاں بات کرنے کا موقع ہو وہاں بھی چپ رہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تو منہ میں گھنگھنیاں بھرے بیٹھے ہیں اور بول ہی نہیں رہے ہیں۔ منہ بہت ضروری عضو ہے، کھانا پینا وغیرہ غصہ اور پیار، اپنائیت اور غیریت کا اظہار منہ اور زبان ہی کے ذریعہ ہوتا ہے اسی لیے منہ کی ایک سماجی اور معاشرتی اہمیت بھی ہے۔ اگر آدمی بات نہ کر سکے تو اس کی سماجی حیثیت کس حد تک مجروح ہو جاتی ہے اس کا اندازہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں منہ سے متعلق محاورے ہماری معاشرتی زندگی اور سماجی ذہنیت کے کتنے رخ کو پیش کرتے ہیں وہ آدمی بھی کیا جو نہ منہ سے بولے نہ سر سے کھیلے۔

◇ موت کا پسینہ آ جانا

زندگی کا آخری وقت آ جانا اس سلسلہ میں یہ بھی ایک تجربہ ہے کہ دم حق ہونے سے یعنی آخری سانس لینے سے پہلے مرنے والے کو پسینہ آتا ہے، خاص طور پر ماتھایا پیشانی نم آلود ہو جاتی ہے اس کو ”موت کا پسینہ آنا“ کہا جاتا ہے اُردو کا ایک شعر ہے۔

پسینہ موت کا آیا ذرا آئینہ تو لا
ہم اپنی زندگی کی آخری تصویر دیکھیں گے

اس سے ایک بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کی سچائیوں اور واقعاتی صورتوں کو بھی محاوروں میں شامل کیا ہے۔ محاوروں میں اپنے سے متعلق صورتِ حال کو نہ کہ محفوظ کیا ہے بلکہ معنیاتی طور پر اسے ایک نئی معنویت سے آشنا بھی کیا ہے۔

◇ موتی کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں، موتیوں سے منہ بھرنا، موتی چور کے لڈو

موتی ہمارے معاشرے میں دولت و ثروت، عزت اور عظمت کی ایک علامت ہے۔ اسی لیے اچھے آدمی کو اس کی خوبیوں کے باعث ہم ہیرے یا موتی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پنجابی زبان میں تو موتیاں والیوں یا موتیاں والیاں کہا جاتا ہے۔ ”موتیوں میں تول دینا“ موتیوں سے منہ بھر دینا یا ”موتی کوٹ کوٹ کر بھرے ہونا“ بڑے انعام بڑے عطیہ بڑی خوبیوں کو کہا جاتا ہے۔ ”موتیوں کا نوالہ“ اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کو کہا جاتا ہے۔ سونے کا نوالہ بھی ایسے ہی موقع پر آتا ہے اور موتی چور کے لڈو بھی ایسے ہی تصورات کا آئینہ دار ہے۔

◇ موچھوں کے کوٹڈے کرنا

ہمارے یہاں نذر و نیاز کی غرض سے کھانا پکانا اور تقسیم کرنا ایک مقدس رسم کے طور پر انجام دیا جاتا ہے۔ ایسا خوشی کے موقع پر بھی کیا جاتا ہے اور اسی کو خوشیوں بھرے مبالغہ کے طور پر ”موچھوں کے کوٹڈے کرنا“ کہا جاتا ہے جو بچہ کے جوان ہونے پر خوشی کے اظہار کا ایک موقع ہوتا ہے اور بطور رسم اسے کیا جاتا ہے۔

◇ مول لے کے چھوڑ دینا

بڑی نیت کی بات ہوتی ہے یا پھر اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے احسان کر کے چھوڑ دیا مول لینا قیمت ادا کرنا ہوتا ہے اور قیمت ادا کرنے کے بعد آدمی اپنا حق زیادہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا مول لیا ہوا ہے یا پھر طنز کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے مجھے مول

تھوڑے لے لیا ہے، یعنی مجھ پر اتنا حق کیوں جتاتے ہو۔

جتنا حق زر خرید اشیا یا غلاموں پر جتایا جاتا ہے اس سے سماجی نفسیات اور معاشرتی رویوں کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان سماج میں رہ کر کس کس طرح سوچتا ہے اور کس کس پیرایہ میں اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہے۔

◇ میدہ و شہاب

بہت اچھے رنگ روپ کی لڑکیوں کے لیے میدہ و شہاب جیسی رنگت کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی رنگت کا لفظ نہیں بھی آتا اور صرف میدہ و شہاب کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کیا ہے میدہ و شہاب کی طرح ہے۔

ہمارے ہاں خوبصورتی ہو یا بدصورتی اس کے لیے تشبیہوں اور استعاروں سے کام لیا جاتا ہے کہ وہی تاثر کو ایک خوبصورت شکل دینے میں ہمارے کام آتے ہیں۔ میدہ، شہاب دو صفتیں رکھتے ہیں۔ میدہ نرم بہت ہوتا ہے اور اس کو جب چھوا جاتا ہے تو نرمی کا ایک عجیب احساس ہوتا ہے، جو ہمارے اعصابی نظام کو بھی ایک حد تک متاثر کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی شے کو چھوتے ہیں تو اس میں اسی انداز، گداز، نرمی اور دل آویزی کا احساس ہوتا ہے اس کے مقابلہ میں پتھر لوہا لکڑی اپنا الگ احساس رکھتے ہیں۔ ”شہاب“ ٹوٹنے والے ستارے کو کہتے ہیں جو نظر کے سامنے آتا ہے اور تیزی سے گذر جاتا ہے، یہ چاندی جیسی چمکتی ہوئی لکیر ہمیں بے حد اچھی لگتی ہے کہ اس میں ایک خاص جھلملاہٹ ہوتی ہے۔ یہی جھلملاہٹ اس وقت بھی ہماری نظر میں ہوتی ہے جب ہم کسی سفید رنگ کی لڑکی یا لڑکے کو دیکھتے ہیں۔ لڑکی خاص طور پر اپنی عمر، بھول پن، سادگی یا پھر شوخی یا معصومانہ شرارت کے اعتبار سے اس کی سنہری سنہری اور صبح جیسی سفید رنگت دل کو بہت بھاتی ہے۔ اسی نسبت سے جس کی صورت و شکل اور چہرہ کی خوبصورت دھوپ کی تعریف کرنی ہوتی ہے اس کے لیے کہتے ہیں میدہ و شہاب سارنگ۔

رویف _____ ن

◇ ناچ نہ جانوں آنگن ٹیڑھا

جب کسی کو کوئی فن یا ہنر نہیں آتا اور وہ اپنے نہ جاننے پر طرح طرح سے پردے ڈالتا ہے اور اس پر بہانہ بازی کے انداز سے اُنکی اٹھاتا ہے تو اس پر طنز کے طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ

ناچنا تو آتا نہیں اور خواہ مخواہ جگہ کے ٹیڑھے میڑھے ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ یہ سماج کی تنقید اور طنز کا ایک بہت دلچسپ اور معنی خیز نمونہ ہے۔

◇ ناچ نچانا

دوسروں کو اپنی غلط سلسلے رائے اور خیال پر عمل کرنے کے لیے طرح طرح سے مجبور کرنا، اسے ”ناچ نچانا“ کہتے ہیں۔ ناچ پر اُردو میں بہت محاورے ہیں اور ہندوستان کی تہذیبی روایت اور تمدنی فضا سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ”تگنی کا ناچ نچانا“ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اُنکلیوں کے اشارے ناچنا یا نچانا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور ہمارے سماجی رویوں سے گہرا رشتہ رکھتا ہے۔

◇ ناخن لینا

ویسے تو ناخن لینا، ناخن کاٹنے کے معنی میں آتا ہے مگر محاورے کے طور پر اس کے معنی ہوتے ہیں ”خبر لینا جتاناً“ کہ تم نے ایسا کیا ہے یا تم وہ ہو جس کا کردار یہ ہے۔

◇ ناخنوں میں پڑے رہنا

کسی بھی کم درجہ شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے ایسے لوگ تو میرے ناخنوں میں پڑے رہتے ہیں کسی شاعر کا شعر ہے۔

تم تو اس شخص کو کہتے ہو بڑی چیز ہے وہ

ایسے دوچار پڑے ہیں میرے ناخنوں میں

◇ نادر شاہی ہے، نادر گردی ہے

”نادر“ حکم ہے اس طرح کے محاورے دہلی میں رائج رہے ہیں اور دہلی سے

باہر بھی ان کا استعمال رہا ہے۔ نادر شاہ نے جب محمد شاہ رنگیلے کے زمانہ میں دہلی کو لوٹا اور یہاں قتل عام کیا تو دہلی والوں کو اس سے بہت تکلیف پہنچی ان کا شاہی شہر برباد ہوا اور شہر کی عزت ختم ہوئی۔ اسی کی یادگار یہ محاورے ہیں کہ ان کی بات تو نادر شاہی حکم ہے۔ کیونکہ نادر شاہ کے سپاہیوں نے یہاں بہت افراتفری پھیلائی تھی۔ اس لیے اس کے زمانہ کی صورت حال کو ”نادر گردی“ کہتے ہیں۔ اس سے ہمارا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ ہمارے بعض محاورے تاریخی واقعات کی نشاندہی اور ان پر ہمارے معاشرتی ردِ عمل کی ترجمانی کرتے ہیں۔

◇ ناک بھوں چڑھانا

ناراضگی اور ناخوشی کا اظہار کرنا، خود ناک چڑھانا بھی نازنخرے کے ہی معنی میں آتا ہے۔ ”ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا“ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کرنا، یہ تک مزاج آدمی کو کہتے ہیں جو ذرا سی بات پر ناخوشی کا اظہار کرتا ہے اور چیس بہ جیس ہو جاتا ہے یعنی اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ یہ سماجی رویہ ہیں جن کا تعلق انسان کے اپنے مزاج اور عادتوں سے بھی ہوتا ہے ہمارے ان محاورات میں ان روشوں اور رویوں ہی کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے۔

ناک کٹنا یا ناک کاٹنا، ناک رہ جانا، نکو بننا یا نکو بنانا بھی ناک سے تعلق رکھنے والے محاورے ہیں۔ ناک کٹوانا یا ناک کاٹ لینا یہ سب بے عزت ہونے یا بے عزت کرنے کے معنی میں آتے ہیں اور ”نکو بنانا“ ان کے مقابلہ میں قابل اعتراض ٹھہرانے کا عمل ہے۔ جس پر یہ محاورے روشنی ڈالتے ہیں۔ ”ناک کان دینا“ بے عزت ہونے کو کہتے ہیں۔ جب آدمی کسی بات کا وعدہ کرے یا کسی کام کے کرنے کا دعویٰ کرے اور نہ کر سکے بے عزت ہو جائے تو اسے ”ناک کان دیکر جانا“ کہتے ہیں۔ ہمارے ان محاوروں سے قبائلی یا قدیم تہذیبی رویوں کی نشاندہی ہوتی ہے اور یہ ایک وقت میں جو سماج کی سوچ تھی اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔

◇ ناک پر اُننگلی رکھ کر بات کرنا

ناز و نخرے سے بات کرنے کی ادا کو کہتے ہیں۔ جس میں چھوٹے طبقہ کی عورتوں کا رویہ خاص طور سے شامل رہتا ہے یا پھر زرخوں کا رویہ جو ناک پر اُننگلی رکھ کر بات کرتے ہیں۔

◇ ناک کا بال ہونا

بہت عزیز ہونا اور عزت کی نشانی سمجھنا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تو ان کی ”ناک کا بال“ ہے، ان کے لیے وجہ عزت ہے۔ عام طور پر اب یہ محاورہ شہری سطح پر بولا نہیں جاتا کیونکہ اس کے مفہوم میں ایک طرح سے کراہت کا پہلو ہے۔

◇ نام اچھالنا یا نام اچھلنا، نام بدنام ہونا، نام ہونا، یا نام رکھنا، نام روشن ہونا وغیرہ

یہ سب محاورے ہیں جو نام سے وابستہ ہیں۔ ”نام“ شہرت و عزت کو بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے ”نام روشن ہونا“ اچھے معنی میں آتا ہے اور طنز کے طور پر اسے برے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تم نے باپ دادا کا نام خوب روشن کیا۔ دیہات میں ”نامی گرامی“ عزت والے

آدمی کو کہتے ہیں اور ان لفظوں کا تلفظ تشدید سے کرتے ہیں۔ ”نام اُچھلنا“، ”نام نکلنا“ دونوں بدنام ہونے کے معنی میں آتے ہیں۔ ”نام اُچھالنا“ کسی کو جھوٹ سچ باتیں کر بدنام کرنے کے معنی میں آتی ہیں۔ ”نام ہونا“ شہرت پانے کے معنی میں آتا ہے۔ ”نام رکھنا“ کسی پر اعتراض کرنا اور برائی میں اس کا نام لینا، وہ دوسروں کو بہت نام رکھتے ہیں یا انھیں نام رکھنے کی بہت عادت ہے۔

”برائے نام ہونا“ کسی کام کو دل لگا کر اور پورے طور پر انجام نہ دینا۔ ایسی کسی صورت کو برائے نام بات کرنا یا کام کرنا کہتے ہیں کہ سب باتیں برائے نام ہیں۔ ان کا کوئی سنجیدہ مقصد نہیں۔

◇ نام لیوا ہونا، نام کی رٹ ہونا، نام کا عاشق ہونا

جو شخص کسی اپنے بڑے رشتہ دار کو یاد کرے یا اس کے کام آئے وہ ”نام لیوا“ کہلاتا ہے اور جس کا کوئی نہ ہو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ”نام لیوا“ بھی نہیں ہے۔ ”نام کی رٹ ہونا“ بار بار کسی کو یاد کرنا اور اس کا نام لینا۔ ”نام کا عاشق ہونا“ کسی کو بہت عزیز رکھنا بقول غالب۔

ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے

◇ ناؤ خشکی میں نہیں چلتی

ناؤ کشتی کو کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر نے اپنے ایک شعر میں دونوں لفظوں کو ایک ساتھ استعمال کیا ہے۔

عشق کی ناؤ پار کیا ہووے

جو یہ کشتی تری تو بس ڈوبی

ناؤ پانی ہی میں چلتی ہے، خشکی میں نہیں چلتی اسی کے ساتھ ناؤ لکڑی ہی کی ہو سکتی ہے لوہے یا کاغذ کی نہیں۔ اُردو کا مشہور مصرعہ ہے۔

ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں

چل کیسے سکتی ہے کہ کاغذ تو پانی میں گل جاتا ہے۔

◇ ناؤ کس نے ڈبوئی خضر نے

حضرت خضر پانی کے دیوتا جیسا کردار رکھتے ہیں اسی لیے ان کا لباس سبز ہے اور وہ

اکثر دریا کے کنارے ملتے ہیں۔ آبِ حیات کے سرچشمہ تک ان کی رسائی ہے۔ اب اگر وہی ناؤ کے دریا میں ڈبونے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کی فریاد کس سے کی جائے۔ اسی لیے یہ محاورہ آتا ہے کہ یہ ناؤ کس نے ڈبوئی نہض نے۔ اب یہ شکایت ہو تو کس سے ہو یہ ایسا ہی مفہوم ہے جیسے کوئی کہے کہ جب کعبہ سے کفر اٹھنے لگے تو مسلمانی کہاں رہے گی۔ فارسی کا مصرعہ ہے۔

چو کفر از کعبہ بر خیز زد کجا ماند مسلمانی

یہ گویا ان اداروں اور ان لوگوں پر طنز ہے جو کسی بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور جس نے روشنی و رہنمائی کی توقع کی جاتی ہے مگر ان کا عمل توقع کے بالکل برخلاف ہوتا ہے تبھی تو نہض ناؤ ڈبوتے ہیں۔ اور کعبہ سے کفر اٹھتا ہے۔

◇ نخاس کی گھوڑی، نخاس والیاں

پہلے زمانہ میں جب گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی تو گھوڑوں کے بازار لگتے تھے۔ عام طور پر پولیس، فوج اور رئیسوں کی سواری کے لیے گھوڑے ہی خریدے جاتے تھے لیکن گھروں میں باندھنے کے لیے گھوڑیاں خریدتے تھے اور انھیں نخاس کی گھوڑی کہتے تھے، جس کے معنی ایک طرح سے بازاری عورت کے بھی ہوتے تھے۔ بازاری عورتوں کو اگر گھر میں ڈال لیا جاتا تھا تو اسے اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اکثر بازاری عورتوں سے گھروں کی پردہ نشین عورتیں پردہ کرتی تھیں، ایسی عورتوں کا عمل دخل دیوان خانوں یا بیٹھکوں تک محدود ہوتا تھا۔ جو رئیس ان سے تعلق رکھتے تھے وہ انھیں اپنی حرم سرایا زنان خانہ میں نہیں بلاتے تھے۔ نخاس کی گھوڑی جیسا طنز عورتوں ہی کی طرف سے ہوتا ہوگا جس کے ذریعہ ہم آج بھی اس سماج کے ذہنی عمل اور ردِ عمل کو سمجھ سکتے ہیں۔ ”نخاس والیاں“ کے معنی بھی یہی ہیں۔ لکھنؤ کے ایک بازار کا نام نخاسہ ہے لیکن وہاں اب گھوڑے نہیں بکتے اور نہ بازاری عورتیں رہتی ہیں۔

◇ نخرہ بگھارنا، نخرہ میں تلنا

ہمارے سماجی رویوں میں ایک رویہ نخرہ کرنا بھی ہے، یعنی خواجواہ ناز دکھانا اور اپنی قدر و قیمت کو بڑھانا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں اس طرح کا انداز آج بھی پایا جاتا ہے کہ اولاد، بیوی اور ساس خواجواہ نخرہ کرتی ہے۔ نخرہ میں کوئی معقولیت نہیں ہوتی، ناز و ادا دکھانے کا بھی کوئی سلیقہ، طریقہ، نخرہ دکھانے میں شامل نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے کہ یہ ہمارے سماج اور مزاج میں

شامل رہتا ہے اور بیوقوف لوگ اس کا زیادہ سے زیادہ موقع بہ موقع اظہار کرتے ہیں اور خواہ مخواہ نخرے دکھاتے ہیں۔ ”نخرہ میں تلنا“ کے معنی بھی یہی ہیں اس کا رواج زیادہ تر عورتوں کے باہمی معاملات میں ہوتا ہے۔

◇ نرغے میں آجانا

خطرے میں گھر جانا، یہ لفظ نرکا بھی کہلاتا ہے اور ہانکا کے معنی میں آتا ہے یعنی جانوروں کو گھیر کر کسی ایسے مقام پر لانا جہاں ان کا آسانی سے شکار ہو سکے۔ اسی لیے نرغے میں پھنسا دشمنوں کے حلقہ میں گھر جانے کو کہا جاتا ہے اور اظہارِ ہمدردی کے طور پر بولا جاتا ہے کہ وہ بچارا خواہ مخواہ نرغے میں پھنس گیا، مشکلات یا مصیبتوں میں گھر گیا۔ اس میں طرح طرح کے خطرات بھی شامل ہیں۔ محاورہ کسی صورت حال کو کس طرح اپنے اندر سمیٹتا ہے اس کا اندازہ اس محاورے سے بھی ہوتا ہے۔

◇ نسبت ہو جانا، نسبتی بھائی

”نسبت ہو جانا“ رشتہ ہونے کو کہتے ہیں اس کے لیے نسبت ٹھہرنا بھی کہا جاتا ہے اور جس کی نسبت کسی سے ٹھہر جاتی ہے وہ اس سے گویا منسوب ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر یہ لفظ لڑکی یا عورت ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سسرال کے رشتہ دار، نسبتی بھائی، بہن یا خالا ماموں یا پھوپھی اسی نسبت کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ جب ان کا تعلق سسرال سے ہو جائے تو برادرِ نسبتی یا خواہرِ نسبتی دلہن کے بھائی بہن کو کہتے ہیں۔ جسے ہماری عام زبان میں ساللا یا سالی کہا جاتا ہے یہ گویا رشتوں کی وہ تقسیم ہے جو شادی کے ذریعہ قائم ہوتی ہے اور سماجی رشتوں کے تعین اور مطالعہ میں اس سے مدد ملتی ہے۔

◇ نس پھڑکنا (رگ پھڑکنا)

”نس“ رگ کو کہتے ہیں۔ ”نس کٹنا“ محاورہ اسی سے آیا ہے جس کے معنی ہیں کہ کوئی ایسی رگ کٹ جانا جس سے بڑی طرح خون بہنے لگے۔

”نس نس میں سمانا“ رگ میں پیوست ہونا یا اتر جانا غالب کا یہ شعر ہے۔

رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل

جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے

یہاں رگ رگ سے مراد نس نس ہی ہے۔ نسوں میں خون نکالنا بہت تکلیف دے کر کسی کو اس کے عمل کی سزا دینا۔ یہ بھی نس نس ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ ”نس پھڑکنا“ بھی محاورہ ہے۔ اور کسی کی یاد آنے اور کسی بات کا احساس ہونے کو ”نس پھڑکنا“ کہتے ہیں۔ ”نس پر نس چڑھ جانا“ رگ پھوں میں کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کو ہم اچانک محسوس کرتے ہیں اور اسے نس پر نس چڑھ جانے سے تعبیر کرتے ہیں یہ تکلیف اکثر پنڈلیوں میں ہوتی ہے اور زروس سٹم میں کوئی ایسی عارضی خرابی اس کا سبب بنتی ہے جس کو فوری طور پر سمجھا نہیں جاتا اسی سلسلہ میں اردو کا ایک شعر ہے۔

رگ وپے میں جب اترے زہرِ غم تب دیکھئے کیا ہو

ابھی تو تلخی کام ودہن کی آزمائش ہے

یہاں رگ وپے میں اترنے کے جو معنی ہیں وہی نس نس میں اترنے کے بھی ہیں۔

ان محاوروں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح بعض فقرات اور الفاظ ایک خاص معنی کی پابندی کے ساتھ نئے معنی اختیار کر جاتے ہیں اور اسی سے محاورہ بنتا ہے۔

◇ نشہ ہونا، نشہ پانی کرانا، نشہ کرنا، نشہ کا عادی ہونا

نشہ دراصل کیفیتِ خمار کو کہتے ہیں جو اکثر شراب پینے سے ہوتا ہے۔ محاورتا کسی بھی

حالت میں اگر سرشاری کی کیفیت میسر آ جائے تو اسے بھی نشہ ہونا کہتے ہیں۔ نشہ پانی کرنا یا

کروانا، نچلے شرابی کبابی طبقہ کا محاورہ ہے۔ شراب اُونچے طبقہ میں بھی پی جاتی ہے مگر وہ لوگ

اسے ”نشہ پانی کرنا“ نہیں کہتے۔ نشہ کا عادی ہونا تقریباً روز شراب پینا ہے۔ نشہ پانی کرنے

سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محاورات میں بھی کہیں کہیں طبقاتی اندازِ نظر کا فرق موجود ہے۔ اس سے

ہم زبان کے استعمال میں بھی طبقاتی سطح اور اندازِ نظر کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں۔

◇ نشہ ہرن ہونا، نشے کے ڈورے ہونا، نشلی آنکھیں

جب آنکھوں سے نشہ غائب ہو جاتا ہے اور ذہن پر مستی و سرشاری کا غلبہ نہیں رہتا

اور کسی خطرے کا احساس کر کے آدمی ہوش میں آ جاتا ہے تو اسے نشہ ”ہرن ہونا“ کہتے ہیں کہ ذرا

سی دیر میں سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ لیکن ”آنکھوں میں نشے کے ڈورے ہونا“ ایک شاعرانہ اندازِ

نظر رکھنے والا محاورہ ہے۔ اور آنکھوں میں نشے کی سرخی کو گلابی ڈورے یا نشے کے سرخ ڈورے کہا

جاتا ہے۔ محاورے جب شاعرانہ انداز اختیار کرتے ہیں تو ان سے ایک نیا حسن پیدا ہوتا ہے۔

◇ نصیب لڑنا، نصیب کھلنا، نصیبہ پھرنا، نصیب پھوٹ جانا وغیرہ

قسمت کے بارے میں ایک خاص محاورہ ہے جس کام کا انجام پانا یا جس سے مراد کا پورا ہونا بظاہر ممکن نہ ہو وہ کام اگر ہو جائے تو اس کو قسمت کا لگنا یا نصیب کھلنا کہتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے تو نصیب کھل گئے، قسمت لڑ گئی۔ ”نصیبہ پھرنا“ یا ”نصیب پھوٹ جانا“ بھی اسی معنی میں آتا ہے۔

◇ نظریا نظریں چرانا، نظر ڈالنا، نظر رکھنا، نظر چڑھنا یا نظر میں چڑھنا، نظروں سے گرانا، نظر کھا جانا، یا لگنا، نظر میں پھرنا، نظریا نظروں میں سمانا، نظر میں کانٹے کی طرح کھٹکنا یا چبھنا وغیرہ

نظر کے بارے میں ہمارے یہاں بہت محاورات ہیں جو نظر کے تعلق سے ہمارے فکر و خیال کے مختلف گوشوں کی نمائندگی کرتے ہیں جیسے ”نظر رکھنا“ کسی بات کا خواہش مند ہونا ”نظر میں رکھنا“ ذہن میں کسی خیال یا مسئلہ کو رکھنا کہ اس کو ہونا یا نہ ہونا چاہیے۔ ”نظر ہو جانا“ ہماری تو اہم پرستی کی ایک علامت ہے کہ اس کو تو نظر ہو گئی یا نظر لگ گئی یا پھر ان کی بری نظر بے حد نقصان پہنچا گئی یا کھا گئی۔ ”نظر کھا گئی“ کے وہی معنی ہیں جو زنگ کھا گئی کے ہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے

”نظر بچانا“ ارادے کے ساتھ دوسرے کی طرف دیکھنے میں تکلف کرنا ہے۔ نظریں چرانا یا نظر چرانا بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ نظر میں آنا یا نظر میں چڑھنا، پسند آنے کے معنی میں آتا ہے اور اس کے مقابلہ میں نظر سے گرنا یا گر جانا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ نظر میں رہنا اور ”نظر میں پھرنا“ بھی آتا ہے یعنی خیال رہنا یا دانا یا دکرنا۔ ”نظریا نظروں میں سمانا“ اچھا لگنا اور پیارا ہونا ہے کہ وہ آج کل ان کی نظروں میں سمار ہے ہیں۔ نظر نظر کی بات ہے یعنی کون کس کی بات کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کی نظر میں کس بات کے کیا معنی ہیں۔

نظر میں کھٹکنا یا نظر میں چبھنا ناگوار ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو کسی بھی شخص یا شخصیت کے بارے میں کون کیا خیال رکھتا ہے پسند یا ناپسند کا معیار کیا

ہے اور کس کے دل میں کس بات کی کیا قیمت ہے یا کس شخص کا کیا درجہ ہے، یہ نازک سماجی رشتہ ہیں جن کا انسانی نفسیات سے گہرا تعلق ہے۔ اور سماجی ادبی شعور جو کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس کو محاورے کے ذریعہ سمجھا جاسکتا ہے۔

◇ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے

شور شرابہ اور ہلڑ بازی میں کوئی اچھی بات کون سنتا ہے۔ اسی کو نقار خانے میں طوطی کی صدا کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانہ میں شاہی محل میں بھی نقار خانہ ہوتا تھا اور پانچ وقت نوبت بجتی تھی، چنانچہ لال قلعہ میں اب تک نوبت خانہ موجود ہے، جہاں اب تک نوبت بجتی ہوگی۔ خوشی کے موقع پر ڈھول تاشے بجانے کا عام دستور تھا۔ یہاں تک کہ نازیوں کے جلوس کے ساتھ بھی یہ صورت رہتی تھی اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔

◇ نقش بدیواں ہونا، نقش بر آب ہونا

دیوار پر بنی ہوئی کوئی بھی تصویر جو اپنی خاموش زبان میں بہت کچھ کہتی نظر آتی ہے جو آدمی بچارا گھر میں بالکل چپ رہتا ہے اسے بھی نقش بہ دیوار کہا جاتا ہے۔ پانی پر ہزاروں شکلیں بنتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں گرداب بنتے ہیں بھنور پڑتے ہیں، بلبے اٹھتے ہیں اور لہریاں بجتی ہیں مگر یہ تماشہ پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا تو ایک مرقع پانی میں سج گیا اور دوسرا جھونکا آیا تو ہر چیز مٹی یا بدلتی چلی گئی اسی مشاہدہ نے آدمی کو یہ سبق دیا کہ پانی پر جو نقش بنتا ہے وہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں نقش کلمہ حجر یعنی وہ نقش جو پتھر پر ہو جو کسی کے مٹائے نہیں مٹتا۔ اسی لیے اُردو محاورات میں اس محاورے کا استعمال پائیداری کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا نام تو نقش کلمہ حجر ہو گیا یہ عربی ترکیب لفظی اُردو کی ساخت پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ اس میں عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت وغیرہ بولیوں اور زبانوں کے الفاظ خلط ملط ہو گئے ہیں۔ اور انہی کی وجہ سے وہ ایک کھجڑی زبان ہے۔

◇ نکلے ہوئے دانت پھر نہیں بیٹھتے

محاورات میں بہت سے محاورے انسان کے بدن اور بدن کے اعضا سے متعلق ہیں ان میں دانت بھی ہیں۔ ان کی تعداد کافی محاوروں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ دانتا کل کل ہونا، ”منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت نہ ہونا“ دانت کاٹی روٹی ہونا، ”دانت رکھنا“ کس طرح

کے یہ محاورے ہیں جو دانتوں سے تعلق کے ساتھ زندگی کے مختلف مراحل کو پیش کرتے ہیں، خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جس میں کہیں تشبیہ، کہیں استعارہ، کہیں کہاوت، کہیں مشاہدہ اور کہیں زندگی کا کوئی انوکھا تجربہ شامل رہتا ہے۔

◇ نمک حلالی کرنا، نمک حرامی کرنا

نمک ہمارے یہاں بہت بڑی نعمت خیال کیا جاتا ہے اسی لیے نمک کے ساتھ وفاداریوں کا تصور وابستہ ہے اور جو کسی کا نمک کھاتا ہے وہ اس کا بندہ بے دام بن جاتا ہے اور اس کے لیے اپنا خون پسینہ بہانے پر تیار رہتا ہے۔ ایسے ہی کسی شخص کو ”نمک خوار“ ہونے کے علاوہ ”نمک حلال“ کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانہ میں لوگ ان قدروں کو بہت مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے جو لوگ اپنے آقا کے یا اپنے محسن کے وفادار نہیں ہوتے وہ ”نمک حرام“ کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی کردار دہلی میں تھا جس کی حویلی اب بھی نمک حرام کی حویلی کہلاتی ہے۔ الفاظ کن حالات کن خیالات اور کن سوالات کے ساتھ اپنے معنی کا تعین کرتے ہیں ان کی مثالیں نمک سے وابستہ محاوروں میں بھی تلاش کی جاسکتی ہیں۔

◇ نمک چھڑکنا اور نمک کی ڈلیاں ہونا

جب آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے اور تمام رات آنکھ نہیں لگتی نیند، اڑ جاتی ہے تو آنکھوں کی تکلیف کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ساری رات میری آنکھیں نمک کی ڈلیاں بنی رہیں۔

”نمک چھڑکنا“ اور خاص طور سے ”زخموں پر نمک چھڑکنا“ ذہنی تکلیف اور نفسیاتی اذیتیں پہنچانا ہے اور اس اعتبار سے یہ زندگی میں سزا دینے کا بہت ہی سخت عمل ہے کہ زخموں پر نمک چھڑکا جائے۔

◇ ننگی تلوار یا شمشیر برہنہ

تلوار میان میں رہتی ہے اور میان سے باہر آتی ہے تو خطرہ کا سبب ہوتی ہے اسی لیے بہت غصہ والے آدمی کو شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ ایک شاعرانہ انداز ہے اور ہر ایسی چیز کو جس میں بجلی جیسی تڑپ چمک دمک موجود ہو تو ننگی تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی محبوبہ دنواز کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ مصرعہ بھی لکھا ہے۔

شمشیر برہنہ مانگ عجب اور اس پہ چمک پھروسی ہے

◇ نواڑا کھینا

ناواڑا بھی کہا جاتا ہے اور اڑنے کے ساتھ اس کا یہ تلفظ ہماری بولی ٹھولی میں اڑنے کے لیے استعمال کا ایک نمونہ ہے۔ جیسے ہم پلنگ سے پلنگڑی کہتے ہیں، بنگا سے بنگڑی اسی طرح نا سے نواڑا چھوٹی سی ناؤ جس پر بیٹھ کر کوئی بڑی ندی دریا یا سمندر پار کیا جائے۔ جھیل ڈل کشمیر میں اس طرح کی کشتیاں چلتی ہیں جو نواڑا کہلاتی ہیں۔

◇ نو تیرہ بائیس بتانا

حساب کتاب میں گڑ بڑ کرنا اگرچہ نو تیرہ بائیس ہی ہوتے ہیں۔ اور بھی اعداد ہیں جس سے اُنیس بیس محاورے یا کہاوتیں بنائی گئی ہیں جیسے ”اُنیس کا فرق ہونا“ یا ”تین تیرہ بارہ باٹ ہونا“، ”باٹ“ راستہ کو بھی کہتے ہیں اور حصہ کو بھی ”بارہ بانی کا ہونا“ کھرا اور صحت مند ہونا۔ کھیتوں کے لیے بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اور صحت مندی کے لیے بھی کھیتوں میں اچھی پیداوار اور بدن کے لیے اچھی صحت مراد لی جاتی ہے۔ بارہ کا لفظ اکثر تہذیبی حوالوں میں آتا ہے ”بارہ برج“ بھی ہوتے ہیں اور سال کے بارہ مہینے بھی اور بارہ وفات بھی۔

”نودو گیارہ ہونا“ چلے جانے اور ٹل جانے کو کہتے ہیں وہ تو یہاں سے نودو گیارہ ہو گئے۔ تیرہ تیزی ایک مہینے کا نام ہے ”دوہا“ محرم کو کہتے ہیں اور ”دوہے“ محرم کے گیتوں کو کہتے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اعداد سے بھی ہم نے تہذیبی علامتوں کا کام لیا ہے اور ان کو اپنی زبان کے محاوروں میں جگہ دی ہے۔

◇ نوک پان ملاحظہ کیجئے

دوکانداروں کا محاورہ ہے اور خاص طور پر جوتے فروش کا اور اس اعتبار سے یہ ایک محاورہ ہے کہ اس کا تعلق ہاٹ بازار سے ہے اور دوکاندارانہ اندازِ نظر اور طرزِ اظہار کا ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔

◇ نوک پلک درست کرنا یا نوک پلک سے درست ہونا

کسی شے کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ نوک پلک سے درست ہے۔ ”نک سبک سے درست ہونا“ عورتوں کا اپنا محاورہ ہے اور کسی ایسی لڑکی کے لیے کہا جاتا ہے جو آنکھ ناک سے درست ہو اور قبول صورت ہو۔ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سے

محاورے وہ ہیں جن کا تعلق گھر آنگن سے ہے اور جو ہمارے گھروں کے عام ماحول کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

◇ نیزوں پانی چڑھ جانا

یہ سیلاب کے عالم میں ہوتا ہے۔ ناپ کا پیمانہ (پیمائش) بھی آدمی کے لیے کچھ عجیب رہا ہے مثلاً گفتگو کو لمبی بات چیت کہا جاتا ہے اور جب مختصر کہنا ہوتا ہے تو اسے ”دو بول“ کہتے ہیں یا ”بول بات“ کہتے ہیں۔ زبان کو دس گز کی لمبی زبان کہتے ہیں۔ راستہ کو دو قدم کا راستہ کہتے ہیں اور جب دور دراز راستہ ہوتا ہے تو وہ کڑے کوس کہلاتا ہے۔ پانی کو اس کی گہرائی کے اعتبار سے ہاتھوں سے ناپا جاتا ہے اور دو ہاتھ پانی کہا جاتا ہے۔ اوپر چڑھتے ہوئے پانی کا ناپ نیزوں سے لیا جاتا ہے یعنی نیزوں آ کر پانی چڑھ گیا جب کہ پانی کی تھوڑی مقدار کو ”چلو بھر پانی“ کہتے ہیں وغیرہ اس سے ہم ناپ تول کے سادہ سطح پر انسانی اور سماجی پیمانوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

◇ نیل کی سلائیاں پھیرنا

انسانی زندگی میں سزائیں بھی عجیب و غریب رہی ہیں ان میں اندھا کر دینا بھی ہے۔ اس کے لیے آنکھیں نکالنا بھی ایک عمل تھا۔ غلام قادر روہیلے نے نوشاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکال لیں تھیں۔ آنکھوں میں جلتی ہوئی سینخیں داخل کرنا بھی، اس کا ذکر الف لیلہ کے ایک قصہ میں آیا ہے۔ مغلوں میں یہ سزا کیسے آئی یہ کچھ نہیں کہا جاسکتا، لیکن وہ آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھیر کر اپنے مخالف یا دشمن کو اندھا کر دیتے تھے۔

محاورہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے میر تقی میر نے اپنے ایک شعر میں بھی ایسے کسی المناک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

شاہاں کہ کحلِ جواہر تھی خاکِ پا جن کی
انھی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں

◇ نیند اچٹ جانا، نیند لینا، نیند حرام کرنا

”نیند“ خوابیدگی کے عالم کو کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سو جانے کو ”نیند لینا“ بھی کہا جاتا ہے اور ”نیند اچٹ جانا“ تو کوئی بھی آدمی بے آرامی محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی کے شور و فریاد سے نیند نہ آسکے تو اس کو ”نیند حرام کرنا“ کہا جاتا ہے۔ ”نیند میں ہونا“ آنکھوں میں غنودگی آنا ہے یعنی نیند جیسی کیفیت عورتوں کی ایک لوری ہے۔

آجاری نیندیا تو آ کیوں نہ جا
میرے منے کی آنکھوں میں گھل مل جا

نیند کا ماتا، نیند کا دکھیا

◆ بہت کم سننے میں آیا ہے لیکن ”نیند کا ماتا“ ہندی لوک گیتوں میں آتا رہا ہے۔ انھی گیتوں کا ایک بول ہے۔

میری آنکھیاں نیند کی ماتی تو سینے میں آوے

میری آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی ہیں اور آرزو یہ ہے کہ میں سو جاؤں اور تو مرے خواب میں آئے۔

◆ نیوجمانا

”نیو“ مکانوں کی دیواریں زمین کے اندر چنی جاتی ہیں اس کو نیورکھنا بھی کہتے ہیں، نیوجمانا بھی، نیو قائم کرنا بھی اسی کے ساتھ ”نیو کا پکا ہونا“ یا ”نیو کا مضبوط ہونا“ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر نیو کمزور ہوتی ہے تو مکان کی بنیاد کمزور ہوتی ہے اور اس کے درو دیوار کمزور خیال کیے جاتے ہیں اس معنی میں نیو اور اس کی مضبوطی یا کمزوری ہماری سماجی حیات کا ایک اساسی پہلو ہے سوچ کی ایک بنیاد ہے۔

◆ نئے سرے سے جنم لینا

ہمارے معاشرے کے بنیادی تصورات میں آواگون کی وہ فلاسفی شامل رہتی ہے کہ ایک جنم کے بعد دوسرا جنم ہوا ہے اسی لیے ہم جنم جنم کے ساتھی بھی کہتے ہیں اور نئے جنم سے مراد اس کی خطرناک صورت حال اور جان لیوا بیماری کو بھی کہا جاتا ہے جس سے آدمی بچ جاتا ہے تو گویا وہ نیا جنم لیا جاتا ہے۔

اسی لیے ”مجھے جنم آنا“ بھی مصیبتوں سے چھوٹ جانا ہے۔ اس سے ہم زندگی کے خطرات، شدید تکالیف اور سخت حالات سے گزرنے کے عمل کو سماجی رویوں کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ کہ گویا زندگی میں آدمی کو موت تو ایک بار آتی ہے لیکن اپنے حالات معاملات اور حادثات کے اعتبار سے وہ بہت سے جنموں سے ایک ہی جنم میں گذر جاتا ہے۔ اسی لیے حالات کا بہتری کی طرف رخ کرنا گویا نیا جنم پانا ہے۔ اس کو ہم ہندوستان کے دوبارہ جنم لینے یا پونر جنم کے عقیدہ سے جوڑ سکتے ہیں اس لیے کہ جو قومیں دنیا میں پونر جنم کے عقیدہ کو نہیں مانتی ان کے ہاں یہ محاورہ بھی نہیں ہو سکتا مسلمانوں میں یہ ہندوستانی ماحول کی دین ہے۔

رویف و

◇ وارے نیارے ہونا

حالات اور معاملات جب کوئی ایسا رخ اختیار کرتے ہیں ہر طرح کامیابی ہوتی ہے تو اسے ”وارے نیارے ہونا“ کہتے ہیں یعنی بہت کچھ مل گیا۔ خلاف توقع بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا۔

◇ واہی تباہی پھرنا، (آوارہ گردی کرنا)

عام طور پر لوگوں کے معاملات یونہی بے تکیے پن کے ساتھ چلتے ہیں کوئی پروگرام نہیں ہوتا، کوئی منصوبہ نہیں ہوتا۔ یہاں وقت گزار دیا، وہاں وقت گزار دیا، اسی کو ”واہی تباہی پھرنا“ کہتے ہیں یعنی بے مقصد مٹر گشت اور فضول کی باتیں کرنا اسی لیے آواہی تباہی بلنا بھی کہتے ہیں۔

◇ ورق بکھر جانا، ورق گردانی کرنا

ورق ورق ہونا، ورق بکھرنا، جب زندگی کا شیرازہ بکھرتا ہے اور کوئی چیز اپنی اپنی جگہ پر نہیں رہتی تو اسے ”ورق ورق بکھر جانا“ کہتے ہیں۔ جیسے فردوسی نے یزدجرد شہنشاہ ایران کی شکست کو اپنے شاہ نامہ میں اس طور پر لکھا ہے۔

نہ سب نام دولت کہ قباد

ورق در ورق ہر طرف بود باد

کہ قباد کے خاندان کا نسب نامہ ہوا ہر طرف اڑا کے لے گئی اور تاریخ کا شیرازہ بکھر گیا۔ اسی کو ”ورق ورق بکھرنا“ بھی کہا جاتا ہے، ”پرزے سے پرزے ہو جانا“ بھی یہی صورت ہے کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔

◇ وعدہ وفا کرنا

ہمارے معاشرے میں جب کسی بات کو زور دے کر کہا جاتا ہے کہ میں یا ہم ایسا کریں گے تو اسے وعدہ قرار دیا جاتا ہے اور جب کوئی آدمی وعدہ پورا کرتا ہے تو اسے ”وعدہ وفا کرنا“ کہتے ہیں۔ یہ عربی کا محاورہ ہے اور وہاں اس سے مراد وہ اچھے کردار کا آدمی ہوتا ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اردو میں ”وعدہ وفا کرنا“ براہ راست عربی سے آیا ہے۔ یہ ان محاورات میں سے ہے جو عربی

سے براہ راست لیے گئے ہیں اور ان معنی میں محاورے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔

◇ وقت پانا، وقت کاٹنا، وقت نکل جانا، وقت پڑنا، (پینچمیری وقت پڑنا)

وقت وقت کی بات ہے، وقت پڑے کا ہتھیار ہے، اپنا تو وہ ہے جو وقت پر کام آئے، وقت تھا جو گزر گیا۔ آخری وقت آنا، خدا برا وقت نہ ڈالے، وقت کاٹنا، وقت گزارنا کے معنی میں آتا ہے۔ وقت نکل جانا وقت کا برے بھلے گذر جانا۔

گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں

سدا دور دورا دکھاتا نہیں

(میر حسن)

وقت بخت کا ساتھ دینا، وقت وقت کے راگ ہونا، وقت پڑنا (پینچمیری وقت پڑنا)۔

وقت ایک لمحہ بھی ہے اور پوری زندگی میں کوئی ایک وقت بھی ایسا آسکتا ہے جو ساری زندگی کو متاثر کر جائے۔ وقت کی قدر و قیمت زندگی میں بہت ہوتی ہے اور جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر

کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ کسی بات کا اچھا یا برا لگنا بھی وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ”وقت پڑنا“

مصیبت پڑنے کو کہتے ہیں اور دہلی میں اس کے لیے ”پینچمیری وقت“ کا محاورہ بھی موجود ہے۔

مختلف راگ الگ الگ وقتوں میں گائے جاتے ہیں اور اسی سے وقت وقت کے راگ ہیں۔ اسی

سے محاورہ بنا ہے اور جو بات وقت کے خلاف ہوتی ہے اور مناسب حال نہیں ہوتی اسے ”بے

وقت کی راگنی“ کہا جاتا ہے۔

◇ ولی خنکرہ، کھنکر

اصل میں جو آدمی بہت گیا گزرا ہوتا ہے اسے خنکر یا کھنکر کہتے ہیں۔ گونگر ایسے لڑکے کو

کہتے ہیں جو بڑا ہو جائے اور کوئی کام نہ کرے نکما ہو۔ اسی کے لیے خنکرہ یا کھنکر استعمال کیا

جاتا ہے۔

اس سے گونگر ہم اچھے برے لوگوں کے لیے اسی سماج کے ذہنی اور فکری رد عمل کو سمجھ

سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سماج کی بہت سی سچائیاں اچھائیاں اور برائیاں ہمارے محاورات میں

محفوظ ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کس حد تک اور کس مواقع پر ان کو ذہن میں رکھتے ہیں

اور کب نظر انداز کر دیتے ہیں۔

رولیف _____ ۵

◇ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ لگنا، ہاتھ آنا، ہاتھ اُونچا ہونا ہاتھ نیچا ہونا، ہاتھ کا سچا ہونا، ہاتھ دکھانا، ہاتھ دیکھنا، ہاتھ مارنا، ہاتھوں کے طوطے اُڑ جانا، ہاتھ کا میل ہونا، ہاتھ کا تنگ ہونا، ہاتھ کا سچا ہونا، ہاتھ سے خیرات زکوٰۃ کرنا، ہاتھ نہ مٹھی ہڑ بڑا کے اٹھی زندگی میں ہاتھ پیر جتنا کام آتے ہیں اتنا ہی ہاتھ پیروں کے استعمال سے متعلق ہمارے ہاں محاورات موجود ہیں، جو ہمارے معاشرے کی ذہنی اور تجرباتی سطح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ”ہاتھ آنا“، ”ہاتھ لگنا“ حاصل ہونا ہے۔ ”ہاتھ ہونا“ قابو ہونے کے معنی میں آتا ہے کہ آخر تمہارے بھی تو ہاتھ ہیں۔ جب آدمی کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا ہاتھ اُونچا ہوتا ہے کہ وہ دینے والا ہے اور جب وہ لیتا ہے تو گویا اس کا ہاتھ نیچا ہوتا ہے۔ اس سے لین دین میں ایک طرح کی اُونچ نیچ قائم ہوتی ہے مگر کسی برائی کے ساتھ نہیں۔ ”اپنے ہاتھ سے دے دینا“ گویا اپنی خوشی سے کسی کے لیے کچھ کر دینا ہے۔ مکاری سے کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا ”ہاتھ مارنا“ کہلاتا ہے۔ سخت گھبرانا اور ”ہاتھوں کے طوطے اُڑ جانا“ بہت گھبراہٹ طاری ہونا ہے۔ ”ہاتھ کا میل ہونا“ پیسے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یعنی پیسہ کچھ نہیں ہے اصل شے دوستی ہے وفاداری ہے خلوص و محبت ہے اور جذبہ خدمت ہے ہاتھ کا سچا وہ ہے جو معاملات میں دیانت دار ہو اور لین دین کا پکا ہو۔ ”ہاتھ تنگ ہونے“ کے معنی ہیں پیسے کی کمی، جس کی وجہ سے آدمی خرچ اخراجات کے معاملہ میں پریشان رہتا ہے۔

”ہاتھ نہ مٹھی پر ہڑ بڑا کے اٹھی“ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس میں طاقت و قوت بالکل نہیں لیکن بے اختیار لڑنے بھڑنے اور مرنے مارنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ محاورے میں طنز بھی ہوتا ہے اور لطف گفتگو بھی ہوتا ہے اخلاقی تقاضہ بھی ہوتے ہیں اور سماجی زندگی کے وہ تجربہ بھی ہوتے ہیں جس میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔

”ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے“ عورتوں کا محاورہ ہے اور آرسی کے معنی یہاں آئینہ کے ہیں کہ دلہنوں کے اسی نام کے زیور میں آئینہ لگا ہوتا ہے یہ محاورہ یا عورتوں سے متعلق دوسرے محاورے ہماری زبان کی اس فضا کی طرف لے جاتے ہیں جو گھر آنگن کی فضا ہے اگر ان

پہلوؤں کی طرف نظر رکھی جائے تو زبان کا رنگ دارہ محاورات میں ریشم کے دھاگوں کی طرح لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔

◇ ہاتھ باندھے کھڑے رہنا

یہ دربار داری کے آداب میں شامل ہے اور بادشاہ کے دربار میں حاضری دینے والے امیر و وزیر سب، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ محاورہ بھی دراصل درباری آداب ہی سے تعلق رکھتا ہے اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سماجی زندگی کے مختلف رخ ہیں جو محاورات میں اپنا عکس پیش کرتے ہیں۔

◇ ہاتھ پاؤں بچانا، ہاتھ پاؤں پھولنا، ہاتھ پاؤں سے درست ہونا
کسی کام میں ہاتھ ڈالنا اس کام کو کرنا یا کرنے کا بیڑا اٹھانا ہے۔ اب کام کرنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ احتیاط برتی جائے تاکہ کوئی اور کسی طرح کا نقصان نہ پہنچ جائے اسی کو ”ہاتھ پیر بچانا“ کہتے ہیں۔ ”ہاتھ پیر پھولنا“ گھبراہٹ طاری ہونے کو کہتے ہیں۔ غالب کا شعر ہے۔

اللہ خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے

کہا جب اس نے ذرا مزے پاؤں داب تو دے

ہاتھ پاؤں سے درست ہونا، اچھی صحت ہونا اور ہاتھ پاؤں میں کسی طرح کی خرابی نہ ہونا ہے۔ مردوں کو ہاتھ پاؤں کی درستی اور قوت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے اور عورتوں کو ناک نقشہ کی خوبی کے لحاظ سے اسی لیے جب کسی عورت یا لڑکی کو قبول صورت کہنا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ نک نک سے درست ہے۔ اس لحاظ سے یہ محاورہ گھر آنگن کی فضا اور گھریلو سوچ سے تعلق رکھتا ہے۔

◇ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جانا، ہاتھ پاؤں چلنا

خوف و دہشت طاری ہونے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مارے خوف کے مرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ ہاتھ پاؤں چلتے رہنا اس حد تک طاقت قائم رہنا ہے کہ آدمی چلتا پھرتا رہے اسی لیے جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک چلتے ہاتھ پیر اٹھالے۔

◇ ہاتھ پاؤں چھوٹنا

گھر آنگن کا محاورہ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں خیر و عافیت سے بچہ کی پیدائش ہو جائے، اس لیے کہ یہ مرحلہ بہر حال نازک ہوتا ہے تو یہ دعا ایک حاملہ عورت کو دی جاتی ہے کہ اللہ پاک خیریت سے ہاتھ پاؤں چھڑالے۔ یعنی یہ مرحلہ ہنسی خوشی گزر جائے۔

محاورے کی لفظیات اور نفسیات پر اگر غور کیا جائے تو اس سے ہماری معاشرتی زندگی کے مختلف پہلو اور ان کے بارے میں ہماری سوچ کا سلسلہ سامنے آتا ہے۔

◇ ہاتھ پیلے کرنا

ہندوؤں میں اُبٹن مل کر ہاتھ پیلے کیے جاتے ہیں اور اس کے معنی ہوتے ہیں شادی کر دینا، یہ محاورہ مسلمان گھرانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اُبٹن کی رسم بھی مسلمان خاندانوں میں موجود ہے۔

◇ ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہو جانا، یا ہاتھ جھاڑ دینا

جب آدمی پیسہ ٹکے سے اپنے آپ کو خالی ظاہر کرے کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اس لیے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ وہ تو بالکل ہی ہاتھ پیر جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ جھٹکنا یا دامن جھٹکنا دوسرے کو بالکل اس کا موقع نہ دینا کہ وہ کچھ کہہ سکے، سوال کر سکے، مانگ سکے، ہاتھ جھٹکنا یا جھٹک دینا ایسے ہی موقعوں کے لیے آتا ہے۔ اُردو کا ایک مصرعہ ہے۔

وہ چلے جھٹک کے دامن مرے دست ناتواں سے

یعنی انھوں نے مرا کمزور ہاتھ جھٹک دیا اور اپنا دامن چھڑالیا۔

◇ ہاتھ دانتوں سے کاٹنا

دانتوں تلے انگلی دبانا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں اظہار حیرت کرنا اور ”دانتوں سے ہاتھ کاٹنا“ افسوس کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ محاورے بھی گھریلو محاورے ہیں اور ان پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ گھریلو محاورے ان چیزوں سے متعلق ہیں جو بالکل سامنے کی چیزیں ہیں، ان میں ہاتھ پیر ہیں، آنکھ ناک ہیں اور دانت ہیں، ناخنوں کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے کیڑے لتے ہیں اور زریور ہے۔ اس سے ہم یہ بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ محاورات کا رشتہ ہمارے ذہن زندگی اور زمانہ کی خاص خاص رویوں اور حلقوں سے ہے۔

◇ ہاتھ کی لکیریں ہونا

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہماری پیشانیوں میں اور ہاتھ کی لکیروں میں چھپا دیا گیا ہے۔ پامسٹری ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعہ ہاتھ کی لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط۔

◇ ہاتھی نکل گیا ہے دُم باقی رہ گئی ہے

اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سا کام ہو گیا اور بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا۔ اسی محاورے کو ایک دوسری طرح بھی ادا کیا جاتا ہے، ”دھڑیاں نکل گئیں یا سنگ رہ گئے“ دھڑا پانچ سیر کا ایک باٹ ہوتا تھا اسی لیے دھڑی کے معنی ہوتے تھے پانچ سیر اور دھڑیاں اسی سے جمع بنائی گئیں تھیں۔

یہ تخیلی محاورہ ہے اس لیے کہ ہاتھی نکل تو جاتا ہے مگر اس کے نکلنے کے بعد دم پھنسی رہ جائے یہ نہیں ہوتا، اس معنی میں یہ محاورہ ہماری سوچ کے ایک خاص پہلو پر روشنی ڈالتا ہے اور وہ داستانی فکر ہے کہ ویسے نہیں ہو پاتا وہ داستانوں میں ہو جاتا ہے۔

◇ ہتھیلی پر سرسوں جمانا

بہت جلدی میں کام کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ بہتر سے بہتر ہو ”ہتھیلی پر سرسوں جمانا“ اس کے لیے محاورہ کے طور پر لیا جاتا ہے جیسے آپ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں کہیں یوں بھی کام ہوتا ہے اس کام کے لیے تھوڑا وقت چاہیے توجہ اور محنت چاہیے۔

اس محاورہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جادو کرشمہ اور معجزہ کے طور پر کوئی کام ہو جائے چاہتے ہیں۔ پلاننگ منصوبہ بندی وسائل کی فراہمی اور مسائل پر نظر داری ہماری سوچ اور ”Approch“ کا کوئی حصہ ہی نہیں اسی پر یہ ایک ”Comment“ ہے اور یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہتھیلی پر کہیں سرسوں جمتی ہے یہ تو کرشمہ کے طور پر ہو سکتا ہے باقی کام محنت سے اور منصوبہ بندی کے تحت ہوتے ہیں۔

◇ ہڈیاں نکل آنا یا ہڈیوں کی مالا ہو جانا

یہ ایک شاعرانہ انداز ہے کہ کمزوری کا وہ ذکر بھی ہڈیوں کی ظاہری حالت کے ساتھ کیا جائے، اس میں ”ہڈیاں نکل آنا“ بھی ہے اور ”ہڈیوں کی مالا ہو جانا“ بھی جسم کی یہ حالت کمزوری کے باعث ہوتی ہے جس کی طرف یہ محاورہ اشارہ کرتا ہے۔ اور زندگی میں اچھے برے

اور غلط یا صحیح اثرات اس کے آئینہ میں سامنے آئے ہیں، یہ ایک صورتِ حال بھی ہوتی ہے اور اس کا تاثر بھی تو نتیجوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ”ہڈیاں سسکیاں نکل آنا“ بھی اسی کمزور جثہ سے یا بے حد دبلے پتلے بدن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

◇ ہلدی کی گرہ یا گانٹھ لے کے پنساری بن بیٹھا

جب آدمی کے پاس کچھ نہ ہو اور بہت معمولی حیثیت پر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز ظاہر کرے تو اس کہاوت یا محاورہ کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ ہلدی کی گرہ بہت معمولی شے ہے اور پنساری بن جانا ایک بڑی دوکانداری ہے۔ کیونکہ ہم معاشرہ میں اس طرح کی گھٹیا پن کی باتیں کرتے ہیں اسی پر یہ ایک طنز ہے کہ وہ کچھ نہیں اور اپنے آپ کو سب کچھ ظاہر کرنا چاہتے ہیں یہ طنز یہ محاورہ ہے۔

◇ ہلدی لگے، یا پینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا ہی چوکھا

یہ عجیب و غریب محاورہ ہے اور اس کے معنی میں سماج کی مکاری اور فریب دہی بھی شامل ہے کہ کسی بھی کام کی انجام دہی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو اور نتیجہ بہتر ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کے نکمے اور خود غرض آدمی چاہتے ہیں یہی ہیں کہ سب کچھ ہو جائے اور کچھ نہ کرنا پڑے اسی لیے دوسرے لوگ طنز کے طور پر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہلدی لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا ہی چوکھا۔ دیہاتی زبان میں چوکھا اچھے خاصے کو کہتے ہیں۔

◇ ہل کے پانی نہ پینا

یعنی وہ آدمی کچھ نہیں کرنا چاہتا بلکہ ہل کے پانی بھی نہیں پینا چاہتا، نکما ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ بہت ہوتے ہیں جو کابل نہیں ہوتے مگر کام کرنے کو برا سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا سماجی عیب ہے جس کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے کہ ہل کر پانی بھی پینا نہیں چاہتا۔

◇ ہم بستر ہونا یا ہم خواب ہونا

عورت مرد کا ایک ساتھ سونا اسی لیے بیوی کو ہم خوابہ بھی کہا جاتا ہے اور اس سے زوجیت کے تعلق کو ہم بستر ہونا یا ہم خواب ہونا کہتے ہیں۔

◇ ہم پیالہ وہم نوالہ ہونا

ساتھ کھانے اور پینے کو اس محاورے سے یاد کرتے ہیں اور اس کے معنی میں بے

تکلفی ہونا کے ہیں۔ ہم پیالہ ہم مشرب شخص وہ ہوتا ہے جو ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا ہے۔ پیالہ سے مراد جام شراب ہوتا ہے۔

اس محاورے سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف طبقوں کے لیے جو محاورے بنے ہیں اور رائج رہے ہیں ان میں ان کی لفظیات اور خاص اصطلاحوں کو بھی شامل رکھا گیا ہے۔ ”ہم پیالہ“ (مرکب) کا لفظ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

◇ ہندی کی چندی کرنا

اس معنی میں عجیب و غریب محاورہ ہے کہ اس میں نکتہ چینی کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے اور وہ بھی ہندی کے رشتہ سے۔ یہ اس سماجی حقیقت کی طرف ذہن کو مائل کرتا ہے کہ ایک طبقہ میں زبان کے مسئلہ پر محاورے روزمرہ تذکیر و تانیث پر اختلاف رہتا تھا کہ یوں نہیں یوں، اس طرح نہیں اس طرح، اسی کو ”ہندی کی چندی کرنا“ کہتے تھے اور ہمارے یہاں صدیوں تک یہ رجحان رہا ہے کہ ہم قافیہ لفظ ہمیں زیادہ پسند تھے اور ہم نثر ہی کو ایک طرح کی شاعرانہ خوبی سمجھتے تھے۔ جس سے زبان پر قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔

◇ ہنستی پیشانی

معاشرتی زندگی میں آدمی کا روتی صورت بنائے رہنا ایک مجبوری ہو سکتی ہے مگر کوئی اچھی بات نہیں اور وہ لوگ زیادہ پسندیدہ شخص قرار پاتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ اچھے موڈ میں بات چیت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یا اس طرح کے اچھے موڈ کے لیے خندہ پیشانی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی کا ترجمہ ہنستی ہوئی پیشانی ہے، جسے انگریزی میں smiling face کہتے ہیں یہ محاورہ دراصل سماجی رویہ کو پیش کرتا ہے اور معاشرتی رویوں میں بہتر صورت کو سامنے لاتا ہے۔

◇ ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے

ایک اچھی ذہنی کیفیت کا اظہار ہے جس سے خوشی کا احساس بڑھتا ہے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی اچھی خواہش کا اظہار اس عمل سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ”ہنسی خوشی رہنا“ ہنس ہنس کے باتیں کرنا اور ”ہنستی ہوئی پیشانی“ اسی لیے پسندیدہ امور ہیں۔ کبھی کبھی آدمی بہت ہنستا ہے وہ ہنسی کی کوئی بات ہوتی ہے جس پر صرف مسکرایا نہیں جاتا بلکہ آدمی اتنا ہنستا ہے کہ ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ جائیں۔ طنزیہ ہنسی کچھ اور ہوتی ہے بے تکلف قہقہہ کچھ اور۔ اور دیوار قہقہہ بن

جانا ایک اور داستانی صورت ہے۔ اس سے ہنسی کے مختلف مدارج بھی سامنے آتے ہیں۔ اور ہنسی کا مقصد بھی اور یہ آدمی ہی کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ ہنس سکتا ہے کوئی اور جانور ہنس نہیں سکتا ہے۔

◇ ہنستے ہی گھر بستے ہیں

ہنسی سے متعلق ایک اور محاورہ ہے جس میں سماجی حیثیت سے ہنسی کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ ہنسی خوشی رہنے کے موڈ کے ساتھ گھر بستے ہیں، خاندان آگے بڑھتا ہے گھر بسنا شاد و آباد رہتا ہے اسی لیے عورتیں مردوں کو گھر بے اور عورتوں کو گھر بسی کہہ کر پکارتی ہیں مگر اُردو کے ایک قدیم شاعر کا شعر ہے۔

کون چاہے گا گھر بے تجھ کو
مجھ سے درویش و بے نوا کی طرح

◇ ہنسی اُتر جانا

بچوں کی ایک بیماری ہے جس کا تعلق ہنسی کی ہڈیوں سے ہے جو گلے کے نیچے اور سینے کے اوپر ہوتی ہیں، انھی کی نسبت سے ایک چاندی کے زیور کو بھی ہنسی کہتے ہیں جو عام طور سے قصباتی عورتیں پہنے رہتی ہیں۔

◇ ہنسی میں پھنسی یا کھنی ہو جانا

یعنی زیادہ مت ہنسو اس کے بعد رونا آتا ہے۔ مغربی یورپی میں اس محاورہ کی ایک اور صورت بھی ہے ”ہنسی گل پھنسی“ یعنی مذاق مذاق میں کوئی ایسی بات ہو جانا جو پریشانی نقصان یا دشمنی کا سبب بن جائے۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ مراد ہے کہ ہنسی میں بھی احتیاط ضروری ہے کہیں بات اُلٹی نہ پڑ جائے جس سے موڈ خراب ہو جائے۔

◇ ہوا بندھنا، ہوا کھانا، ہوا بھر جانا، ہوا پر سوار ہونا، ہوا پر یا میں گرہ لگانا، ہوا سے باتیں کرنا، ہوا سے لڑتی ہے (چلتی ہوا سے لڑتی ہے)، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا، ہوائیاں اُڑنا، ہوائیاں چھوٹنا، ہوائی دیدہ ہونا

ان محاوروں پر نظر ڈالنے کے لیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہوا کے بارے میں ہم نے کس کس طرح سوچا ہے اور سماج میں جو غلط سلط رویہ اختیار کیے جاتے ہیں۔ انھیں کس طرح کبھی مذاق کبھی تعریف کبھی طنز اور کبھی خوبصورت انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ ”ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا“

غیر ضروری طور سے ہوا بازی کا انداز اختیار کرنا ہوتا ہے۔

”ہوائی دیدہ“ اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی کی نظر کسی ایک مقام پر نہ ٹھہرتی ہو کبھی یہ کبھی وہ۔ جب آدمی بے تکی اور غلط بات کرتا ہے تو گویا ہوا میں گرہ لگاتا ہے۔ ”چہرہ پر ہوائیاں اڑنا“ پریشانی کی ایک غیر معمولی صورت ہے۔ ”ہوائی چھوڑنا“ جھوٹ بول دینا، دل کو خوش کرنے والی بات کہہ دینا جس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔

”ہوا بھر جانا“ سر سے متعلق ہوتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر کی بڑائی کی باتیں سوچتا ہے اور اپنی حقیقت پر نظر نہیں کرتا۔

◇ ہوجق کرنا

”ہوجق“ درویشوں، فقیروں، اللہ والوں اور صوفیوں کا ایک نعرہ اور کلمہ ذکر ہے یعنی اس لفظ کے ذریعہ وہ اپنا عقیدہ اور اپنا جذبہ دونوں کو پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے جب صوفیوں کا ذکر آتا ہے تو ان کی ”ہوجق“ کا ذکر بھی آتا ہے۔ ہوجق کے معنی ہوتے ہیں وہی حق ہے اور اس کے مابوا کچھ نہیں یہ اس سے مراد ہوتی ہے۔

جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اُردو محاورات مختلف طبقات کے اپنے خیالات معاملات اور معمولات کو بھی پیش کرتے ہیں یہ محاورہ اس کی ایک نمایاں مثال ہے کیونکہ یہ صوفیوں کا محاورہ ہے اسی لیے لفظ بھی انھی کے ہیں اور حال و خیال بھی انھی کا ہے۔

◇ ہوش اڑنا، ہوش اڑانا، ہوش پکڑنا، ہوش میں آ

ہوش مندی زندگی کا ایک بہت ہی ضروری مرحلہ ہے۔ ہوش و حواس اگر قائم نہ رہے تو آدمی اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا اسی لیے ہمارے یہاں ہوش و حواس کے درست رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ میاں ہوش میں رہو یا ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو یعنی ہوش مندی اختیار کرو۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے اور بہت اہم محاورہ ہے۔ ہوش کی دارو، دوا تو لقمان کے پاس بھی نہیں تھی۔ یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ ذرا سی دشواری پیش آئی تھی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ ہوش ٹھکانے آگے۔ ہوش اڑنا، ہوش کھودینے کو کہتے ہیں یہ خبر سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے یا میرے ہوش اڑا دینے کے لیے تو یہ صورت حال کافی تھی۔ تھوڑا سا اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوا تو ہوش و حواس کو سنبھالنے کا موقع ملا۔ اور اب جان میں جان آئی۔

◇ ہول جوں

دہلی کا خاص محاورہ ہے اور اس سے باہر کہیں سنا بھی نہیں گیا۔ چرنجی لال نے اسے اپنے ہاں بھی جگہ دی ہے۔ ”ہول“ خوف کے معنی میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے تو ہول آ گیا لیکن ”ہول جوں“ کے معنی اضطراب و پریشانی کے ہیں۔ جس کے ساتھ یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ نسا و عورت کا محاورہ ہے۔ محاورات ایک علاقہ سے نکل کر دوسرے علاقہ میں بھی پہنچتے اور پھیلتے ہیں اور مختلف طبقوں کے مابین ان کا کبھی کبھی تھوڑے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ رواج ہوتا ہے۔ لیکن ایسے محاورے بھی ہیں جو کچھ خاص تہذیبی اور طبقاتی دائروں سے وابستہ ہیں میل جوں میں جوں کا لفظ آتا ہے ہم جوں میں بھی، لیکن ہول کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو ایک دوسرے معنی دیتا ہے اور طبقہ نسواں تک محدود ہے۔

◇ ہولی کا بھڑوا بنا

بہت نچلے طبقہ کا محاورہ ہے اور اس کے معنی ہیں ایک گیا گزرا آدمی جس کو اپنی عزت کا بالکل لحاظ پاس نہ ہو۔ فارسی میں یہ ایک دشنام یا گالی کے طور پر آتا ہے اور وہاں ایسے قرم ساق کہتے ہیں۔

◇ ہولی کا ہلیارا، ہولی کا سر پٹا

ہولی میں عام طور سے چھوٹے طبقہ کے لوگ فقرہ اُچھالتے ہیں، رنگ اڑاتے اور واہی تباہی بکتے نظر آتے ہیں۔ انھی کو ”ہولی کا ہلیارا“ کہا جاتا ہے یعنی بہت عام سطح پر شور و غل مچانے والا۔

ایک شخص ایسا ہوتا ہے جسے ہولی کے سانگ میں شریک رکھا جاتا ہے اور ذرا سی بات پر جو وہ جان بوجھ کر غلط کرتا ہے اس کی پٹائی ہوتی ہے بلکہ دوسروں کی غلطیوں پر بھی اسی کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ یہ سب دکھاوے کے طور پر ہوتا ہے مگر اس سے سماج کا رویہ سامنے آتا ہے کہ پیشتر ہمارے گھروں اور خاندانوں میں کسی بھی شخص کو جسے معذور اور مجبور خیال کیا جاتا ہے غلطی کوئی کرے برا بھلا اسے کہا جاتا ہے۔

◇ ہونٹ کا ٹٹا یا چبانا، ہونٹ چاٹنا

آدمی کبھی بھی شدید طور پر کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے اور وہ میسر نہیں آتی تو وہ اپنا دل مسوس کر رہ جاتا ہے اسی حالت کو ”ہونٹ کا ٹٹا“ بھی کہتے ہیں اور بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ

ہونٹ چباننا بھی۔ اس کے مقابلہ میں جو خوش ذائقہ اور اچھی چیز کھانے پینے کے لیے میسر آتی ہے اگر وہ حسبِ خواہش نہ ہو تو آدمی اس کی تمنا کرتا رہ جاتا ہے کہ کاش وہ تھوڑی سی اور مل جاتی۔ نہیں ملتی تو وہ ہونٹ چاٹتا رہ جاتا ہے۔ یہ محاورے ہماری معاشی اور معاشرتی صورتِ حال کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ایک عام آدمی پر کسی خاص محرومی کا جو اثر ہوتا ہے اسے ظاہر کرتے ہیں اور پراثر طریقہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی معاملہ بھی ہے تجرباتی بھی اور مشاہداتی بھی اور اس سے ایک بار پھر ذہن منتقل ہوتا ہے کہ محاورات ہمارے سماجی رویوں پر طعن بھی ہیں۔ طنز بھی تنقید و تبصرہ بھی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو محاورات میں ہمیں اپنے معاشرہ اس کی تہذیب و تعریف اور مختلف دور کے رویوں کا ایک جیتا جاگتا عکس نظر آئے گا۔

ادب و لٹریچر ہماری ایک طرح سے سماجی تاریخ ہے اور الفاظ ان کے معنی خیز ربط ہوتے ہیں۔ جسے صرف لغت میں نہیں دیکھا جاسکتا وہ سماجی رشتوں سے ان کے عمل و رد عمل۔ ان کی رسائی اور نارسائی سے سمجھ میں آتے ہیں اور محاورہ بڑی حد تک ان معنوں کو "Preserve" کرتا ہے اس اعتبار سے محاورہ صرف زبان کا حصہ نہیں ہے ہماری سماجیات کا حصہ ہے۔

◇ ہوس لگنا

ہماری ایک عام سماجی کمزوری یہ ہے کہ بات بات تو اہم پرستی کے انداز سے سوچتے ہیں ان میں نظر لگنا بھی ہے کہ اس کی ٹوک لگ گئی۔ نظر اپنے ہی کو نہیں لگتی چیزوں کو بھی لگتی ہے مچھلی کو دودھ کو اور گوشت کو عام طور سے نظر سے بچایا جاتا ہے یہ اس لیے تو خیر ضروری ہے کہ اس کو، ہوا کی یا پھر مکھی مچھر کی گندگی سے بچایا جائے۔ لیکن آدمی کی نظر سے بھی بچایا جائے اس میں ایک طرح سے تو اہم پرستی کا عنصر شامل ہے۔ معاشرہ کے اس رویہ کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ دودھ پی کر یا گھی کھا کر گھر سے نکلتا تھا تو اسے راکھ چٹادی جاتی تھی۔ اسی طرح جب کسی بچی یا بچہ کا منہ دھلایا جاتا تھا تو اسے سیاہی کا ٹکا بھی لگا دیا جاتا تھا تا کہ وہ نظر بد سے بچ جائے۔ لڑکیوں کو کھلے بالوں اور ننگے سر کوٹھے پر ادھر ادھر نہ جانے دیا جاتا تھا کہ اسے نظر ہو جائے گی۔ عام طور پر جن یا بھوت یا بھوتنیاں جو ویران گلیوں کوٹھیوں یا گھروں میں رہتے تھے وہ بچٹ جاتے تھے جو ان لڑکوں کو بھی اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اوپری اثر ہے۔ جسے دلی میں اوپری اثر کہا جاتا ہے۔ تعویذ گنڈے، جھاڑ پونچھ جیسے تو اہم پرستانہ علاج کے طریقہ اسی وجہ سے زیادہ رائج رہے ہیں۔ اس معنی میں یہ محاورہ ہمارے ایک خاص طرح کے سماجی طریقہ فکر اور عوام کے ذہنی رویوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

◇ ہیرا آدمی، ہیرا یا ہیرے کی کنی کھا جانا

آدمی کو اس کی خوبیوں یا پھر اس کی سیرت و صورت کی کمزوریوں کے باعث مختلف اچھی بری چیزوں سے تشبیہ و استعارہ کے حوالوں سے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے یا نسبت دی جاتی ہے مثلاً چاند، سورج، کنول، پھول اسی طرح برائیوں کے اعتبار سے اینٹ، پتھر اور کوڑا کرکٹ کہتے ہیں۔ اچھا آدمی لعل، جواہر، ہیرا، موتی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تو ہیرا ہے۔

ہیرا انگوٹھیوں میں زیورات میں اور دوسری زینت کی چیزوں میں کام آتا ہے۔ تخت طاؤس میں بھی ہیرے جڑے ہوئے تھے اور شاہ جہان کی پگڑی میں بھی کوہ نور ہیرا رہتا تھا۔ آج برطانوی ملکہ یا بادشاہ کے تاج میں کوہ نور چمکتا ہے اس سے انسانی زندگی میں ہیرے کی قیمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہیرا بدترین قسم کا زہر بھی ہوتا ہے اسی لیے ہیرے کو اگر چاٹ لیا جائے تو اس سے موت ہو جاتی ہے اور اگر اس کی کنی کھالی جائے تو آنتیں کٹ جاتی ہیں۔

◇ ہیرا پھیر کی باتیں کرنا یا ہیرا پھیری کرنا

مکاری اور دغا بازی کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو بڑی ہیرا پھیری کرتا ہے یہ خاص طور پر دلی میں بولا جاتا ہے اور ہیرا پھیر کی باتیں کرنا عام ہے۔

◇ ہینگ لگانا، ہینگ کہنا یا ہینگ ہگنا

اس سے مراد تکلیفیں اٹھانا ہے اور خاص طور پر پیٹ کی تکلیفوں میں مبتلا رہنا ہے۔ ہینگ لگانے کے معنی وہی ہیں جو چونا لگانے کے ہیں۔ یہ ایک طرح کا فریب دینے کا عمل ہے۔

◇ ہائے ہائے کرنا افسوس کا اظہار کرنا

غالب کا مصرعہ ہے

روئے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہائے ہائے کرنا دکھ درد سے پریشان ہو کر اس پر اظہارِ افسوس کرنا۔ ایک طرح سے آہ و شیون قائم کرنا جو اظہارِ ملال ہوتا ہے۔ آدمی اپنے رنج و غم دکھ تکلیف اور مسرت و شادمانی کے جذبات کا اظہار صاف و سادہ صورت میں کم کرتا ہے اس کے لیے کہیں آوازوں کا سہارا لیتا ہے اور کہیں الفاظ اور ان کی ادائیگی کا، جیسے واہ واہ کرنا جو اظہارِ خوشی کے لیے ہوتا ہے اور ہائے ہائے افسوس و غم اور شدید دکھ و تکلیف کے لیے ہوتا ہے۔

◇ ہی ہی یا ٹھی ٹھی کرنا

لڑکیاں یا عورتیں بے طرح ہنستی ہیں اور ان کی ہنسی کی آواز اچھی نہیں لگتی تو اسے ”ہی ہی کرنا“ یا ٹھی ٹھی کرنا کہتے ہیں۔ ہنسی ٹھٹھا ہمارے یہاں محاورے کا حصہ ہے اور اس کے معنی ہنسی مذاق کے ہیں مگر ”ٹھٹھا کرنا“ زیادہ اور غیر ضروری مذاق کرنے کو کہتے ہیں۔ جب کہ ”ٹھی ٹھی کرنا“ ہنسی کے عمل کی طرف ایک اشارہ ہے جس میں خاص آوازوں کے ذریعہ طریق اظہار کو ایک خاص سلیقہ اور اس کے پیدا کردہ سانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ اس سے ہم کسی انسان کے عمل اور اس کے اچھے برے پہلو کو جو صورت حال کا نمایاں حصہ ہوتا ہے۔ آوازوں یا لفظوں میں ڈھلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر وہ حقیقت مصور ہو کر سامنے آتی ہے۔

رویف۔۔۔ پے

◇ یاد اللہ

مسلمانوں کا محاورہ ہے اور ان کے مذہبی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اس کے معنی اللہ کی یاد کے نہیں لیکن محاورے میں اچھے خاصے خوش گوار تعلقات کے لیے یاد اللہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ان سے یاد اللہ ہے اس کے معنی ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔

◇ یادش بخیر

جب کبھی کسی اپنے کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر آ جاتا ہے تو یادش بخیر کہتے ہیں کہ اس کی یاد بخیر ہو۔ ان کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ سماج میں گفتگو کے کچھ آداب ہوتے ہیں ”یادش بخیر“ کہنا گفتگو کے آداب کو برتنا ہے۔

◇ یاد گد گدانا

یعنی بار بار یاد آنا۔ گد گدی کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے ہنسی آتی ہے اسی لیے گد گدانا ایک دلچسپ عمل ہے وہ بھی خوش کرنیوالا عمل ہے۔ یعنی ان کی یاد دل کو گد گدار ہی ہے۔ اچھی اچھی باتوں کا خیال آ رہا ہے اور دل خوش ہو رہا ہے۔

◇ یاروں کا یار

جو آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کا وفادار ہو، وہ یاروں کا یار کہلاتا ہے۔ اصل میں یار ہونے کے معنی مددگار ہونے کے ہیں اسی لیے اللہ کا ساتھ بھی یار لگتا

ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا اللہ یار ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا مددگار اللہ ہوتا ہے۔
 ”یاری ہونا“ دوستی ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ عورتیں جب عام طریقہ کے خلاف کسی غیر شخص سے دوستی کر لیتی ہیں تو وہ ان کا یار کہلاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے یار کی یاری سے کام اس کے فعلوں سے کیا تعلق۔ یعنی دوستی بڑی چیز ہے باقی باتوں کے چکر میں کیوں پڑا جائے جو کچھ ہے ٹھیک ہے۔

◇ یاری کٹ کرنا

بچوں کا محاورہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دوستی ختم کرنا۔ اگرچہ یوں دوستی ختم نہیں ہوتی جس طرح بچے ایک خاص عمل کے ذریعہ دانتوں کو انگوٹھے کے ناخن سے چھوتے ہیں اور پھر کٹ کرتے ہیں اور اسے ”یاری کٹ کرنا“ کہتے ہیں۔

◇ یافت کی اسامی

یافت فارسی کا لفظ ہے اور یافتن مصدر سے بنا ہے اس کے معنی ہیں پانا، روپیہ پیسہ کا فائدہ ہونا، اسامی موقع جگہ اور ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔ اس اعتبار سے اس محاورہ کے معنی ہوئے وہ جگہ یا وہ آدمی جس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو یا اس کی توقع ہو۔
 ◇ یقین کے بندہ ہو گے تو سچ مانو گے

یقین اعتماد کی بنیاد پر ہوتا ہے اور جو آدمی کسی پر اعتماد کرتا ہے وہی اس کی بات پر یقین بھی کرتا ہے اور اس کے وعدہ کو سچ سمجھتا ہے، لیکن اگر کسی پر بھروسہ ہی نہیں تو اس کی بات کا یقین بھی نہیں اسی لیے کہا جاتا ہے یقین کے بندہ ہو گے تو سچ مانو گے۔

◇ یک جان دو قالب

بہت ہی قریبی رشتہ کو کہتے ہیں جب انتہائی محبت ہوتی ہے کہ ان کے بدن ہی الگ الگ ہیں ان کی روح تو ایک ہے یہ ہمارے سماج کا ایک آئیڈیل ہے کہ الگ الگ وجود ہونے کے باوجود وہ ایک ہی انداز سے سوچتے ہیں، ایک ہی زندگی جیتتے ہیں اور ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوتے۔

◇ یوم الحساب

قیامت کا دن جس کے لیے تصور کیا گیا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا تمام لوگ جمع ہوں گے اور سب کے اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں ہوں گے اور خدا ان کا فیصلہ کرے گا۔ یہی یوم

القیامت ہے اسی کو یوم الحساب کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو اس سے متعلق تصورات بھی انھی کے عقائد اور خیالات کا حصہ ہوں گے۔ اس طرح کے محاورہ خاص کلچر سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ محاورہ اگرچہ عام ہوتا ہے مگر بعض محاوروں کا تعلق علاقائی تہذیب طبقاتی ذہن اور مذہبی تصورات سے ہوتا ہے۔

◇ یوں توں کرنا، یوں ہی، یوں ہی سہی

براسلوک کرنا، تلخ کلامی یا ترش روئی سے پیش آنا۔ اسی لیے بے تکلف لہجہ میں کہتے ہیں کہ اس نے تو ہماری یوں توں کر دی یوں ہی یا یوں ہی سہی۔ یہ ایک عام فقرہ ہے اور جب دوسرے کی بات کو ہم کاٹنا نہیں چاہتے تو کہتے ہیں چلو یوں ہی سہی اُردو کا مشہور مصرعہ ہے۔

تیری مرضی ہے اگر یوں ہی تو لے یوں ہی سہی
بہادر شاہ ظفر کا بھی شعر ہے۔

جو کہو گے تم کہیں گے ہم بھی ہاں یوں ہی سہی
یوں خوشی ہے آپ کی تو وہاں یوں ہی سہی

◇ یہاں کا یہیں

یعنی دنیا کا دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ جو کچھ ہونا ہے وہ یہیں ہوگا اسی لیے ایسے فقرہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہاں کا جو ہونا ہے وہ یہیں کسی شاعر کا شعر ہے۔

چاہو جتنا گھوٹ لو لوگوں کا تم صاحب گلا
ہاتھ خالی جاگے یاں کا یہیں رہ جائے گا
یوں تو رشتہ کبھی نہیں توڑا
جو یہاں کا ہے وہ یہیں چھوڑا

اس لیے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زبان کا ہمارے محاورے سے کیا رشتہ ہے اور ان دونوں کا ہماری زندگی و ذہن سے کیا تعلق ہے۔ ہم اپنی بات سیدھے سادھے انداز میں بھی کرتے ہیں لیکن اکثر جذبہ کے اظہار اور خیال کی تصویر کشی کے لیے اس میں لسانی اور لفظی سطح پر اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی غرض سے نئی نئی پہلو داریاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہاں کا یہیں رہ جانا عقیدہ کا اظہار بھی ہے اور عبرت دلانے کے لیے ایک انداز گفتگو بھی جس کے پس منظر میں ہمارے سماجی ضابطے عقیدہ تصورات سب آ جاتے ہیں۔

اُردو شعر و ادب میں محاورہ

گذشتہ سطور میں محاورہ کی ادبی تہذیبی اور معاشرتی اہمیت کی طرف اشارہ کر دیے گئے ہیں ان سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ محاورہ زبان کی ساخت اور اس کی ادبی پرداخت میں کیا خاص کردار ادا کرتا ہے اور صدیوں تک ادا کرتا رہا ہے۔

جب زبان آگے بڑھتی اور پھیلتی ہے، مختلف دائروں اور تہذیبی حلقوں میں اپنا اثر و نفوذ پیدا کرتی ہے تو اس کی تزئین اور ترسیل میں جو باتیں یا خوبیاں خصوصیت کے ساتھ حصہ لیتی ہیں ان میں تشبیہ استعارہ تلمیح اور محاورہ خاص طور پر شریک رہتا ہے۔ کہیں شاعر مقرر افسانہ گو اور داستان نگار تشبیہ سے کام لیتا ہے۔ ایک شے وجود کو دوسری شے یا وجود سے مشابہت دی جاتی ہے تو تشبیہ کا رشتہ پیدا ہوتا ہے جو مثال کا رشتہ کہلاتا ہے یعنی وہ شے ایسی ہے جیسے فلاں شے ہے۔ اور جب تشبیہ کے رشتہ کو مستقل طور پر اس شے سے وابستہ کیا جاتا ہے تو وہ استعارہ یا علامت بن جاتی ہے، جیسے سورج، چاند، پھول، شاخ، گل، شمشیر، ستارہ، ماہ نو وغیرہ وغیرہ۔ یہ تشبیہیں بھی ہیں، استعارے بھی اور جب بہت سی باتیں خیالات تصورات اور تاثرات کسی شے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں تو وہ علامت بن جاتی ہے۔ وہ علامت تمثیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور کہیں تلمیح کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ جب ہم استعارہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا رشتہ یا ذہنی سلسلہ ادھر سے ادھر تک جڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ خیال حال تجربہ اور مشاہدہ سے تعلق رکھنے والے امور ہیں۔ انفرادی سطح پر بھی ایک شاعر ایک فنکار ایک داستان گو اپنے فنکارانہ انداز نظر اور اپنے تہذیبی نقطہ نگاہ کے ساتھ تشبیہوں اور استعاروں تلمیحوں کو اپنے انتخاب اور استعمال میں شریک رکھ سکتا ہے۔

محاورہ ایک طرح سے زبان میں استعاراتی عمل ہے جس میں کہیں تشبیہ کا رشتہ قائم ہوتا

ہے، کہیں تمثیل کا، کہیں تلمیح کا اس سے ایک خاص معنی مراد لیے جاتے ہیں یہ معنی مرادی ہوتے ہیں، عام لغت کے تابع نہیں ہوتے۔ جیسے ہم محاورہ کے طور پر ”آگ بگولہ ہونا“ کہتے ہیں اور اس سے غیر معمولی غصہ اور طیش کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔

محاورہ ذہنوں میں ایک تصویر یا مجسم شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس سے وہی معنی سمجھے اور سمجھائے جاتے ہیں جو ایک طرح سے اس محاورہ کے ساتھ روایت یا ٹریڈیشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ زمانہ بہ زمانہ لفظ استعارہ تشبیہ وغیرہ اپنے معنی میں تبدیلیاں پیدا کرتے رہتے ہیں، الفاظ بھی شکل بدل دیتے ہیں لیکن محاورہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ وہ گویا جہان لفظ و معنی میں ایک پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے جو صدیوں تک بلکہ ایک ایسے زمانہ تک جس کا تعین مشکل ہے اپنے خدو خال اور نقش و نگار کو قائم رکھتا ہے۔ وہ ٹوٹ سکتا ہے، چھوڑا جاسکتا ہے۔ اسی طرح سے محاورے ایک زمانہ کی لفظیات اور زبان کے تہذیبی یا تشبیہ و استعاراتی استعمال کی بعض صورتوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس معنی میں محاورہ کسی بھی زبان کی صوتیات، لفظیات اور لسانیاتی مطالعہ میں مدد دیتا ہے۔ بہت سی لسانیاتی گتھیاں کھلتی ہیں۔ سماج کے رویے سمجھ میں آتے ہیں زبان کے ارتقائی مراحل پر نظر داری میں یہ محاورے معاون ہوتے ہیں۔

ہمارے ہاں محاورے ہماری زبان ایک ناقابل شکست حصہ رہے ہیں۔ شہری سطح پر ہو یا قصباتی سطح پر یا دیہات کی سطح پر، ہم ان کے مطالعہ سے اپنی تہذیبی روشوں شہری رویوں اور اپنے تمدنی مزاج کی تہہ داریوں سے واقف ہو سکتے ہیں۔

ہم اپنی تاریخ کے صفحات سے سے گزرتے ہیں تو عام طور سے سیاسی واقعات اور انتظامی امور ہمارے سامنے آتے ہیں یا جنگ و جدل کے حالات ہوتے ہیں مگر اس سے الگ اور آگے جو ہماری تہذیبی تاریخ کے نہایت اہم گوشے ہیں ان سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ ادبیات کا مطالعہ بعض ذہنی زمانی اور زمینی حوالوں سے ہماری تہذیب و تاریخ کے ان گوشوں اور زاویوں کو پیش کرتا ہے جو عام مطالعہ کے دوران اکثر ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ان میں قصے، کہانیاں، حکایتیں نیز روایتیں بھی ہیں۔ شعرو سخن میں ہماری تہذیب کے مطالعہ کے بہت سے گوشے محفوظ ہیں۔ مثنویاں قصیدے، غزلیات، اُردو مرثیہ نیز مرثیے اس دائرہ میں آتے ہیں کہ تہذیبی مطالعہ کے لیے ان کو بطور خاص سامنے رکھا جائے۔ ادبی مطالعہ لسانیاتی مطالعہ کی طرف بھی لاتا ہے اور اس طرح کی علمی و ادبی کوششیں برابر ہوتی رہی ہیں۔

اگرچہ تحقیق و تنقید کے مقابلہ میں ان کا دائرہ نسبتاً مختصر ہے۔

یہاں ایک محاورہ کی طرف اگر اشارہ کر دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی اور اس کے فکری زاویہ روش اور واضح ہو جائیں گے مثلاً ”ساس لگنا“ ایک محاورہ ہے جس کا ہماری معاشرت اور تہذیبی رشتوں سے گہرا تعلق ہے ایک کنواری لڑکی اپنی کسی دوسری ہم پیشہ خاتون کے رویہ سے خفا تھی اور اس پر اظہارِ ناخوشی کرنا چاہتی تھی کہ اس نے خواہ مخواہ ایک موقع پر برے الفاظ میں یاد کیا تھا اور شکوہ شکایت کی بات کو لڑائی جھگڑے کی صورت دیدی تھی۔ اس پر اس کنواری لڑکی نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے میرے خلاف اس طرح کی باتیں کیوں کیں وہ میری ساس نہیں لگتی تھی۔

یہ اس لیے کہ معاشرتی طور پر ہمارے خاندانوں میں ساس کو بڑا درجہ دیا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ جو چاہے کہہ سکتی ہے، جب چاہے ناراض ہو سکتی ہے اور اپنی بہو کا فضیحتا کر سکتی ہے، کسی اور کو یہ حق نہیں ہے۔ اگر ہم اس بے تکلف اظہار اور محاورہ کی سماجیاتی اہمیت پر گفتگو کریں تو ہمارے معاشرہ کی ایک خاص روش سامنے آتی ہے اور گھریلو سطح پر جو حقوق کی سماجی تقسیم رہی ہے اور مختلف رشتوں کے جو معنی ہماری زندگی میں رہے ہیں اس پر ایک عکس ریز روشنی پڑتی ہے۔

سماج متحرک نظر آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے کا عمل جاری رہتا ہے اور رہا ہے۔ محاوروں کی زبان، انداز بیان، زمین زمانہ اور دہن سے ان کا رشتہ محاورات کی لفظی ساخت سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے ایسے سماجی حوالوں سے بھی جو محاورات کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت بہر حال باقی رہتی ہے۔

محاورات کو ہم کئی اعتبار سے دیکھ اور پرکھ سکتے ہیں ان میں سے ایک رشتہ وہ ہے جو لسانیات سے ہے۔ مختلف زمانہ میں ہم اپنی زبان کی جس ساخت اور پرداخت سے زمینی یا زمانی رشتہ رہتا ہے۔ وہ سلسلہ ادبیات، لغت اور شعر و شعور کے دائرہ میں پہنچ کے بدل جاتا ہے اور وقت کے ساتھ بہت لفظ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، متروکات میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک دور کے بعد ہم دوسرے دور میں انھیں استعمال نہیں کرتے۔ زبان و ادب کے رشتہ سے جب ہم اپنی زبان کی لفظیات کو پرکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ گذر جانے والے وقت کے ساتھ اس کے سرمایہ الفاظ میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں، ترک و اختیار کا سلسلہ ہر زمانہ کے بعد دوسرے

زمانے میں واضح یا نیم واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو الفاظ ایک طبقہ کی زبان سے خارج ہو جائیں وہ دوسرے طبقہ کی زبان سے بھی نکل جائیں یا جو ایک شہر کی زبان میں اپنا چلن ختم کر دیں وہ دوسرے شہر کی زبان میں بھی شامل نہ رہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مہذب شہریوں کی زبان اور لفظیات سے جو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہ قصبوں اور ان کی مختلف آبادیوں کے حلقوں میں شامل رہتے ہیں۔

میر انشا اللہ خاں نے خود شہر دہلی کے متعلق یہ کہا ہے کہ فلاں فلاں محلے کی زبان زیادہ صحیح اور فصیح ہے۔ بات ایک شہر سے آگے بڑھ کر دوسرے شہر تک اور شہری حدود سے تجاوز کر کے قصبات اور قصبات سے گاؤں تک پہنچتی ہے تو اس کے دھنک جیسے حلقے بھی اپنے رنگوں کے ساتھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اعضائے جسمانی سے ہمارا جو نفسیاتی اور عملی رشتہ ہے وہ سماجی حقیقتوں کا ترجمان بن جاتا ہے اور اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے جذبات و احساسات یا اس قدرتی ماحول سے جو ہمارا وجود ہے یا ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہم اپنے خیالات اور حالات کو ظاہر کیے جانے اور ان پر گفتگو کرنے نیز ان سے متعلق تبصرہ کرنے میں ہم کیا اور کس طرح مدد لیتے ہیں اور اس معنی میں ہمارا اپنے وجود اور زمانہ موجود سے کیا رشتہ ہوتا ہے اور زندگی بھر بنا رہتا ہے مثلاً آنکھوں کے علاوہ دل سے متعلق ہمارے محاورے اور کہاوتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہماری انسانی اور سماجی نفسیات میں کس نوع کے رشتہ کیا ہیں اور کس طرح کے ہیں اور کس کس سطح کے ہیں۔

اس کے علاوہ ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں وہ ہمارے کام میں آتی ہیں اور ہمارے اپنے ماحول سے ہمارا تعلق ان رشتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جو ان چیزوں میں اور ہم میں ایک دوسرے سے رابطے اور وابستگی کا سبب بنتی ہیں، مثلاً کانٹا جھاڑی دار پودوں کا حصہ ہوتا ہے، نرم کانٹے بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی۔ نیز ایسے کانٹے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی نوکیں مڑی ہوتی ہیں اور ایسی بھی جو لوہے کی باریک کیل کی طرح سخت ہوتے ہیں۔ کانٹوں کے درمیان پھول ہوتے اور پھولوں کے درمیان کانٹے۔ کانٹوں پر طرح طرح کے محاورے ہیں مثلاً ”دل میں کانٹے کی طرح کھٹکنا“، ”کانٹے کی طرح رگ جاں میں اتر جانا“، ”زہر بھرے کانٹے“ وغیرہ وغیرہ یہاں یہ مصرعہ یاد آتا ہے ”زیست کی راہ کانٹوں سے بھر جائے گی۔“ اس موقع پر غالب کا یہ شعر یاد آ رہا ہے۔

ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں
جی خوش ہوا ہے راہ کو پر خار دیکھ کر

یا پھر یہ مصرعہ ہے۔

گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں

اسی طرح ٹھیکرا، پتھر اور درود یوار، جادہ و راہ کون سی شے ہے جو ہماری زندگی کو متاثر نہیں کرتی، ہمارے ذہنوں پر اثر نہیں ڈالتی اور ذہن جب اثرات قبول کرتا ہے تو زبان الفاظ، تشبیہیں، اشعار اور محاورے سب ہی تو اس سے تاثر لیتے ہیں۔ مثلاً آب و رنگ اگرچہ فارسی کے لفظ ہیں لیکن ہماری زندگی ہمارے ذہن اور ہمارے زمانہ کی فکری اور فنی پہلو داریوں سے ان کا گہرا واسطہ ہے۔ اسی کو جب ہم محاورات میں معنی در معنی پھیلتے اور سمٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لفظ ہمارے کب اور کن کن موقعوں پر کام آتے ہیں اور ہمارے مذہب ہماری تہذیب اور ہمارے معاشرہ سے ان کا ذہنی طور پر کیا کیا رشتہ بنتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہماری تہذیبی فکر اور معاشرتی انداز نظر بہت کچھ ہماری زبان کے طابع ہوتا ہے۔ خیال کو جب تک الفاظ اشارات و علامتیں نہ ملیں تو وہ حال میں نہیں بدل سکتا۔ حال کا تعلق خیال سے ہے خیال تصور ہوتا ہے اور حال اس کی تصویر۔

ہم فنون لطیفہ کے ذریعہ بھی اپنی بات کہتے ہیں، اس میں رقص بھی شامل ہے اور موسیقی بھی، اداکاری بھی، مصوری میں رنگ کام آتے ہیں۔ خطوط اور زاویہ ہمارے خیال کو حال میں بدلتے ہیں، خیال کے خاکوں میں رنگ بھرے جاتے ہیں اور اظہارِ ابلاغ کو نئی جہتیں میسر آتی ہیں۔ نقاشی، بت گری اور عمارت سازی کو بھی انھی فکری اور فنی دائروں میں رکھ کر دیکھا جاسکتا ہے۔

شاعری بھی فنون لطیفہ ہی میں سے ہے اور ایک بڑا اور ہمہ گیر تخلیقی فن ہے یہ ایک "Creative" آرٹ ہے۔ اس میں بھی اظہار یا اظہاریت کو لفظ و معنی کی اشاریت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اشاریت سے یہاں مراد وہ کیفیت ہے کہ لفظ یا لفظی ترکیب مختصر ہوتی ہے، جانی پہچانی ہوتی ہے، لیکن انسانی ذہن اور تخلیقی حسیت کے وسیلے سے اس میں نئی نئی وسعتیں گہرائیاں اور رنگارنگی پیدا ہو جاتی ہے جو ہمارے جذبات و احساسات اور ادراک کو اپیل کرتی ہے، معنی نہیں کی طرف لاتی ہے۔

اسی طرح عوامی سطح پر محاورہ ایک طرح کی شعوری کوشش ہوتی ہے جو پھر لاشعوری یا نیم شعوری حالتوں میں بدل جاتی ہے۔ ہمارے ایک وقت کے تجربہ کو ہمہ وقتی صورت دیتی ہے اسی لیے محاورہ وقت کے بعد زمانہ بہ زمانہ اور دور بہ دور اپنی رواجی حالت کو قائم رکھتا ہے اور یہ خصوصیت ہماری اظہاری اُسلوبیات میں صرف محاورہ کو حاصل ہے کہ وہ اپنی لفظیات تلفظ اور ساخت کے ساتھ محفوظ رہتا ہے اور ایک بڑے حسی تجربہ کو اپنے اندر سموئے رکھتا ہے، جب کہ شعر و شاعری اپنا اثر کم کر دیتی ہے اس کے برعکس خاص طور پر محاورے کی دو جہتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہمیشہ کام آتی ہیں، ایک لسانیاتی جہت کہ محاورہ قدیم زبان کے "Shades" اپنے ساتھ محفوظ رکھتا ہے اور ہم محاورہ پر ایک جس بھری نظر ڈال کر قدیم زبان کی پرچھائیوں کو اس میں دیکھ سکتے ہیں اور علاقائی تغیرات کو بھی۔

ہم اپنی زبان کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ ہماری زبان نے جو ایک ملی جلی عوامی اور عمومی بھاشا ہے۔ پنجاب، راجستھان، سندھ، گجرات، مالوہ، دہلی، لکھنؤ اور دوسرے علاقوں کی زبان سے اس نے کیا اثرات قبول کیے ہیں اس سے زبان کی تاریخ کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور اس کی روشنی میں لسانی ساخت کو سمجھا جاسکتا ہے اور اس کے پس منظر میں زبان کے ارتقا کو بھی۔

محاورہ زبان و بیان اور فکر و خیال کے مختلف سلسلوں سے وابستہ ہوتا ہے ان میں زبان کے ادواری اور علاقائی رویہ بھی شامل ہیں محاورہ زبان کے کچھ خاص حصوں کو محفوظ بھی کرتا ہے اور صدیوں تک محاورہ کے ذریعہ زبان کے اس طریقہ استعمال کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر موقع پر محاورہ زبان و بیان میں کوئی حسن پیدا کرے۔ سنجیدہ ادبی زبان کو اب عام محاوروں کے استعمال سے الگ بھی رکھا جاسکتا ہے لیکن طبقاتی زبان میں وہ استعمال ہوتے ہیں اور ہماری تہذیب کے ایک خاص رخ کو پیش کرتے ہیں۔ محاورہ بھی ایک طرح کا استعارہ یا تشبیہ ہے مگر وہ چونکہ منجمد صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے نئے ذہن اور نئی فکر کی ترجمانی محاورہ سے نہیں ہوتی۔ مگر وقت کا ذہن اور زندگی کا ایک طویل تجربہ بہر صورت محاورہ میں موجود رہتا ہے۔

شہر، دیہات اور قصبات کی زبان میں بھی فرق ہوتا ہے اور ایک ہی بڑے شہر کے مختلف طبقوں کی زبان میں بھی محاورے کے استعمال کے لحاظ سے فرق اور فاصلہ ہوتا ہے۔ ہم

محض کسی ایک علاقہ، کسی ایک طبقہ یا پھر کسی ایک شہر یا بستی کی زبان کو کسی بھی بڑی زبان کے رنگارنگ دائروں کا نمائندہ مشکل ہی سے کہہ سکتے ہیں۔ شہروں میں یہ رجحان آتا ضرور ہے اور پڑھے لکھے طبقہ کے لوگ بھی اس سے ماورا نہیں قرار دیے جاسکتے۔ جب کہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ زبان کے الگ الگ رنگ اور ڈھنگ ہوتے ہیں ان میں ہم آہنگی ہو سکتی ہے مگر وہ سب ہم رنگ ہوں یہ ممکن نہیں۔ اب سے کچھ زمانہ پہلے تک دہلی کے لوگ اپنی زبان کو سب سے اچھا کہتے تھے اور ایسا ہی سمجھتے بھی تھے یہاں تک کہ اہل لکھنؤ کی زبان بھی ان کے ہاں سند نہیں تھی۔ یہی رجحان فارسی والوں میں موجود تھا کہ وہ یہ کہتے تھے فارسی ہماری مادری زبان ہے ہمیں وہ زیادہ بہتر آتی ہے خود ایران کے شہروں میں بھی شیراز اور اصفہان کی زبان کو زیادہ صحیح اور فصیح سمجھا جاتا تھا۔

دہلی والے بھی اپنے محلے کی زبان کے بارے میں اسی طرح کی دائرہ بندی کے قائل تھے۔ میر انشا اللہ خاں نے دریائے لطافت میں اس کا اظہار کیا ہے کہ قلعہ جامع مسجد کے آس پاس اور رسید واڑے (محلہ) کی زبان زیادہ صحیح ہے اور اسی کو زیادہ فصیح کہا جاسکتا ہے۔ باڑہ ہندورا اور شہر کی بیرونی بستیوں کی زبان کو وہ محاورہ روزمرہ اور لطف ادا کے اعتبار سے بہت اچھا خیال نہ کرتے تھے اور مردم پیرون جات کی زبان ان کے نزدیک ٹکسالی زبان نہ تھی۔ یہ ایک وقت کا سماجی رویہ ہو سکتا ہے اب یہ الگ بات ہے۔ مگر اس طرح کی دائرہ بندی یا معیار پسندی کو ہمیشہ کے لیے زبان کی ترقی و ترویج کے پیش نظر صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا۔ قوموں اور طبقوں میں یہ رجحان رسم و رواج سے متعلق بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی رسموں اور رواجوں کو چاہتے ہیں۔ پسند کرتے ہیں اور ترک کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔ انہیں ہر تبدیلی ایک طرح کی سماجی بدعت معلوم ہوتی ہے مگر تیز رفتار بدلتی پوری زندگی میں سوچ کا یہ انداز اور دائرہ بندی کا یہ اسلوب دیر تک اور دور تک ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ اگرچہ یہ رجحان موجود ہے اور اس سے پیشتر کم و بیش کافی شدت کے ساتھ موجود رہا ہے۔ محاورہ، محاورہ بندی، با محاورہ زبان اور روزمرہ کی پابندی کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ تاریخ و تہذیب یا دوسرے لفظوں میں سماجیات (Sociology) کا ایک عمل ہے اور اس عمل کا جب ہم لسانی ادبی اور معاشرتی تجزیہ کرتے ہیں، تو بہت سی اہم باتیں اور نکتے ہماری نظر میں اُبھرتے ہیں اور تاریخ کے عمل کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں مثلاً اس اس کرنا (عش عش) کرنا بھی اس ذیل میں آسکتا ہے کہ تلفظ اور املا کے فرق

کو تسلیم کرتے ہوئے ہم محاورہ کا استعمال اور لغت و تحریر میں اس کی نگارش کو سامنے لاتے ہیں، اس اعتبار سے زبان کے سماجی رشتوں اور لسانی رابطوں کی تفہیم میں محاورہ یہ کہیے کہ غیر معمولی طور پر معاون ہوتا ہے۔

ہم اس سلسلے میں آگ سے متعلق محاورہ کو بھی پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔ آگ پر بہت محاورے ہیں اس لیے بھی کہ آگ انسانی زندگی میں پانی کے بعد سب سے زیادہ داخل ہے۔ آگ سے بڑی ایجاد یا دریافت شاید ابھی تک نہیں ہوئی۔ انسان کو جنگل کی زندگی کی آفتوں سے آگ ہی نے پناہ دی اس کی غذائی ضرورتوں کو ایک خاص انداز سے پورا کرنے میں آگ ہی شریک رہی۔ آگ کو انسان نے اپنا خداوند بھی قرار دیا اور اس کی طرف ہمارے مقدس صحیفوں میں اشارے بھی ملتے ہیں۔

آتش کدے قدیم زمانہ سے ہماری عبادت گاہیں رہے ہیں اور آج بھی ہیں مختلف مواقع پر آگ ہماری مذہبی رسومات میں شامل رہتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو چیز ہماری زندگی میں فطری طور پر شریک ہے یا کسی وجہ سے ہماری معاشرت کا حصہ بن گئی ہے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور جب وہ ہماری نفسیات کا جز بن جاتی ہے، تو ہم اس سے متعلق محاورات کی بھی تشکیل کرتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ہماری زبان سے کوئی ایسا فقرہ یا کلمہ ادا ہوتا ہے جس کو ہم معاشرہ میں رواج پاتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی محاورہ بن جاتا ہے۔ اور اس میں کچھ ایسی پہلو داری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سماج کے ذہنی رویہ کی نمائندگی کرتا ہے کہ اس خاص معاملہ میں اس طرح سوچا اور سمجھا گیا۔ اور پھر وہ رواج عام یا سماجی فکر کا حصہ بن گیا۔

عجیب بات ہے کہ زیادہ تر محاورہ سماجی رویوں پر تنقید ہیں اور ہم نے کبھی اس رشتہ یا زاویہ سے ان کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی جیسے اُلٹی گنگا پہاڑ کھویا، اُلٹی گنگا بہا، اُلٹی مالا پھیرنا بھی اسی ذیل میں آتے ہیں۔

اصل میں ہم ایسی تنقیدیں کم کرتے ہیں جو شخصی ہوتی ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں ایک یہ کہ ہم شخصی طور پر دوسرے سے برا بننا نہیں چاہتے اور اس کے مخالفانہ رویہ کو دعوت دینا اس لیے پسند نہیں کرتے کہ اس سے ہماری سماجی الجھنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے قریب تر افراد کو برا کہنا اسی لیے avoid کرتے ہیں کہ پھر قربت میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور اتفاق اختلاف

میں بدلتا ہے، اسی لیے ہم صرف اپنے دشمنوں کو برا کہتے ہیں اور بات بات میں برا کہتے ہیں کہ ہمارا مخالفانہ جذبات اس طرح تسکین پاتے رہتے ہیں اور تاہم غیر ضروری طور پر اپنی مخالفت کے دائرہ کو بھی بڑھنے سے روک دیتے ہیں، مگر برا حال ہم سب ہی کو کہتے ہیں اور اس کے لیے محاورے کا سہارا لیتے ہیں۔ اس طرح محاورہ ہماری زبان کی تیزی ہمارے لب و لہجہ کی چھن اور ہمارے طنز یہ فقرات کی زہرنا کیوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس معنی میں محاورہ طنز و تعریض کے موقع پر بہت کام آتا ہے۔ ذکر اور اپنے اظہارِ خوشی ذکر و ملال اور اپنے ذاتی غمنوں یا دکھوں کے اظہار و ابلاغ میں بھی غیر معمولی مدد دیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو شاعری کرتی ہے مگر شعر و شاعری سے سب لوگ کام نہیں لے سکتے اور جو کام لیتے ہیں وہ بھی ہر وقت نہیں لے سکتے۔ ایسی صورت میں محاورہ ہمارے جذبات و احساسات اور فکر و خیال کی نمائندگی اور جذبات کی ترجمانی اس طرح کر جاتا ہے کہ بات بھی کہہ دی جاتی ہے اور اس پر پردہ بھی پڑا رہتا ہے۔

شہری زندگی میں زبان کے طرح طرح سے تجربہ کیے جاتے ہیں اور سطح پر اس کے اثرات اور امکانات کو آزمایا جاتا ہے۔ شہری معاشرہ میں ذہن و زندگی میں جو تہہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، پیچ و خم جنم لیتے ہیں اور طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور معاملہ کرنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شہری زبان میں نئے نئے پرت پیدا ہوتے اور نئے نئے پہلو اُبھرتے رہتے ہیں۔ شہر ایک بڑی آبادی کے طور پر برابر حرکت میں رہتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرنے والا ایک انگریزی محاورہ ہے، اس تحرک سے جس میں تسلسل بھی ہوتا ہے *Acity in the motion* زبان پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسے شہری زبان اس کی لفظیات اس کے محاورے روزمرہ نیز اس کے لب و لہجہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ شہر والے اپنی زندگی میں امتیاز کے جواز اور پہلو پیدا کرتے رہتے ہیں ان میں وہ اپنی زبان کو بیشتر اپنی امتیازی روش و کشش کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہر دور اور ہر ملک کی شہریت کا اپنا تہذیبی رویہ ہوتا ہے۔ جو اس کی معاشرتی فکر کی نمائندگی کرتا ہے۔

ہم دہلی، لکھنؤ، لاہور، حیدرآباد، اور بعض دوسرے شہروں کی نسبت سے اپنی ادبی اور لسانی تاریخ میں اس کا مطالعہ اور تجربہ کرتے آئے ہیں۔ دہلی اور لاہور میں بیٹھ کر اہل ایران سے اپنے امتیازات کا اظہار کرتے تھے اور دہلی والے لکھنؤ اور حیدرآباد میں بیٹھ کر۔ جب ہی تو ہم داغ کو یہ کہتے ہلوئے دیکھتے ہیں۔

دلی نہیں دیکھی ہے زبان داں یہ کہاں ہیں
اور داغ کا یہ شعر تو اس موقع پر بے اختیار یاد آتا ہے۔

اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ
سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے

محاورے ہماری ذاتی اور معاشرتی زندگی سے گہرا رشتہ رکھتے ہیں۔ محاوروں میں ہماری نفسیات بھی شریک رہتی ہیں ان کی طرف ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا کہ یہ ہماری اجتماعی یا انفرادی نفسی کیفیتوں کی آئینہ دار ہے اسی طرح ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا کہ یہ ہماری اجتماعی، انفرادی نفسی کیفیتوں کی آئینہ داری ہے۔ اسی طرح ہمارے اعضا ہاتھ، پیر، ناک، کان اور آنکھ بھوں سے ہمارے محاورات کا گہرا رشتہ ہے مثلاً ”آنکھ آنا“، ”آنکھیں دیکھنا“، ”آنکھوں میں سمانا“ اور ”آنکھوں میں کھٹکنا“ یہ محاورے مختلف المعنی ہیں اور کہیں کہیں ایک دوسرے سے تضاد کا رشتہ بھی رکھتے ہیں۔

آنکھ سے متعلق کچھ اور محاورے یہاں پیش کیے جاتے ہیں ”آنکھ اٹھانا“، ”آنکھ اٹھنا“، ”آنکھوں کی ٹھنڈک“ آنکھ پھوڑٹنا، ”آنکھیں ٹیڑھی کرنا“ آنکھ بدل کر بات کرنا، ”آنکھوں میں رات کاٹنا“، ”آنکھوں کا نمک کی ڈلیاں ہونا“، استعارات انداز بیان ہے جس کا تعلق ہماری شاعری سے بھی ہے اور سماجی شعور سے بھی۔ یہ بے حد اہم اور دلچسپ باتیں ہیں۔ ”آنکھ بدل کر بات کرنا“ ناگواری، ناخوشی اور غصہ کے موڈ میں بات کرنا ہے، جو آدمی اپنا کام نکالنے کے لیے بھی کرتا ہے۔ آنکھیں اگر تکلیف کی وجہ سے تمام رات کڑواٹی رہیں اور ان میں برابر شدید تکلیف ہوتی رہی تو اسے ”آنکھوں کا نمک کی ڈلیاں ہونا“ کہتے ہیں یعنی تکلیف کی انتہائی شدت کو ظاہر کرنا۔ ”آنکھیں پتھر انا“ اس کے مقابلہ میں ایک دوسری صورت ہے یعنی اتنا انتظار کیا کہ آنکھیں پتھر ہو گئیں۔ ”آنکھوں میں رات کاٹنا“ بھی انتظار کی شدت اور شام سے صبح تک اسی حالت میں رہنے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو گویا رات کے وقت انتظار کرنے والے کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ ”آنکھ لگنا“ سو جانا اور کسی سے محبت ہو جانا جیسے میری آنکھ نہ لگنے کی وجہ سے میرے یار دوستوں نے اس کا چرچہ کیا کہ اس کا دل کسی پر آ گیا ہے اور کسی سے اس کی آنکھ لگی ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ جانے ہماری کتنی باتوں کو ذہنی حالتوں کو صبح و شام کی وارداتوں کو اور زندگی کے واقعات کو ہم نے مختصراً محاورہ میں سمیٹا ہے

اور جب محاورہ شعر میں بندھ گیا تو وہ ہمارے شعور اور ذہنی تجربوں کا ایک حصہ بن گیا۔
 محاورہ جن الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے وہ مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے کہ
 ہمارا ہر طبقہ اپنے اپنے ماحول زندگی اور ذہن کے مطابق الفاظ استعمال کرتا ہے۔ سب کے پاس
 نہ ایک سے الفاظ ہوتے ہیں نہ ایک سا تجربہ ہوتا ہے نہ ایک سی ذہنی سطح ہوتی ہے۔ اسی لیے
 محاورہ بھی ان کی لفظیات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے مثلاً خوشی کے محاورے الگ
 ہوتے ہیں۔ غم و الم کے مواقع سے نسبت رکھنے والے محاورے الگ شادی بیاہ سے تعلق والے
 الگ اور شادی بیاہ کے رسومات سے متعلق محاورے جدا، مثلاً ”بیل پڑنا“ جب بدھاوے یا
 ڈومنیوں کے گانے بجانے سے تعلق سے بات کی جاتی ہے تو ان کو پیسے دینے کا ذکر خاص طور پر
 آتا ہے اور یہ طبقہ اُسے ”بیل پڑنا“ کہتا ہے۔ اس موقع پر خاکروب عورتوں کا ناچ قصبوں میں
 بدھاوا کہلاتا ہے اب بدھاوے کی رسم بھی ختم ہو گئی ڈومنیوں کا ادارہ بھی باقی نہ رہا تو بیل پڑنے کا
 محاورہ اب زبانوں پر نہیں آتا۔ اس لیے کہ محاورات کا استعمال ہماری رسموں اور رواجوں کے
 مطابق رہا ہے، وہ رسمیں ختم ہوئیں، وہ رواج باقی نہ رہے تو وہ محاورے بھی ہماری زبان سے
 خارج ہو گئے۔ لیکن قدیم ادب میں اور پرانے لوگوں کی زبانوں پر جب یہ آتے ہیں تو ہمارے
 سماج کی رنگارنگ تاریخ پر اپنے انداز سے روشنی ڈالتے ہیں اور اس سے ان کی افادیت کا پتہ
 چلتا ہے مثلاً بعض محاورے ایسے کھیلوں سے متعلق ہیں جن میں چانس (اتفاق) زیادہ اہم
 کردار ادا کرتا ہے۔ چوپڑا ایسے ہی کھیلوں میں سے ہے اور ہم بطور مثال پانسہ پھینکنے کو پیش
 کر سکتے ہیں، ”پانسہ پلٹنا“ بھی اسی سلسلے سے وابستہ ایک محاورہ ہے۔ ان محاورات سے جب ہم
 گزرتے ہیں تو معاشرہ کا وہ ذہنی رویہ بھی سامنے آتا ہے جو تقدیری امور یا ہماری قسمت پرستی
 سے وابستہ ہے۔

ہمارا معاشرہ تقدیر پرست ہے اس لیے ہر بات کو قسمت سے وابستہ کرتا ہے۔ یہاں
 تک کہ ”پانسہ پلٹنا“ بھی قسمت ہی سے وابستہ ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جنگ کا پانسہ پلٹ گیا
 یعنی ہار فتح میں اور فتح شکست میں بدل گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے محاوروں میں کیا
 کچھ کہا گیا ہے اور کس کس صورت حال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے محاورہ کا رشتہ تہذیب و سماج
 سے ہوتا ہے، صرف لغت سے نہیں ہوتا۔

ہمارے زیادہ تر کام معاملات اور معمولات سماجی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں اور

ہماری انسانی کمزوریاں بھی انسان کے سماجی وجود سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ محض انسانی خوبیاں یا کمزوریاں ہوتیں تو وہ سب میں مشترک ہونی چاہیں تھیں۔ اگر کچھ لوگ مختلف ہیں اور کچھ قومیں مختلف ہیں تو یہ سوچنا پڑتا ہے اس کی وجہ تاریخ ہے، تہذیب ہے، پیشے یا پھر عام سماجی رویہ ہیں۔ ان کو پیدا کرنے اور قبول کرنے میں بھی سماج شریک رہتا ہے اگر ہم کسی کے شکر گزار نہیں ہوتے صرف شکوہ سنج ہوتے ہیں تو دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق سماج سے ہے یا پھر ایک فرد سے اگر بہت سے لوگ ایک ہی عادت ایک ہی جیسا مزاج اور رویہ رکھتے ہیں تو پھر اس کا تعلق فرد سے نہیں ہے معاشرہ سے ہے۔ اسے کسی انسان کے لیے ذاتی یا انفرادی نہیں کہا جاسکتا۔

اعضائے جسمانی میں بہت سے عضویے ہیں جو محاورات میں شامل ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اپنے وجود کو یا انسانی وجود کے مختلف حصوں کو اپنی سوچ میں شامل کر رکھا ہے اور ان کو اپنی سوچ کے مختلف مرحلوں اور تجربوں میں اظہار کا وسیلہ بنایا ہے اس میں زبان بھی ہے ہاتھ پیر بھی ہیں اور تن پیٹ بھی ہے۔

یہاں اس امر کی وضاحت کر دی جائے تو نامناسب نہ ہوگا کہ محاورہ سادہ الفاظ میں ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے معنی لغت یا قواعد کے تابع نہیں ہوتے، وہ ایک طرح کے استعارہ یا کنایہ ہوتا ہے اور بولنے والا اسے ایک خاص معنی اور مفہوم کے ساتھ استعمال کرتا ہے عام لفظی معنی اس کے نہیں ہوتے۔

زبان میں محاورے کے کثرت استعمال کی وجہ سے اس میں کوئی ندرت یا جدت نظر نہیں آتی لیکن محاورہ بنتا ہی اس وقت ہے جب اس میں استعاراتی یا علامتی اظہار شامل ہو جاتا ہے۔ استعارہ دراصل زبان کا وجہ استعمال ہی نہیں اسے عام رویوں عمومی لفظیات اور انداز سے قریب تر کرتا ہے اور استعمال ہی کی وجہ سے طبقہ در طبقہ اور شہر بہ شہر اور بعض صورتوں میں محلہ در محلہ کچھ امتیازات کے پہلو بھرتے ہیں اور استعمال ہی سے دائرہ بند زبان عوام کے درمیان پہنچتی ہے اور اپنے استعمال میں ایک انفرادیت اور اجتماعیت پیدا کرتی ہے۔

محاورہ کسی ایک کا نہیں ہوتا سب کا ہوتا ہے اور سب کے لیے ہوتا ہے اور سب کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی یہ عمومیت ہی زبان ادب اور لسانیت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا پہلو یہ ہے کہ یہ زبان میں تسلسل کی روایت کو قائم

رکھنے میں ایک مسلسل اور خاموش کردار یہ ہے کہ ایک دور کے بعد دوسرے دور میں اور ایک دائرہ فکر و نظر کے بعد دوسرے دائرہ میں محاورہ کام کرتا ہے، لغت کا بھی حصہ بنتا ہے ادب و شعر کا بھی اور تہذیب و روایت کا بھی۔

محاورہ کی تہذیبی، تاریخی اور معاشرتی اہمیت پر جو گفتگو کی گئی ہے وہ ہر اعتبار سے ضروری نہیں کہ کافی و شافی ہو اس میں اور بہت سے پہلو بھی ہو سکتے ہیں مثلاً لسانی پہلو جس کی طرف راقمہ نے بھی اشارہ کیا ہے یا تاریخی پہلو کہ وہ بھی راقمہ کی نظر میں رہے ہیں لیکن یہ خوفِ طوالت ان پر کوئی تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ محاورات کا طبقاتی مطالعہ بھی ہو سکتا ہے، راقمہ نے بھی موقع بہ موقع اس کی طرف اشارے کیے ہیں۔

زبان و محاورات کی علاقائی تقسیم بھی ایک دائرہ فکر و خیال بن سکتی ہے کہ کون کون محاورات کس علاقہ سے بطور خاص تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ شہری، قصبائی اور دیہاتی سطح پر محاورات اپنے اپنے دائرہ میں کیا رنگ اور آہنگ رکھتے ہیں اور ان کی لسانی اور تہذیبی اہمیت کیا ہے۔

محاورات کی ایک عمومی حیثیت ضرور ہے لیکن ہماری زبان ہماری شاعری اور ادب نگاری کی طرح محاورے کے مطالعہ کی بھی ایک سے زیادہ جہتیں ہو سکتی ہیں۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور جہت کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری زبان، اس کی لفظیات، اس کے پس منظر میں موجود کلچر کی ایک اساسی حیثیت ہے، جس نے زبان کی فکری نہج کو بھی متاثر کیا اس کی لفظیات کو اور ادبیات کو کبھی اس طرح کے حلقے ہماری زبان اس کی لسانی ساخت، تہذیبی پس منظر اور محاوراتی سلیقہ اظہار پر بھی زمانہ بہ زمانہ اور حلقہ در حلقہ دور رس اور دیر پا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان میں پہلا عرب ایرانی حلقہ تہذیب و لسانیات ہے جس کا اثر ہم اپنی زبان پر دیر تک اور دور تک دیکھتے ہیں۔

سندھ گجرات اور مالا بار کا علاقہ وہ علاقہ ہے جس سے عرب و عجم کا رشتہ بہت قدیم ہے۔ عجم ہم عام طور پر ایران کو کہتے ہیں لیکن اس میں عراق بھی شامل ہے، اس علاقہ سے مغربی ہندوستان اور جنوب مغربی ایشیا کا جو تعلق ہے وہ بہت قدیم ہے جن کا اثر یہاں کی زبان یہاں کے شعر و شعور اور تہذیبی اندازِ نظر پر بھی مرتب ہوا ہے ان علاقوں کی زبانوں میں جو عربی فارسی اور اُردو کے الفاظ ملتے ہیں ان میں محاورے بھی شامل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان محاوروں کا اس

لسانیاتی تاریخی اور پس منظر سے کیا رشتہ ہے۔ علاوہ بریں ترکوں، منگولین اور ترک و تاتاری علاقہ سے بھی ہمارا ہزاروں برس پرانہ رشتہ ہے۔ آریہ سینٹرل ایشیا ہی سے آئے تھے اور ان کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ قدیم آریاؤں کے بعد اس علاقہ میں بسنے والی قومیں اور قبیلے وسطی عہد میں بھی اپنے اپنے علاقوں سے اس پر ہندوستان آئے اور یہاں آباد ہو گئے۔

ہم یہ کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ وسطی عہد کے بہت سے حکمران خاندانوں کا نسلی رشتہ مرکزی ایشیا سے وابستہ رہا ہے۔ اس علاقہ میں ترکوں منگولین یا ترک و تاتاری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہی بولیاں یا زبانیں آئیوالوں کے ساتھ شمال ہندوستان کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئیں تو اپنی زبانوں سے ایک لمبے عرصہ تک ان کا رشتہ باقی رہا اور اس کا اثر ہماری علاقائی بولیوں پر بھی مرتب ہوا۔ ہمارے کچھ محاورے ایسے بھی ہیں جو اس علاقہ کی دین ہیں یا پھر اس کے اثرات سے متاثر ضرور ہیں۔

ہم یہ بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ ہماری ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جن کا مرکزی ایشیا سے وابستگی رکھنا ہے اور ان کہانیوں کے جغرافیائی ماحول میں بھی یہ علاقہ اور ان کے جغرافیائی اور تاریخی آثار شریک ہیں۔ ایسی صورت میں محاورہ کا کم از کم علاقائی محاورہ پران کے اثرات کا مرتب ہونا ایک فطری عمل ہے اس پر مزید کام کرنے اور بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔

ہماری زبان اور اس سے وابستہ بولیوں کا سرچشمہ اور اس سے پھوٹنے والی مختلف شاخیں یا فروغ پذیر ہونیوالی بولیاں، علاقائی زبانوں کو متاثر بھی کرتی رہتی ہیں اور ان سے تاثر بھی لیتی رہی ہیں پنجابی یا لاہوری زبان بھی اس میں شامل ہے۔ راجستھانی بھی اس سے ایک گہرا رشتہ رکھتی ہے۔ میواتی، کھڑی بولی اور دہلی میں بولی جانے اور رواج پانے والی بولیوں کو بھی اس سے الگ نہیں کیا جاسکتا اور برج کے علاقہ کی برج بھاشا کی بولی کو بھی یہ تو وہ بولیاں ہیں جن سے شمال مغربی ہندوستان میں اُردو بنی اور صدیوں تک متاثر ہوتی رہی۔ اس میں فارسی کو بھی ایک اہم سرکاری درباری انتظامی اور ثقافتی حیثیت سے شامل رکھیے۔

اُردو کی پرورش و پرداخت دکنی زبان کی حیثیت سے صدیوں تک دکن میں بشمولیت گجرات ہوتی رہی۔ یہاں کی اپنی بولیاں دراوڑ نسل کی زبانیں تھیں جن میں ہم مہاراشٹری یا مراٹھی کو بھی صرف نظر نہیں کر سکتے۔ ان بولیوں کا اثر دکنی اُردو نے قبول کیا۔ اور دکنی اُردو کے

محاورے اور لفظیات پر جو اثرات دکنی بولیوں کے تھے اس کا اثر شمالی ہند کی بولیوں میں بھی آ گیا، اس میں تجارت پیشہ لوگوں کے آنے جانے کو بھی دخل تھا اور فوجوں کی تاریخ بھی اپنے طور پر جس طرح کام کر رہی تھی اس کا عمل جو ہماری تہذیبی زندگی کو متاثر کرتا رہا اسی اعتبار سے زبانیں بھی اس کا تاثر قبول کرتی رہیں۔ ادیبوں شاعروں اور صوفیوں کے ہاں ہم اس تاثر کو زیادہ آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔

خانقاہوں کا اثر غیر معمولی ہے جو شمال و جنوب میں یکساں طور پر دیکھا جاسکتا ہے لیکن جس زمانہ میں دکنی زبان میں قدیم اُردو لٹریچر کے نمونے سامنے آ رہے تھے اس دور میں شمالی ہندوستان میں اُردو شاعری کی مثالیں نہیں ملتیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہلی کے آس پاس جو زبانیں بولی جا رہی ہیں ان میں شاعری اچھے خاصے پیمانہ پر ہو رہی ہے۔ ان زبانوں میں پنجابی اور راجستھانی زبان کے علاوہ برج اور اودھی شامل ہے، ان زبانوں یا بولیوں کا شعری ادب مسلمان قوموں کا اپنا تخلیقی ادب بھی ہے اور بڑے پیمانے پر ہے۔ ان کے مطالعہ سے ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں اور نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ایک طرح اور ایک سطح پر زبان آگے بڑھتی رہی ہے اور نئی نمود حاصل کر رہی ہے۔

محاورہ اس دور زندگی کی بہر حال لسانی یادگار ہے اور ان کے ادبی لسانی اور تہذیبی اثرات محاورے میں بھی سمیٹے ہوئے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ Preseved صورت میں ہیں ان بولیوں سے تقابلی مطالعہ کا وسیلہ اختیار کر کے ہم اُردو محاورات کا مزید تہذیبی اور لسانی نقطہ نظر سے کام کر سکتے ہیں۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اہل نظر اور اصحاب خیر افراد اس طرف توجہ فرما ہوں جس سے اس نوع کے مطالعہ کی اہمیت سامنے آئے اور اس کے مختلف گوشے جواب تک نظرداری کی روشنی سے محروم ہیں ان کی طرف توجہ مبذول ہو۔ توقع کی جاسکتی ہے کہ ہمارے نئے لکھنے والے اور سینئر ادیب اس مسئلہ کی طرف خاطر خواہ توجہ دے کر بات کو آگے بڑھائیں گے اور مطالعہ کی نئی صورتیں سامنے آئیں گی اور آتی رہیں گی۔



اردو محاورات کا
تہذیبی مطالعہ

ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی



ہماری دیگر کتب

- اردو شاعری کا سیاسی اور تاریخی پس منظر
- اقبال دشمنی۔ ایک مطالعہ
- اردو کہاوٹیں اور ان کے سماجی و لسانی پہلو
- داستان اقبال
- میر تقی میر۔ میر شناسی منتخب مضامین
- محمد اسد۔ بندۂ صحرائی
- محمد حسین آزاد (انتخاب مضامین)
- استاذ الاساتذہ (مولوی محمد شفیع)
- مولانا غلام رسول مہر حیات و آثار
- ہمایوں نامہ
- ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی
- پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر
- ڈاکٹر یونس اگاسکر
- ڈاکٹر صابر کلوروی
- ڈاکٹر تمسین فراقی + ڈاکٹر عزیز ابن الحسن
- مرتب: محمد اکرام چغتائی
- محمد اکرام چغتائی
- مرتب: محمد اکرام چغتائی
- ڈاکٹر محمد آصف اعوان
- گلبدن بیگم بنت باہر بادشاہ

فصلی

فصلی پبلسنگس پرائیویٹ

اردو بازار، نزد پلو پور پاکستان، کراچی۔
فون: 32212991-32629724

کتاب سرائے



پبلشرز: انٹرنیٹ اور ایڈیٹنگ سروسز

انٹرنیٹ: قریبی طریقہ: اردو بازار لاہور۔ پاکستان
فون: 0092-42-37239884-37320318
ای میل: kitabsaray@hotmail.com